

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کہ دین نامت افتان افضل  
ایز و نشان تحفه عجا رب و صد غرا رب الی اللہ  
مقبول بارگاہ شہ نومین حضرت محمد  
مسکتی بہ

# صَّحَابَةُ الرَّسُولِ

الجزء التاسع عشر ۱۹

فِي آيَاتِهِ وَبَشَارَاتِهِ ﷺ

أَرْضَى عَلَيْهِ خَلْقُ الْجَنَّةِ وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ

حضرت خواجہ نوجگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط وَبِوَهَّاجِ بِسْمِ

لے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بوسیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو روشن چراغ ہے اور بوسیدہ "بسم اللہ

اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط وَبِرَهَّاجِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ

الرحمن الرحيم " کے جو نورانی جوہر ہے۔ اور بوسیدہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کی برسات کے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ط الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ط إِيَّاكَ تَعْبُدُوا

کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لے ان صفات کمال والے تم تیری ہی

إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ط اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ط صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں راہ راست پر چلا۔ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے

عَلَيْكُمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ط آمِينَ ط وَكَأَيُّنْ مِنْ دَابَّةٍ

انعام فرمایا غضب کئے ہوؤں اور بھٹکے ہوؤں کی۔ آمین۔ اور کتنے جاندار ہیں کہ

لَا تَحِبُّ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ط وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط اللَّهُمَّ إِنِّي

اپنی روزی نہیں اٹھاتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہی سننے، جاننے والا ہے۔ لے اللہ

أَسْأَلُكَ بِدَقَائِقِ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الْمِتْلَاطِمَةِ أَمْوَاجَهَا فِي بَحْرِ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظہیل قرآن عظیم کے باریک و لطیف معانی کے جن کی موجیں باہم تلاطم نصیتر ہیں

بِاطْنِ خَزَائِنِ عَلَيْكَ الْمَخْرُوجُونَ وَبِآيَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ الزَّاهِرَاتِ عَلَى

تیرے مخفی علم کے خزانوں باطنیہ کے سمندر میں اور بظہیل اس کی آیات بینہ کے جو رونق افراء ہیں تیرے

مَظْهَرِ إِنْسَانٍ عَيْنِ سَبْرِكَ الْمَصُونِ أَنْ تَذْهَبَ عَنَّا ظِلَامُ الْفَقْدِ بِنُورِ

مخفوظ راز کی آنکھ کی پتلی کے مظہر و منظر پر کہ تو دور فرمائے ہم سے تاریکی و ظلمت نیستی و

أَنْسِ الْمُحَمَّدَ وَأَنْ تَكْسُوْنَا مِنْ حُلِّ صِفَاتِ كِبَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

علم کی بظہیل محمد کریم علیہ السلام کے نور انس و الفت کے اور ہمیں پہنائے سیدنا محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورُ الْجَلَالَةِ وَأَنْ تُسْقِينَا مِنْ كَوْثَرٍ مَعْرِفَتِهِ رَاحِيَتٍ

علیہ وسلم کے صفات کمال کی خلعتوں سے۔ نور جلالت کی خلعت اور ہمیں پلانے ان کی معرفت کے حوض کوثر سے رسالت

تَسْلِيمٍ تَسْنِيمٍ شَرَابِ الرِّسَالَةِ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝ هُوَ الَّذِي

کا شراب تسنیم اور شراب تسلیم ساتھ آیات اور ذکر حکیم کے وہی اللہ ہے جو

يُنزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ

نازل فرماتا ہے اپنے خاص عبد پر آیات بینات تاکہ تمہیں نکالے ظلمتوں سے نور کی طرف اور بے شک

اللَّهُ بِكُمْ لَرَّوْفٌ رَحِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْهَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

اللہ تمہارے ساتھ مہربان، رحم فرماتے والے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بھفیل محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝

علیہ وسلم کے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي

آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا کہ " اے کفار اگر تم

رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تردد میں ہو (اس کتاب سے) جو ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل فرمائی تو لے آؤ ایک سورت اس کی مانند۔ اے اللہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ جن کے حق میں تو نے فرمایا

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پس تحقیق اسی نے نازل فرمایا قرآن مجید کو آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے جبکہ وہ تصدیق کرنا ہے

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ

پہلی کتابوں کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور البتہ تحقیق نازل میں ہم نے آپ کی طرف آیات بینات۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ

اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا اور جبکہ آئے ان کے پاس عظیم رسول

عِنْدَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو تصدیق کرنے والے ہیں ان تمام احکام کی جو ان رسولوں کے ساتھ تھے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا "بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ

بِشَيْرٍ أَوْ نَذِيرًا ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "دعائے خلیل کی حکایت کرتے" لے ہمارے رب ان میں مبعوث فرمائیں میں سے عظیم رسول

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا

کی آل اطہار پر جن کے حق میں فرمایا "جیسے کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر رسول

مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تمہیں سے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا۔ وہ عظیم انسان آیات اللہ کی طرف سے

تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور بیشک آپ برحق رسول میں سے ہیں۔ لے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے حق میں

فِي حَقِّهِ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

تو نے فرمایا۔ اللہ نے آپ پر نازل فرمائی کتاب حق کے ساتھ جبکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ

جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا "اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیات

مُحْكَمَاتٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

واضح وادوالی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

پر جس محبوب کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قُلْ أَطِيعُوا

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا "فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ

اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۝

کی اور رسول اللہ کی پس اگر وہ پیٹھ پھیری تو بیشک اللہ نہیں پسند فرماتا کافروں کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

حق میں اللہ نے فرمایا۔ پھر آئے تمہارے پاس تمہاری تصدیق کرنے والا رسول تو ضرور ایمان لاؤ گے

بِهِ وَلِتُنصَرِفَنَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان کے ساتھ اور ان کی امداد کرو گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

پر جس محبوب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی تاکہ

تُرْحَمُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تم پر رحم کیا جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ

جس محبوب کے متعلق اللہ نے فرمایا "اور نہیں محمد علیہ السلام مگر رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے

الرُّسُلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بہت رسول۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرِكُمْ اللَّهُمَّ

جس محبوب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے فرمایا "اور رسول گرائی تمہیں پکارتے تھے آخری صفوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں اللہ نے

اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَبَارِحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ لَأَكْفُرْنَا بِهِ لَأُعَذِّبَنَّهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فرمایا "پس آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم خو ہو گئے ہیں اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

"جگہ بھیجا ہم نے ان میں رسول انہیں میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا۔ جن مجاہدین نے دعوت

لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

منبول کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ

جن کے حق میں اللہ نے فرمایا "جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے داخل فرمائیں گا

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرٌ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَجَدْنَا بِكَ عَلَى

اور آپ کی آل پر جن کے متعلق اللہ نے فرمایا "اور لائیں گے ہم آپ کو

هُوَ آءِ شَهِيدًا ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان پر گواہ بنا کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۗ اللَّهُمَّ

پر کہ جس محبوب کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ نے ان کے حق میں فرمایا

فِي حَقِّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

اور جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ

اللہ نے فرمایا اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر اور کافی ہے اللہ تعالیٰ اس پر گواہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے حق میں

اللَّهُ فِي حَقِّهِ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ نے فرمایا "اور جس نے رسول کو اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

” بیشک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جو حق کے ساتھ متصف ہے تاکہ تم لوگوں میں فیصلے فرماؤ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے حق میں اللہ

حَقِّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

نے فرمایا ” اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور تمہیں بتلادیا جو کچھ نہیں جانتے تھے (غیب و احکام شرع)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

حق میں فرمایا اور جو مخالفت کرے رسول اللہ کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد (تو اسے جہنم واصل کریگا)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ

متعلق فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور کتاب پر

الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو اس کے رسول اللہ پر نازل فرمائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ

آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا ” لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ساتھ اس کے

إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو آپ پر نازل کیا۔ اسے نازل فرمایا اپنے علم کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ

کی آل پر جس محبوب کے متعلق فرمایا "تحقیق آئے تمہارے پاس رسول اللہ

بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

حق کے ساتھ موصوف ہو کر تمہارے رب کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ

پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا "تحقیق آئے تمہارے پاس مجسم برہان و دلیل تمہارے رب کے پاس سے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب

قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

کے متعلق تو نے فرمایا " اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف واضح نور مجسم کو" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَلَا تَزَالُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا " اور آپ ہمیشہ

تَنْظُرُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

مطلع ہوتے رہو گے (منافقین) کی طرف سے خیانت پر ماسوائے قلیل افراد کے پس ان سے درگزر فرماؤ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق

حَقِّهِ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يَبِيْنٌ لَكُمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

تو نے فرمایا " اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آگئے جو تمہارے لیے وضاحت فرماتے ہیں۔ اے

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق

فِي حَقِّهِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَّ كُتُبٌ مُّبِيْنَةٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

تو نے فرمایا " تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مجسم نور اور واضح کتاب۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ اللهُ فِيْ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں فرمایا اللہ تعالیٰ

حَقِّهِ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فِتْرَةٍ

نے اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے ہمارے رسول جو راہ حق واضح کرتے ہیں تم پر رسول کرام

مِّنَ الرَّسُلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

کے زماں فرزت میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ اللهُ فِيْ حَقِّهِ فَاِنْ جَاءُوكَ فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضْ

پر جس محبوب کے متعلق فرمایا "پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ

عَنْهُمْ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

موڑ لو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِيْ قَالَ اللهُ فِيْ حَقِّهِ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا "اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب جو حقانیت وال ہے تصدیق کرنیوال

لِمَا بَيَّنَّ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہے اس سے اگلی کتابوں کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ اللهُ فِيْ حَقِّهِ اِنَّمَا وَّلِيُّكُمْ اللهُ وَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا "دوست تمہارا اللہ ہی ہے اور

رَسُولُهُ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کے رسول۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِيْ قَالَ اللهُ فِيْ حَقِّهِ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولَهُ اللّٰهُمَّ صَلِّ

جن کے متعلق فرمایا "اور جس نے دوستی کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے" اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ اللهُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا

فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

لے رسول گرامی پہنچائیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے متعلق تو نے فرمایا

حَقِّهِ وَكَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اگر وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور نبی اکرم کے بعد جو کچھ ان پر نازل کیا گیا۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق اللہ نے فرمایا

حَقِّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَاحْذَرُوا اللَّهَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اور احتیاط کرو۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأُوحِيَ إِلَيَّ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا "اور وحی کیا میری طرف

هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں ساتھ اس کے تمہیں اور جن تک یہ پہنچے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ هَذَا كِتَابٌ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق فرمایا یہ وہ کتاب ہے

أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ

جو ہم نے نازل کی۔ وہ بابرکت ہے۔ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی اور تاکہ تم ڈراؤ اہل مکہ کو اور اسکے

حَوْلَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور اگر دوالوں کو۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ الْمَصِّصِ. كَتَبْتُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا

جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا "المصص"۔ یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے لہذا

يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرْجٌ مِّنْهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کے دل اقدس میں اس سے تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق فرمایا۔ اے لوگو بے شک میں

رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ کا رسول ہوں تم تمام کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَأَطِيعُوا اللهَ وَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق فرمایا اور اطاعت کرو اللہ کی اور

رَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کے رسول کی اگر تم اہل ایمان ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ

اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق فرمایا " اور نہیں مارا آپ نے جبکہ

رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ نے مارا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی مارا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا۔ اے ایمان

أَمْنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا " اے ایمان والو

أَمْنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

قبول کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے (احکام کو) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے متعلق

اللَّهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي آيَدُكَ بِنَصْرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

تو نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے آپ کو تقویت دی اپنی خاص مدد کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق فرمایا۔ اے نبی آپ

حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

کو کافی ہے اللہ تعالیٰ اور وہ مومن جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا اے

النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

میرے نبی مومنین کو جہاد و قتال پر آمادہ کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ ثُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا پھر

أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اللہ نے اپنی تسکین نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مومنین پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

حَقِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ ارسال فرمایا تاکہ اسے غالب کرے

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تمام ادیان پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ

کی آل اطہار پر جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو تحقیق

نَصْرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انہیں اللہ نے مدد دی جبکہ نکال انہیں کفار نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق تو نے فرمایا "پس نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت

عَلَيْهِ وَآيِدَاكَ بِجَنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان پر اور ان کو تقویت دی ایسے لشکروں کے ساتھ جنہیں تم نے نہ دیکھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا "اور اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول معظم کی

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ

آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں فرمایا "اے نبی مکرم جہاد کرو کفار

وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلَظْ عَلَيْهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

و منافقین کے ساتھ اور ان پر سختی کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں فرمایا "البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس رسول

مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

تم میں سے، گراں ہے ان پر جو تمہیں مشقت میں ڈالے۔ حریص ہیں تمہاری ہدایت پر مومنین کے ساتھ

رَحِيمُهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زم خور بہت مہربان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۚ اللَّهُ صَلَّى وَ

جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا " بیشک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر و بشیر ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۚ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ۚ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

ہم آپ پر سب سے حسین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۚ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قُلْ هَذِهِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " فرما دیجئے یہ ہے

سَبِيلِي ۚ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ۚ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

میرا راستہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۚ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَفَمَنْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق تو نے فرمایا " کیا وہ جو

يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۚ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

جاتا ہے کہ جو آپ کی طرف رب تعالیٰ سے نازل کیا گیا ہے حق ہے وہ مانند اندھوں کے ہے؛ اے اللہ

وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۚ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق اللہ نے فرمایا

حَقِّهِ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ایسے ہی بھیجا ہم نے آپ کو امت میں جس سے پہلے گزر چکی ہیں (امتیں) اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۚ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَلَمْ يَكُنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے حق میں تو نے فرمایا " اَلَمْ يَكُنْ

أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگوں کو نکالو ظلمات سے نور کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہیں سات آیات تکرار کی جانے والی اور قرآن عظیم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَ

فرمایا سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

لَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ تنگ دل ہوتے ہیں ان کے اقوال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اور ہم نے آپ پر سراسر ذکر نازل کیا تاکہ لوگوں کو بیان کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور نہیں نازل کی ہم نے

إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ

آپ کی طرف کتاب مگر اس لیے کہ تم بیان کرو انہیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب جو ہر شئی کا مدلل بیان اور سراسر ہدایت و رحمت اور بشارت ہے



لِلْمُسْلِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اہل اسلام کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعِظَةِ

جن کے حق میں تو نے فرمایا " بلاؤ اپنے رب کی طرف ساتھ حکمت اور خوبصورت

الْحَسَنَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

نصیحت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

حق میں فرمایا " پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرانی اپنے عبد خاص کورات میں مسجد حرام سے

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ عَسَىٰ أَنْ يُبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ اللَّهُمَّ

پر جس محبوب کے حق میں فرمایا۔ قریب ہے کہ کھڑا کرے تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق فرمایا

حَقِّهِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بے شک اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا

اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا۔ اور ہمیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا

وَنَذِيرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اور ڈرانے والا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ

حق میں اللہ نے فرمایا، تمام ستائیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد خاص پر کتاب نازل فرمائی اور نبائی

لَعُوْبًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس میں کوئی بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے

قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَاَتْلُ مَا اَوْحَىٰ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

حق میں اللہ نے فرمایا۔ اور تلاوت کے لیے اپنی طرف وحی کی ہوئی رب کی کتاب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ فَاَتَمَّا

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا تو ہم نے ہی

لَيَسِّرْنَا لَهٗٓ اِلَّا نَاوِيًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اس کو آسان بنا یا آپ کی زبان میں تاکہ اس کے ساتھ بشارت دو متیقن کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں فرمایا۔ ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر

الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى ۝ اِلَّا تَذْكُرًا ۝ لِمَنْ يَّخْشٰى ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

قرآن تاکہ مشقت میں پڑو لیکن وہ سامان نصیحت ہے اہل خشیت کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ كَذٰلِكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق فرمایا " ایسے ہی

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبِآءٍ مَا قَدْ سَبَقَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ہم بیان کرتے ہیں آپ پر گزری باتیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَقَدْ اَتَيْنَكَ مِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا " تحقیق ہم نے دیا آپ

لَدُنَّا ذِكْرًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو اپنی طرف سے ذکر قرآن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ

جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا " اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے قبل اور

جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا " اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے قبل اور

قَبْلَ غُرُوبِهِمْ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

غروب سے قبل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ

جس محبوب کے حق میں فرمایا " اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے حق میں فرمایا

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ يُدْعَى الْمَسْئِلَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

فرما دو لے لوگو میں یقیناً تمہارے لیے واضح ڈرنا والے ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَادْعُ إِلَىٰ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " اور بلاؤ اپنے

رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مِّنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

رب کی طرف بیشک آپ البتہ درست ہدایت پر ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ

آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق تو نے فرمایا اور بیشک تم البتہ انہیں بلاتے ہو راہِ راست

مُسْتَقِيمٍ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي

کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ

میں تو نے فرمایا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اس سے خوف و خشیت رکھے تو وہی لوگ

هُمُ الْفَائِزُونَ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کامیاب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۗ اللَّهُمَّ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ اللهُ فِيْ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق تو نے فرمایا

حَقِّهِ وَاِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوْا وَاللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اگر ان کی اطاعت کرو تو ہدایت پاؤ گے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ اللهُ فِيْ حَقِّهِ وَاَقِمُوْا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ

آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُوْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِيْ قَالَ اللهُ فِيْ حَقِّهِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

جن کے حق میں تو نے فرمایا۔ بے شک مومن وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

قَالَ اللهُ فِيْ حَقِّهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ

حق میں تو نے فرمایا " وہی لوگ ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ اللهُ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ نے ان کے

فِيْ حَقِّهِ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

حق میں فرمایا " اور انہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ اللهُ فِيْ حَقِّهِ وَتَوَكَّلْ عَلٰی

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " اور توکل کرو

الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حق قیوم پر جو نہیں مر سکتا اور اس کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں فرمایا "بے شک وہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ ۝

جس کو اتنا روح الامین نے آپ کے دل پر تاکہ تم بن جاؤ ڈرانے والوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے حق میں تو نے فرمایا " اور

إِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

بیشک آپ البتہ قرآن دے جاتے ہر حکیم و عظیم کے پاس سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ ۝

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا۔ پس اللہ پر توکل کرو

إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بیشک آپ واضح حق پر ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَتَوْا

آل پر جن کے متعلق تو نے فرمایا۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل تسلیم سے بنوں اور قرآن کی تلاوت

الْقُرْآنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کروں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَلَكِنْ رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّكَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنتَ بِمُنذِرٍ

تو نے فرمایا " بین اللہ کی طرف سے رحمت کی خاطر تاکہ آپ ڈراؤ انہیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے

مِّنْ قَبْلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والا نہیں آیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ

جس محبوب کے متعلق فرمایا " اور وہ نہ باز رکھے آپ کو آیات اللہ سے بعد اس کے کہ آپ پر نازل کی گئیں



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق تو نے فرمایا " بے شک اللہ اور اس کے فرشتے

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

درو بھیجتے ہیں نبی مکرم پر۔ اے ایمان والو ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں اللہ نے فرمایا۔ اور جس نے

يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اطاعت کی اللہ اور رسول کی تو قیقیناً وہ فائز ہوا عظیم کامیابی کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا

اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں اللہ نے فرمایا اور یقین رکھتے ہیں ارباب

الْعِلْمِ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

علم کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے رب تعالیٰ سے وہ برحق ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو

إِلَّا كَافَّةً ۝ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر کی حیثیت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

اور آپ کی آل پر جن کے حق میں اللہ نے فرمایا " بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بشیر و نذیر بنا کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

پر جن کے متعلق فرمایا " جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ برحق ہے

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تصدیق کرنے والی ہے کتب سابقہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يُسِّمُ الْقُرْآنَ الْحَكِيمَ إِنَّكَ لَمِنَ

کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "اے سید کائنات۔ تم ہے قرآن مجیم کی۔ بے شک تو برحق

الرُّسُلِينَ ۗ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رسولوں میں سے ہے سیدھی راہ پر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا

اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا "یہ کتاب ہم نے اے آپ پر نازل کیا ہے بابرکت ہے

لِيَذَّبَ بَرًّا وَآيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تاکہ اس کی آیات میں غمزدگی نہ ہو اور ارباب عقل نصیحت پکڑیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنبَأَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے متعلق فرمایا "میری طرف سے یہ وحی ہی کی جاتی ہے کہ

أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ

جن کے حق میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

اور ایسے ہی وحی کیا ہم نے آپ کو عربی قرآن تاکہ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈراؤ۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں



قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمرْتُ

اللہ نے فرمایا۔ فرمادو میں ایمان لایا اللہ کی نازل کردہ کتاب پر اور مجھے حکم دیا گیا ہے

لِرَاعِدٍ لَبِيكُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تمہارے درمیان عدل کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّنْ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور ایسے ہی وحی کی تمہاری طرف سراسر روح (قرآن مجید) کی اپنے

أَمْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

امر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

تو نے فرمایا اور تم یقیناً رہنمائی کرتے ہو صراطِ مستقیم کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

إِنَّكَ عَلَي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

یقیناً تم راہِ راست پر ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَإِنَّمَا يَسْرُنَهُ بِلِسَانِكَ

آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا۔ پس البتہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے تمہاری زبان میں

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت

الرَّسُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا فَعَلْنَا لَكَ مَا تَدْرَأُ

جن کے حق میں تو نے فرمایا۔ ہم نے آپ کو فتح میں عطا کی ہے تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا

آپ سے پہلوں کے گناہ اور پچھلوں کے اور کامل کر دے تم پر اپنی نعمت کو اور تمہیں صراط مستقیم

مُسْتَقِيمًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُوجِبُ عَلَيَّ صَغِيرَةً

پر گامزن کرے۔ اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے ہر گناہ سے جس کا صغیرہ لازم کرے مجھ پر

أَلِيمَةً عَذَابِكَ وَيَجَلِّسَ بِي كَبِيرَةً شَدِيدًا عِقَابِكَ وَفِي آتِيَانِهِ تَعْجِيلَ

عذاب الیم کو اور حلال کرے اس کا کبیرہ میرے لیے عذاب شدید کو اور جس کے فعل میں تیرے فوری

نِقْمَتِكَ وَفِي الْإِصْرَارِ عَلَيْهِ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ لَمْ يُطْلَعْ عَلَيْهِ

انتقام درپیش ہو اور اس پر اصرار میں تیری نعمت کا مجھ سے زوال ہو اور ہر گناہ سے استغفار کرتا ہوں جس پر سوائے تیرے

أَحَدًا سِوَاكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُكَ مِمَّا لَا يَنْجِيَنِي مِنْهُ إِلَّا عَفْوُكَ وَلَا

کوئی مطلع نہیں ہوا اور نہ کسی کو علم ہوا جس سے مجھے نجات نہیں دے گی مگر تیری عفو اور نہیں

يَسَعُهُ إِلَّا مَغْفِرَتُكَ وَجَلْبُكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يُزِيلُ النِّعَمَ وَيَجَلِّسُ

اس کا اعاطہ کرتی مگر تیری مغفرت اور بردباری۔ اور ہر اس گناہ کے لیے جو نعمتوں کو زائل کرے اور

النِّقْمَ وَيَهْتِكُ الْحُرْمَ وَيُطِيلُ السَّقَمَ وَيَعْجِلُ الْآلَمَ وَيُورِثُ

انتقام کا نشانہ بنائے اور عزتوں میں ہتک کا موجب ہو اور بیماریوں کی طوالت کا اور فوری رنج و الم کا

النِّدَامَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يَمْحُو الْحَسَنَاتِ وَيُضَاعِفُ السَّيِّئَاتِ وَيُجَلِّسُ

اور موجب ندامت ہو اور ہر گناہ کے لیے جو حسنات کو برباد کرے اور گناہوں میں اضافہ کرے اور حلال

النِّقْمَاتِ وَيُغْضِبُكَ يَا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ أَنْتَ

ٹھہرائے انتقاموں کو اور تجھے غضبناک کرے اے رب السموات اور ہر گناہ کے لیے کہ تو

أَحَقُّ بِمَغْفِرَتِهِ إِذْ كُنْتَ أَوْلَى بِسِتْرِهِ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ

اس کی مغفرت کا زیادہ حقدار ہے جبکہ تو ہی اس کی پردہ پوشی کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ تو ہی لائق ہے تقویٰ اور لائق ہے

الْمَغْفِرَةَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ ظَلَمْتُ بِسَبَبِهِ وَلِيَا مَنْ أَوْلِيَاكَ مُسَاعِدًا

بخشش فرمانے کے اور ہر گناہ کے لیے کہ میں نے اس کی وجہ سے تیرے کسی دل پر ظلم کیا تیرے اعداء کی امداد

لَا عُدَاةَ لَكَ وَمِيلاً مَعَ أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ

کرتے ہوئے اور تیرے عاصیوں کے ساتھ میلان کرتے ہوئے برخلاف تیرے اہل طاعت کے۔ اے اللہ

يَاهَادِي الْمُضِلِّينَ لَا هَادِيَ لَنَا غَيْرُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا

اے اہل ضلال کو ہدایت بخشتے والے سوائے تیرے ہمارا کوئی ہادی نہیں اے رب العالمین۔ اے

الْهَادِي بِعِبَادِكَ الْمُضِلِّينَ قَرِيبًا إِلَيْكَ أَمِنَّا مِنَ الْخَوْفِ مِنْكَ

ہدایت دینے والے اپنے گمراہ بندوں کو ہمیں اپنے قریب فرما اور اپنے خوف سے امن دے

يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ نَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ تُنْعِمَ عَلَيْنَا بِرِضَاكَ يَا

اے خوفزدگان کی امان۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم پر اپنی رضا کا انعام فرمائے۔ اے

مَالِكِ رِقَابِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْعَالَمِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ

اولین و آخرین کی گردنوں کے اور تمام جہان والوں کے مالک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں اللہ

اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

نے فرمایا ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا شاہد اور مبشر و نذیر کی شان میں تاکہ ایمان لاؤ اللہ اور

وَرَسُولِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کے رسول کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ الدِّينَ يُبَايَعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ

پر جن کے متعلق فرمایا "بیشک جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ

اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ

اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور

رَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

رسول کی تو اسے داخل فرمائے گا جنات میں کہ جن میں نہری بہتی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں اللہ نے فرمایا

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اللَّهُمَّ

البتہ راضی ہو گیا اللہ ان مومنین سے جبکہ وہ آپ سے بیعت کرتے تھے درخت کے نیچے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا

حَقِّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

پس نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے سکینت اپنے رسول اور اہل ایمان پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں اللہ نے فرمایا

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

البتہ سچا کر دیا اللہ نے اپنے رسول کا برحق خواب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو

بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَكُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدًا رَسُولًا

کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " کافی ہے اللہ بطور گواہ کے۔ محمد اللہ کے رسول

اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر بہت سخت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا ہے "بیشک جو لوگ پست رکھتے ہیں

أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے پاس۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ

آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "بے شک جو تمہیں پکارتے ہیں (بیجا گانہ)

وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثریے عقل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّ تَطِيعُوا اللَّهَ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "اگر اطاعت کرو اللہ کی اور

رَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

رسول اللہ کی تو تمہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں ذرہ بھر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "مومن صرف وہی ہیں جو

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "تسبیح کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے قبل اور

قَبْلَ الْغُرُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

غروب سے قبل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
جن کے حق میں فرمایا پس نصیحت کرو قرآن مجید کے ساتھ انہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَإِنَّ الذِّكْرَى  
فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا پس بے شک نصیحت

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي  
نفع دیتی ہے اہل ایمان کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ  
حق میں تو نے فرمایا اور تسبیح کہو اپنے رب کی بوقت قیام اور رات کو تسبیح کہو اور

النُّجُومِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ  
ستاروں کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں

اللَّهُ فِي حَقِّهِ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
تو نے فرمایا "نہیں گمراہ ہوئے تمہارے صاحب (رسول) اور نہ بھٹکے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ  
محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تیرا فرمان ہے" اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش نفس کے

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  
تحت، نہیں ہے وہ مگر وحی جو نازل کی جاتی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ شَدِيدُ الْقُوَى اللَّهُمَّ صَلِّ  
آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "سکھلایا انہیں سخت قوتوں والے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ  
و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا

ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
پھر قریب ہوئے پس مزید قریب ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جن کے حق میں فرمایا۔ پس ہو گئے بمقدار کی دو جانوں کے بلکہ زیادہ قریب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا " پس وحی فرمائی

عَبْدَهُ مَا أَوْحَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے عبد خاص کی طرف جو وحی فرمائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا " نہیں جھٹلایا ان کے دل نے جو دیکھا ان کی آنکھ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں فرمایا

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

نہیں ترسھی ہوئی ان کی نگاہ اور نہ حد سے بڑھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ

آپ کی آل پر جن محبوب کے حق میں تو نے فرمایا " البتہ دیکھی انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی

الْكِبْرَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

آیات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے حق

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

میں ترسے فرمایا " ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا وہی ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے

عَلَىٰ عِبَادِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

عبد خاص پر واضح آیات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ



اَلْسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَاٰمَنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُوْتِكُمْ كَفٰلِيْنَ

کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور ایمان لے آؤ اللہ کے رسول کے ساتھ تو اشر نہیں دیگا دیکھتے

مِنْ رَحْمَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی رحمت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ

جن کے حق میں تو نے فرمایا پس قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو اللہ اور

وَرَسُوْلَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رسول اللہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَحٰدُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولٰٓئِكَ

جن کے حق میں تو نے فرمایا "بے شک جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور رسول اللہ کی وہ

فِي الْاٰذْلٰغِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اَسِيْدَةٌ

پر جن کے حق میں تو نے (عیسیٰ علیہ السلام سے بطور حکایت) فرمایا اور بشارت دیتے ہوئے عظیم رسول کی جو میرے بعد آئے

اَحْمَدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ہیں نام ان کا احمد ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جن کے حق

قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

میں تو نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کو

عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

غالب کرے ہر دین پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاَقْيَمِيْنَ رَسُوْلًا لَّهُمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کہ جن کے حق میں تو نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے امتی لوگوں میں عظیم رسول انہیں سے مبعوث فرمایا اے اللہ



وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سببنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سببنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا پس ایمان لاؤ اللہ اور

رَسُولِهِ وَالتُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

رسول کے ساتھ اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سببنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی۔ اے اللہ درود

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا

و سلام ہو سببنا محمد و آل محمد پر جن کے حق میں تو نے فرمایا۔ اے

أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میرے نبی جہاد کرو کفار و منافقین کے ساتھ اور ان پر سختی کرو۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ قَدْ أَنْزَلَ

سببنا محمد و آل محمد پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "تحقیق نازل کیا

اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۚ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف مجسم ذکر رسول منظم کو جو تم پر آیات اللہ تلاوت فرماتے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِذَا جَاءَكَ

سببنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا جب آئیں تمہارے پاس

الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ

منافقین تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ تم اللہ رسول خدا ہو اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي

درود سلام ہو سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جن کے حق میں تو نے

حَقَّهُ يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ قُمْ اللَّيْلَ الْأَقْلِيلَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

فرمایا۔ اے کبل اوڑھنے والے قیام کرو ساری رات مگر تھوڑا سا حصہ۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

محمد و آل محمد پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "قرآن کو ترتیل سے پڑھو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں

اللَّهُ فِي حَقِّهِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تو نے فرمایا اے چادر پوش۔ اچھے پس لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ اے اللہ صلوات و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَثِيَابِكَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور اپنے کپڑے

قَطْمِرٌ وَالرُّجُزَ فَاهْجُرْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پاک رکھئے اور پلیدی سے دور رہیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا اللَّهُمَّ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا "بے شک ہم نے ہی آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ

درود سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جن کے حق میں تو نے فرمایا

فَذَكَّرْنَا بِمَا آتَتْكَ مُذَكَّرَةٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پس نصیحت کیجئے کیونکہ آپ نصیحت گر ہی ہیں نہ کہ ان پر مسلط داروغے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَالصُّحْحَى وَاللَّيْلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں فرمایا "قسم ہے جاہشت کے وقت کی اور رات کی

إِذَا سَبَّحْتَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جب چاہے۔ نہیں چھوڑا تمہیں تمہارے رب نے اور نہ ناراض ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَلَآ أُخْرَجُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْوَالِي

اور آپ کی آل پر کہ جن کے حق میں اللہ نے فرمایا۔ اور البتہ ہر پچھل ساعت آپ کے لیے بہتر ہے سب سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے

فِي حَقِّهِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

فرمایا اور ضرور دے گا تمہیں تمہارا رب اتنا کہ تم اس پر راضی ہو جاؤ گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَلَمْ يُجِدْكَ يَتِيمًا

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا کیا نہیں پایا تجھے یتیم

فَاوَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پس ٹھکانا دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

حق میں فرمایا اور پایا تجھے حالت جذب و سر میں پس استقامت بخش۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَوَجَدَكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطوار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا اور پایا تمہیں

عَائِلًا فَاعْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محتاج پس غنی کر دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَاَمَّا السَّائِلَ

پر جن کے حق میں فرمایا لیکن یتیم پر سختی نہ کرو بیکن سوائی کو

فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

نہ جھڑکو اور اپنے رب کی ہر نعمت کو بیان کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ أَلَمْ نُشْرَحْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا کیا ہم نے کشادہ نہیں کیا۔

لَكَ صَدْرَكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کے سینہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزُرَّكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

جن کے حق میں تو نے فرمایا اور اتار دیا ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ جو تم پر گرانبار تھا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے

اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حق میں تو نے فرمایا " اور بلند کیا ہم نے آپ کیلئے آپ کا ذکر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

اور آپ کی آل اطہار پر جن کے حق میں تو نے فرمایا۔ پس تحقیق ہر تنگی کے بعد آسانی ہے

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَإِذَا فَرَعْتَ فَإِذَا فَرَعْتَ فَإِنْ صَبَّ وَرَالِي

آل پر جن کے حق میں تو نے فرمایا پس جب فارغ ہو جاؤ (نماز سے) تو ہاتھ اٹھاؤ دعا میں اور

رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اپنے رب کی طرف متوجہ رہو اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا " اللہ کے رسول ہیں جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتے ہیں

فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جن میں پائیدار احکام ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِطْ

پر جن کے حق میں تو نے فرمایا بیشک ہم نے آپ کو کثیر عطا کی ہے پس اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

بیشک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے

اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ أَوْصَافُهُ فِي الرَّبُّورِلْدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي التَّوْرَةِ

اوصاف کے حق میں تو نے زبور میں داؤد علیہ السلام کو اور تورات میں حضرت

لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي الْإِنْجِيلِ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي كُلِّ صُحُفٍ

موسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اور ہر صحیفہ میں بھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اٰخْبَرَ

صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ

اَنَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ مَوْضِعُ اَعْلَى الْاَرْضِ فِيهَا مَلَكٌ سَاجِدٌ اَوْ رَاكِعٌ اَللّٰهُمَّ

آسمانوں میں انہکی کے پورے کے برابر بھی جگہ نہیں جس میں فرشتے سجدہ اور رکوع میں نہ ہوں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اٰخْبَرَ فِي خَيْرِ الصّٰدِقِ اَنَّ حَوْلَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے سچی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ عرش کے گرد

الْعَرْشِ ثَمَانِيْنَ اَلْفَ سُرَادِقٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اسی ہزار سراپردہ ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي اٰخْبَرَ اَنَّ الْعَرْشَ خُلِقَ مِنْ جَوْهَرَةٍ خَضْرَاءَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

جنہوں نے بتلایا کہ عرش سبز جوہر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اٰخْبَرَ اَنَّ بَعْدَ الْقَائِمَتَيْنِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ خَفَقَانُ

سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ عرش کے دو پایوں کی درمیانی مسافت تیز پرواز

الطَّائِرِ الْمُسْرِعِ اَلْفَ عَامٍ بِلَا اَمْتِرَاعٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پرندے کی ہزار سالہ پرواز کی مانند ہے بلا ٹنک و شبہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَانَ حَوْلَ الْعَرْشِ مَلَائِكَةٌ عَلَى خِيُولٍ مِّنْ رِّيحٍ بِأَيْدِيهِمْ

جنہوں نے بتلایا کہ عرش کے گرد ملائکہ ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہیں جن کے ہاتھوں میں

حَرَابٌ مِّنْ نُورٍ يَّحْتَوْنَ الْمَلَائِكَةُ عَلَى التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نورانی نیزے ہیں جو ملائکہ کو تسبیح پر براہِ یقینہ کرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَانَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُ اللَّهَ بِأَنْوَاعِ اللُّغَاتِ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ عرش اعظم تمام اقسام کی بولیوں اور انداز بیان میں اللہ

وَالْبَيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَيْرَهُ

کی تسبیح کتنا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خیر

الصَّحِيحِ أَنَّ الْعَرْشَ يُسَبِّحُ اللَّهَ بِأَلْفِ نَوْءٍ مِّنَ التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ

صحیح میں بتلایا کہ عرش اعظم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کتنا ہے ہزار انواع تسبیح کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْعَرْشَ يَكْسِي كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش کو ہر دن پہنایا جاتا ہے ہزار

لَوْنٍ مِّنْ نُورٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا

رنگ نور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ

الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءُ عَلَى الرِّيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

عرش اعظم پانی پر ہے اور پانی ہوا پر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَيْرَهُ الْأَبْرَارَ حَوْلَ الْعَرْشِ مَدِينَةٌ مِّنْ

محمد پر جنہوں نے اپنی سچی خبر میں فرمایا کہ عرش کے گرد خاصے

الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

کتھوری کا شہر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَالِمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کہ عرش کے گرد چھ لاکھ جہان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَيْرَ خَبْرٍ الصَّحِيحِ أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ سِتُّونَ أَلْفَ

محمد پر جنوں نے خیر صحیح میں بتلایا کہ عرش کے گرد ساٹھ ہزار

عَالِمٍ يَسْتَغْفِرُونَ لِمُحِبِّي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَيَلْعَنُونَ لِمُبْغِضِي أَبِي بَكْرٍ

جہاں ہے جو استغفار کرتے ہیں ابو بکر و عمر کے مجہین کے لیے اور لعنت کرتے ہیں ان سے

وَعُمَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ مَلِكٍ مِّنْ

بعض رکھنے والوں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنوں نے خیر دی کہ عرش اعظم کے

حَمَلَةِ الْعَرْشِ الْكِرَامِ بَيْنَ كَعْبِيَّةِ إِلَى قَدَمَيْهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ سَبْعِينَ عَامٍ

حامل ملائکہ کرام میں سے ہر ایک کے ٹخنوں سے قدموں تک سات سات کی مسافت ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَيْرَ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ أَنَّ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنوں نے اپنی خیر مشہور میں فرمایا

بَيْنَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَحَمَلَةِ الْكُرْسِيِّ سَبْعِينَ حِجَابًا مِّنْ نُورٍ وَسَبْعِينَ

کہ حاملین عرش اور حاملین کرسی کے درمیان ستر حجاب نور کے ہیں اور ستر

حِجَابًا مِّنْ ظُلْمَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

حجاب ظلمت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنوں نے بتلایا کہ

لَوْلَا الْحُجُبُ لَا حُتِرَقَ حَمَلَةُ الْكُرْسِيِّ مِّنْ نُورِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ الْكِرَامِ

اگر حجابات موجود نہ ہوتے تو البتہ جل جالتے حاملین کرسی حاملین عرش کے نور سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْعَرْشَ خُلِقَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنوں نے خیر دی کہ عرش کو

قَبْلَ الْكُرْسِيِّ بِأَلْفِي عَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کرسی سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي جُوفِ الْكُرْسِيِّ كَحَلْقَةِ فِي أَرْضِ

بتلایا کہ تمام آسمان اور زمینیں کرسی کے اندریوں میں جیسے اٹھوٹھی کا حلقہ

قَلَادَةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْكَرْسِيُّ

چٹیل میدان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ کرسی کو

يَجْعَلُهُ أَرْبَعَةَ أَمْلَاقٍ لِكُلِّ مَلِكٍ أَرْبَعَةٌ وَجُوهٌ نُورُهُمْ يَتَلَأَلُ

چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک کے چار منہ ہیں جن کا نور چمکتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا بَعْضُ الْمَلَائِكَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ بعض ملائکہ نے

سَأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُرِيَهُمْ مَقْدَارَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَخَلَقَ لَهُمْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ

اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں عرش عظیم کی وسعت دکھلائے تو اس نے ان کے لیے تیس ہزار

جَنَاحٍ فَطَارَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَلَمْ يَقْطَعُوا قَائِمَةً مِّنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ

پر پیدا فرمائے پس وہ تیس ہزار سال اڑے مگر عرش کے پایوں میں سے ایک کی مسافت بھی

الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا نُورُ الْعَرْشِ

طے نہ کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اگر عرش کا نور

لَوْ ظَهَرَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا وَاسْتَهْلَّ لَضَعُفَ نُورُ الشَّمْسِ مَعَهُ كَمَا يَضَعُ ضَوْؤُهُ

اہل دنیا کے لیے ظاہر اور نمودار ہو تو اس کے سامنے نور آفتاب یوں ماند پڑ جائے گا جیسے کہ چراغ

السَّرَاجِ مَعَهَا أَوْ أَقَلَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا

کا نور آفتاب کے سامنے بلکہ اس سے بھی کمتر ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّهُ خَفِقَ لَهُ الْعَرْشُ بِكَمَالِهِ وَعَظِيمِهِ لَهَا وَطَأَتْهُ بِأَقْدَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جھومنے لگا ان کے لیے عرش اپنے کمال عظمت کے باوجود جب اسے اپنے قدموں سے پا مال کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ مَلَكًا مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ ان میں سے ایک فرشتہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہے

هُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ وَالْمَطْرَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِأَنَّ مَرَّ اللَّهُمَّ

اور وہ مخلوق کے لیے رزق اور بارش طلب کرتا ہے سال کی ابتدا سے انتہا تک۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَلَكًا مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے خبر دی کہ ان میں سے ایک فرشتہ درندہ

السَّبْعِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِلْوَحُوشِ وَالْهُوَامِ

کی شکل پر ہے جو سال بھر رزق طلب کرتا ہے جگلی جانوروں اور زیریں حشرات الارض کے لیے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَلَكًا مِنْهُمْ

اے اللہ صلواۃ و سلام ہو سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے خبر دی کہ ان میں سے ایک فرشتہ

عَلَى صُورَةِ النَّسْرِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِلطَّيْرِ

گدھ کی صورت پر ہے جو کہ رزق طلب کرتا ہے ایک سال سے دوسرے تک

عَلَى الدَّوَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

پرندوں کے لیے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے بتلایا کہ

الرُّوحَ كَوَسِيمٍ تَسْبِيحُهُ أَهْلُ الْأَرْضِ وَأَصْغَوُا إِلَيْهِ لَخَرَجَتْ أَرْوَاحُهُمْ

اگر روح امین کی تسبیح کو اہل ارض سن لیں اور کان لگائیں تو ان کی روہیں نکل جائیں

وَلَوْ شَاءَ لَا بَتَلَعَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْ أَحَدٍ شَدَقِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اگر وہ چاہے تو آسمانوں اور زمینوں کو نکل جائے مگر ایک جانب سے۔ اے اللہ صلواۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الرُّوحَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَرَجَ مِنْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے خبر دی کہ روح جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو برآمد ہوتے

فِيهِ قِطْعَةٌ مِنْ نُورٍ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ الْعِظَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہیں اس کے منہ سے عظیم پہاڑوں کی مانند نور کے قطعات۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ مَسِيرَةٌ سَبْعَةُ أَلْفِ عَامٍ

سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے بتلایا کہ روح کے قدموں کی جگہ سات ہزار سال کی مسافت ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لَهُ أَلْفَ جَنَاحٍ عَلَى

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے بتلایا کہ اس کے ہزار پر ہیں

الْوَفَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَأَنَّهٗ يَقُومُ

مکمل طور پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ کھڑا ہو گا

الرُّوحِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفًا وَجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ صَفًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

روح اعظم قیامت کے دن ایک صف میں اور دیگر تمام ملائکہ ایک صف میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فِي صَرْيَحِ خَيْرِهِ أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً لَوْ أَنَّ وَاحِدًا

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی صریح انداز میں کہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی

مَنْهُمْ نَزَلَ إِلَى الدُّنْيَا لَمَا وَسِعَتْهُ مِنْ عَظِيمِهِ وَكِبَرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نازل ہو زمین کی طرف تو اس میں سما نہ کے اپنی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لِلَّهِ مَلَكَاتٍ تَحْتَ الْعَرْشِ تُكْرِمْنَ مَا لَدَيْهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ عرش کے نیچے ہے جو اس کے ہاں مکرم ہے

ذَوَائِبُهُ قَدْ أَحَاطَتْ بِالْعَرْشِ وَتَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهَا مَكْتُوبٌ لِّإِلَهِ

اس کے سر کے بال عرش کو محیط ہیں اور اس کے ہر بال کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

اللہ اللہ محمد رسول اللہ اور وہ استغفار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے

وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ لِإِسْرَافِيلَ

والوں کے لیے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ اسرافیل علیہ السلام کے

إِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ جَنَاحٍ بِالدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ مَكَلِّدِينَ كُلَّ جَنَاحٍ مِنْهَا يَسُدُّ

بارہ ہزار پر ہیں جو موتیوں اور یاقوت سے مرصع ہیں کہ جن میں سے ہر پر شرق و مغرب کے

مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فِي

درمیانی حصہ کو ڈھانپے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے اپنی واقعی اخبار

بَعْضَ أَخْبَارَاتِهِ الْوَاقِعَةِ أَنَّ لِإِسْرَافِيلَ جَنَاحًا بِالمَشْرِقِ وَجَنَاحًا

میں بتلایا کہ اسرافیل علیہ السلام کا ایک شرق میں ہے اور دوسرا

بِالْمَغْرِبِ وَرَجُلَاهُ تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِعَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

مغرب میں اور اس کے قدم ساتویں زمین کے نیچے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا مَقَامَ جِبْرِائِيلَ فِي وَسْطِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ط

سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ جبرائیل کی قیامگاہ اور سدرۃ المنتہی کے درمیان میں ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا لِجِبْرِائِيلَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ

جَلَّ جَلَّ لِكُلِّ جُلْجُلٍ مِّنْهَا صَوْتٌ لَا يُشْبِهُ الْآخَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گھنگریاں ہیں جن میں سے ہر ایک کی آواز دوسری مختلف ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ كُلَّ جُلْجُلٍ مِّنْهَا مَحْشُورٌ بِالْمَسْكِ وَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ ان میں سے ہر گھنگری عنبر اور کتوری سے بھری

الْعُنْبُرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي فِي خَبَرِهِ

ہوئی ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے اپنی حدیث شریف میں

الشَّرِيفِ أَيُّضًا أَنَّ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

بتلایا کہ لوح محفوظ سفید موتی سے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْقَلَمَ الْمُنِيرَ مِنْ جَوْهَرٍ اللَّهُمَّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ قلم قدرت نورانی جوہر سے ہے اور منیر ہے اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ دُقَّتِي اللَّوْحَ مِنْ يَأْقُوتِ

اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ لوح محفوظ کی دونوں جانبیں سرخ

أَحْمَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا مَقْدَارَ الْقَلَمِ

یا قوت سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ جو قلم مخلوق کے اعمال لکھتی ہے

الَّذِي يُكْتَبُ أَعْمَالُ الْأَنْامِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس کی مقدار پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَاتِ الْمِعْرَاجِ الَّذِي أُرْسِلَ مِنَ الْجَنَّةِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ جو سیڑھی شب اسراء جنت الفردوس سے بھیجی گئی تھی

الْفَرْدُوسِ مَنْضُودٍ بِاللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اس پر لؤلؤ اور یاقوت جڑے تھے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَاتِ اللَّهِ أَرْبَعِينَ عَالِمًا الدُّنْيَا مِنْهَا عَالَمٌ وَاحِدٌ بِأَرْبَعِ

محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے چالیس جہان ہیں جن میں سے ساری دنیا بلا ریب

وَأَرْبَعِ عَشْرِينَ عَالِمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَاتِ اللَّهِ

ایک جہان ہے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ

عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثِينَ عَالِمًا حَفَاةً عَرَاةً لَا يَدْرُونَ مَنْ خَلَفَهُمْ وَسِتُّونَ

کے یہ تین سو جہان ہیں ننگے پاؤں اور ننگے بدن والوں کے جو اپنے ماسوا کو نہیں جانتے اور ساٹھ

عَالِمًا يَلْبَسُونَ الثِّيَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

جہان لباس پوش ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

فِي خَبْرِهِ لِلْوَرَى مَا الْعِمَارَةُ فِي مَقَابِلَةِ الْخَرَابِ إِلَّا كَفَسْطَاطٍ فِي أَرْضِ

مخلوق کو خبر دی کہ آباد جہان ویران کے مقابلہ میں ایسے ہے کہ جیسے صحراء

الصَّحْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ فِي

میں نمبر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جن پر تو نے اپنی

كِتَابِكَ الْمُنِيرِ الْإِلَهِيِّ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کتاب منیر میں نازل فرمایا کیا نہیں جانتا جس نے پیدا کیا جبکہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَتْ فِي بَعْضِ أَخْبَارِ آتِهِ الْوَاقِعَةِ أَنَّ إِسْرَافِيلَ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے اپنی واقعی خبروں میں بتلایا کہ اسرافیل کا ایک

جَنَاحًا بِالشَّرْقِ وَجَنَاحًا بِالمَغْرِبِ وَرَجُلًا لَا تَحْتِ الأَرْضِ السَّابِعَةَ

پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں اور اس کے دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي حَدِيثَهُ لِبَعْضِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر جن کی حدیث میں وارد ہے بعض اہل بیت کو

أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْ إِسْرَافِيلَ إِذَا سَبَّحَ عَظَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ تَسْبِيحَهُمْ بِحُسْنِ

اطلاع دیتے ہوئے کہ اسرافیل جب تسبیح کئے تو دیگر تمام ملائکہ پر اپنے حسن صوت کی وجہ سے

صَوْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ مَقَامَ

تسبیح کو معطل کر دیتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ مقام

جِبْرَائِيلَ فِي وَسْطِ سُدْرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبرئیل سدرة المنتہی کے وسط میں ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ تَحْتَ كُلِّ وَرْقَةٍ مِّنْهَا أُمَّةٌ تَسْبِيحُهُمْ سُبْحَانَ ذِي الْعَرْشِ

جنہوں نے فرمایا کہ سدرة کے ہر پتے کے نیچے امت ہے جن کی تسبیح یہ ہے " پاک ہے عزت

وَالْبَهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا لِحَبْرَائِيلَ

اور نور والا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ جبیرائیل کے لیے

جَلَّ جَلُّ لِكُلِّ جُلْجُلٍ مِّنْهَا صَوْتٌ لَا يَشْبَهُهُ الْآخِرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گھنگریاں ہیں جن میں سے ہر ایک کی آواز دوسری سے جدا گانہ ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ كُلَّ جُلْجُلٍ مِّنْهَا مَحْشُورَةٌ بِالْمَسْكِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک گھنگری بھری ہے کستوری اور

وَالْعَنْبَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنِي خَيْرُهُ

عنبر کے ساتھ۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا اپنی حدیث

الشَّرِيفِ أَيْضًا إِنَّ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ

شریف میں کہ لوح محفوظ سفید موتی سے ہے۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ الْقَلَمَ الْمُنِيرَ مِنْ جَوْهَرِ اللَّهِ

و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ قلم قدرت نورانی جوہر سے ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا دُفَّتِي اللَّوْحِ مِنْ يَأْقُوتِ

درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ لوح کے دونوں پہلو سرخ یا قوت

أَحْمَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْقَلَمَ الَّذِي

سے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ وہ قلم جو مخلوق کے

يَكْتُبُ أَعْمَالَ الْأَنْامِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اعمال لکھتا ہے پانچ صد سالہ مسافت کی مقدار ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعُونَ عَالِمًا الدُّنْيَا مِمَّا عَالَمٌ

سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے چالیس جہان ہیں جن میں سے بلاشبہ ساری دنیا

وَاحِدٌ بِلَا أَرْتِيَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا

ایک جہان ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ

لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثِينَ عَالِمًا حُفَاةَ عُرَاةٍ لَا يَدْرُونَ مَنْ خَلْفَهُمْ وَسِتُونَ

اللہ تعالیٰ کے تین سو جہان برہنہ پا اور برہنہ بدن ہیں۔ اپنے ماسوا کو نہیں جانتے اور ساٹھ

عَالَمٌ يَلْبَسُونَ الثِّيَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى

جہان لباس پوش ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے

عَجَائِبَ الْغَرَائِبِ وَغَرَائِبِ الْعَجَائِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مشابہ فرمایا عجیب انوکھی اشیاء اور انوکھے عجائب کا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَعْضَ صَحَابَتِهِ وَقَرَابَتِهِ بِعَلَامَةِ أُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ

محمد پر جنہوں نے بعض صحابہ اور اہل قرابت کو خبر دی اویس قرنی کی علامت اور

وَشَفَاعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ السَّيِّدِينَ

شفاعت سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی سیدین کو

أَنَّهَا أَشْهَلُ الْعَيْنِينَ وَبَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمُنْكَبَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ اویس قرنی موٹی فراخ آنکھوں والے اور چوڑے کندھوں والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي خَيْرِهِ لِلْوَرَى مَا الْعِمَارَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْخَرَابِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے مخلوق کو نبرہیتے ہوئے فرمایا کہ جہان کا آباد حصہ دیران کے بالمقابل

الْأَكْفُسَاطِطِ فِي أَرْضِ الصَّحْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صحراء میں خیمہ کی مانند ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَاتٍ مَلَكًا مِنْهُمْ عَلَى صُورَتِ الثَّوْرِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ مِنَ السَّنَةِ

بتلایا کہ ایک فرشتہ بیل کی صورت پر ہے جو کہ رزق طلب کرتا ہے ایک سال سے

إِلَى السَّنَةِ لِلْأَنْعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سُورِ الْقُرْآنِ

دوسرے تک چار پائیوں کے لیے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر قرآن کریم کی سورتوں کی

الْكَرِيمِ وَعَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْبَجِيدِ وَعَدَدَ حُرُوفِ الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ

مقدار اور اس کی آیات کی مقدار اور فرقان حمید کے حروف کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر تمام نمازیوں اور

صَلَّى وَصَامَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روزہ داروں کی مقدار۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

عَدَدَ مَنْ قَعَدَ وَقَامَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

ہر نشست و برخاست والے کی مقدار۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر بمقدار اس

أُنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْذُ حَوْتِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کے جو لگائے زمین نے پردے اپنے پھیلاؤ کے وقت سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل پر آسمانوں کے ستاروں کی مقدار کیونکہ تو نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتِ الْأَرْوَاحُ مِنْذُ خَلْقِهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر بمقدار انفاس ارواح کے جسے تو نے انہیں پیدا کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا خَلَقْتَ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق ان کے جو تو پیدا فرما چکا

وَمَا تَخْلُقُ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور جو پیدا فرمائے گا اپنی مخلوق سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اپنے احاطہ علم میں موجود اشیاء کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا أَحْصَاهُ كِتَابُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر بمقدار ان افراد کے جنہیں تیری کتاب میں نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا نَقَدْتَ بِهِ قُدْرَتِكَ وَمَا خَصَّصْتَهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر بمقدار ان اشیاء کے جن میں تیری قدرت نافذ ہوئی اور جنہیں تیرے ارادہ نے

إِرَادَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ

تخصیص و ترجیح دی۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر بمقدار ان

مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَمْرُكَ وَنَهَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان اشیاء کے کہ متوجہ ہوا ان کی طرف تیرا امر اور نہی۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا وَسَّعَتْ سَمْعُكَ وَمَا أَحَاطَ بِهِ بَصْرُكَ اللَّهُمَّ

آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کو تیری سمع اور تیری نگاہ محیط ہوئی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا ذَكَرَهُ

درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد ان کے ذکر

الذَّاكِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کرنے والوں کے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد

عِدَّةَ مَا عَقَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان لوگوں کے جو غافل ہوئے آپ کے ذکر سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَأُورَاقِ الْأَشْجَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر بارشوں کے قطرات اور درختوں کے پتوں کی مقدار۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ دَوَابِّ الْفُقَارِ وَدَوَابِّ

وسلام ہو سیدنا محمد پر اور آل محمد پر خشکیوں کے جانوروں اور تریوں کے جانوروں

الْبَحَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ مِيَاهِ

کی مقدار۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر سمندروں کے پانیوں کی

الْبَحَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ

مقدار۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر بمقدار

مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ان اشیاء کے جن پر رات سایہ نکلے ہوئی اور دن نور نکلے ہو۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ الرِّمَالِ وَالنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد و آل محمد پر ریت کے فرات اور عورتوں مردوں کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ مَخْلُوقَاتِكَ الَّتِي

و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آل محمد پر بمقدار تیری تمام مخلوق کے جوڑے

خَلَقْتَ مِنْ بَدَأِ الدُّنْيَا إِلَىٰ انْقِضَائِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پیدا فرمائی روز آفرینش سے اختتام دنیا تک۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ أُرَاقِ الزَّيْتُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد اور آل محمد پر بمقدار زیتون کے پتوں کے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ

سیدنا محمد اور آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جو موجود ہو چکی اور جو موجود ہوگی

الْحَشْرِ وَالْقَرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روز حشر و قرار تک۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ كَأَنَّ اللّٰهَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

بمطابق تعداد ان اشياء کے جو موجود ہیں تیرے علم میں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَنْفَاسِ اُمَّتِهِ اللّٰهَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

محمد پر بمقدار ان کی امت کے انفاس کے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حَلِيْمِكَ وَعِلْمِكَ وَكَلِمَتِكَ اللّٰهَ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر مطابق اپنے علم اور علم اور کلمات کے۔ اے اللہ درود و سلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ وَصْفِكَ وَاَوْصَافِكَ اللّٰهُمَّ

بیج سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد اپنے وصف و اوصاف کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّافِي لِمَرْضَانَا اللّٰهُمَّ

درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو شفا دینے والے ہیں ہمارے مریضوں کو۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَافِي لِعَرْضَانَا اللّٰهُمَّ

اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو کفایت فرما ہیں ہمارے عرض کیلئے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَزِيْلَ الشَّدَّةِ وَالْكُرْبَةِ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو زائل کرنے والے ہیں شدت و کربت کے

اللّٰهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ اللّٰهُمَّ بِحُبِّكَ اَنْصَرَفْتُ وَبِدُنْيِيْ

اے اللہ دور فرما مجھ سے اندوہ اور حزن کو۔ اے اللہ تیری حمد کے طفیل میں باز رہا اور اپنے

اِعْتَرَفْتُ اللّٰهُمَّ الْاِلهِيْ وَرَاٰلِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَرَاٰلِ

گناہوں کا معترف ہوں۔ اے اللہ۔ اے میرے الہ اور ابراہیم واسحق اور یعقوب علیہم السلام کے الہ

جِبْرٰئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرٰفِيْلَ اَسْأَلُكَ اَنْ تُجِيْبَ دَعْوَتِيْ فَاِنَّا

اور جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دعا قبول کرنے کا کیونکہ

مُضْطَرٌّ وَتَعَصَمْتَنِيْ فِيْ دِيْنِيْ فَاِنِّيْ مُبْتَلِيٌّ وَتَنَالَنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّيْ

میں مجبور ہوں۔ اور دین میں عصمت کا کیونکہ میں آفت زدہ ہوں اور رحمت کے حصول کا کیوں کہ میں

مُذْنِبٌ وَتَنْفِي عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّي مَتَمَسِكُنُ اللَّهُمَّ اهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ

گناہگار ہوں۔ اور فقر کے دور کرنے کا کیونچہ میں مسکین ہوں۔ اے اللہ مجھے ہدایت اپنے پاس سے

وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَسْبِغْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ

اور اپنے فضل کا فیضان فرما مجھ پر اور اپنی رحمت کامل فرما مجھ پر۔ اور اپنی برکات

بَرَكَاتِكَ اللَّهُمَّ لَا تُهْلِكْنَا فَجَاءَةً وَلَا تَأْخُذْنَا بَعْتَةً وَلَا تَغْفُلْنَا عَنْ

نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اچانک ہلاک نہ فرما اور اچانک گرفت میں نہ لینا۔ اور نہ غافل کرنا ہمیں

حَقٍّ وَلَا وَصِيَّةِ اللَّهُمَّ اِنْسُ وَحُشِيَّتِي فِي قَبْرِي اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ

حق اور وصیت سے۔ اے اللہ میری وحشت کو انس میں بدلتا قبر میں۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں

بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَى نَجِيِّكَ وَعِيسَى رُوحِكَ

تجھ سے بطفیل تیرے نبی محمد اور تیرے قبیل ابراہیم اور تیرے کلیم موسیٰ اور عیسیٰ روح اللہ

وَكَلِمَتِكَ وَبِتُورَةِ مُوسَى وَإِنْجِيلِ عِيسَى وَنَبُورِ دَاوُدَ وَفُرْقَانَ

و کلمتہ اللہ کے اور بطفیل تورات موسیٰ۔ انجیل عیسیٰ۔ زبور داؤد اور فرقان

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكُلِّ وَحْيٍ أَوْحِيَتْهُ أَوْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بطفیل ہر وحی کے جو تو نے بھیجی اور قضاء کے جس کے

أَوْ سَأَلَ أَعْطَيْتَهُ أَوْ فَقِيرٌ أَعْدَيْتَهُ أَوْ غَنِيٌّ أَفْقَرْتَهُ أَوْ ضَالٌّ هَدَيْتَهُ

ساتھ حکم کیا اور ہر سائل کے جسے عطا کیا اور ہر فقر کے جسے غنی کیا اور ہر غنی کے جسے فقیر کیا اور گمراہ کے جسے

أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي

ہدایت دی۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل اس اسم کے جو موسیٰ پر نازل فرمایا۔ اور سوال کرتا ہوں بطفیل اس اسم کے جسے

وَضَعْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَعَلَى

زمین پر رکھا تو قرار پذیر ہو گئی اور آسمانوں پر رکھا تو قائم ہو گئے اور پہاڑوں

الْجِبَالِ فَارْسَتْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ وَأَسْأَلُكَ

پر رکھا تو گڑ گئے۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل اس اسم کے جس سے عرش قرار پذیر ہوا اور سوال کرتا

بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ مِنْ لَدُنِكَ وَبِاسْمِكَ

ہوں بظیفیں تیرے طاہر و مطہر اسم کے جو تیری ہی کتاب میں تیرے پاس سے نازل کیا گیا۔ اور بظیفیل اس اسم کے

الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى اللَّيْلِ فَأُظْلِمَ وَبِعَظَمَتِكَ

جسے دن پر رکھا تو روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو تاریک ہو گئی اور بظیفیل تیری عظمت و

وَكِبْرِيَاكَ وَبِنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تَرْتُرُقْتِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَتَخْلَطُهُ

کبریائی اور نور ذات کے کہ مجھے قرآن عظیم نصیب فرما اور اسے ملا دے

بِلِحْيِي وَدَمِي وَسَبْعِي وَبَصْرِي وَتَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِي بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ

میرے گوشت اور خون اور کانوں۔ آنکھوں کے ساتھ اور عامل بنائے اس پر میرے جسم کو اپنی قوت و طاقت

فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ بِسْمِ اللَّهِ ذِي الشَّانِ عَظِيمِ الْبُرْهَانَ شَدِيدِ

سے کیونکہ نہیں ہے طاقت و قوت مگر ساتھ تیرے۔ ساتھ نام اللہ کے جو عظیم شان والا۔ عظیم برہان اور شدید

السُّلْطَانَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا

غلبہ و تسلط والا ہے۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما جو سید قرآن عظیم کے۔ اسے میرا امام اور نور بنا دی

وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا

اور موجب رحمت بنا دے۔ اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس سے جو بھولا ہوں اور معلوم کرا دے جس سے

جَهَلْتُ وَأَسْأَلُكَ تِلَاوَتَهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي

بیخبر ہوں اور مجھے اس کی تلاوت نصیب فرما شب و روز کے تمام اوقات میں اور اسے میرے لیے

حُجَّةً يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ

حجت بنا دے اے رب العالمین۔ اے اللہ میں تیرا عبد اور تیرے عبد کا بیٹا اور تیری باندی کا بیٹا ہوں

نَاصِيَتِي بِيَدِكَ أَتَقَلَّبُ بِلِقَائِكَ وَأُؤَمِّنُ بِوَعْدِكَ وَأُؤَمِّرُتَنِي

میری پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے میری جنبش تیری تقاضے سے ہے اور تیرے وعدہ پر ایمان ہے

فَعَصَيْتُ وَنَهَيْتَنِي فَأَبَيْتُ وَهَذَا مَكَانُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّاسِ

تو نے حکم دیا مگر میں نے نافرمانی کی اور منع کیا میں نے باز رہنے سے انکار کیا اور یہ مکان ہے آتش سے پناہ طلب کرنے والوں کا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

ساتھ تیرے نہیں محبوب برحق مگر تو پاک ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا پس مجھے معاف فرما کیونکہ موت تو ہی گناہ

إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَ

بنتا ہے۔ اے اللہ مجھے بخش و رحم فرما اور کوتاہی دور فرما۔ ہدایت دے اور عافیت بخش اور

ارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي وَاعْطِنِي مِنْ عَطَاءِ الْخَفِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

رزق عطا کر۔ بلندی بخش اور عطاء خفی سے نواز۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالصَّبْرِ صَبْرًا جَمِيلًا

سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ نے صبر جمیل کا حکم دیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَمَرَهُ اللَّهُ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے امر

بِالْهَجْرِ هَجْرًا جَمِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

فرمایا اغیار کو احسن طریقہ پر چھوڑنے کا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَعَدَّ اللَّهُ رَمِيَةً سَأَمَىٰ اللَّهُ تَعْظِيمًا وَبَيْعَتَهُ بَيْعَتٌ

محمد پر جن کے مارنے کو اللہ نے ازراہ تنظیم رہنا مارنا قرار دیا اور ان کی بیعت کو

اللَّهُ تَكْرِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ازروئے تکریم اپنی بیعت۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مَنْ عَلَّقَ اللَّهُ جَنَّتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ فِي مَتَابِعَتِهِ تَعْظِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ اللہ نے اپنی جنت اور مغفرت کو ازروئے تنظیم ان کی متابعت سے علق فرمایا۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ

و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر کہ تلاوت فرمائیں اللہ نے ان پر

الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

آیات اور ذکر حکیم۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ

محمد پر جن پر اللہ نے کتاب و حکمت نازل فرمائی اور انہیں بتلایا جو کچھ بھی نہیں جانتا

يَعْلَمُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَمْرِهِ

تھا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہیں اللہ نے حکم دیا

اللَّهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلوں کا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ

اور آل سیدنا محمد پر جن پر اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَجَلِ الْمَوْجُودَاتِ

درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو جلیل تر ہیں تمام موجودات سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْمَوْجُودَاتِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو مکرم ترین ہیں تمام موجودات سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْسَنِ الْمَوْجُودَاتِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو حسین ترین ہیں تمام موجودات سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد اور آل محمد پر جو انبیاء کی زینت ہیں

وَأَصْفَى الْأَصْفِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور سب اصفیاء سے زیادہ صاف باطن ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خِيَارِ الْأَصْطَفَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

آل اطہار پر جو سب چنے ہوؤں سے بہتر ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا رَحَى الدُّنُوبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ

آل محمد پر جو محبوب گناہوں کو محو کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر

ذَنْبٍ يَدْرَسُ مِنِّي مَا ظَهَرَتْهُ وَيَكْتِشِفُ عَنِّي مَا سَتَرْتَهُ أَوْ يَقْبَحُ مِنِّي

گناہ سے کہ جو میلا کرے جس کو میں نے ظاہر کیا اور کھول دے جسے میں نے چھپایا یا بد صورت کرے

مَا زَيَّنْتَهُ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ لَا يُنَالُ بِهِ عَهْدُكَ وَلَا يُؤْمَنُ مَعَهُ أَرْتِفَاعٌ

جسے میں نے مزین کیا اور ہر گناہ سے کہ نہیں حاصل ہو سکتا اس سے تیرا عہد اور نہیں اطمینان ہوتا اس کی موجودگی میں

غَضَبِكَ وَلَا تَنْزِلُ بِهِ رَحْمَتَكَ وَلَا تَدُومُ مَعِيَ نِعْمَتِكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ

تیرے غضب کی دوری کا اور نہ تیری رحمت کے نزول اور نہ تیری نعمت کے دوام کا اور واسطے ہر گناہ کے

اسْتُخْفِيَتْ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ عَنْ عِبَادِكَ وَيَادِرْتُ بِهِ فِي ظِلِّهِ اللَّيْلِ

کہ چھپائیں اس کے ساتھ دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے۔ اور علانیہ کیا اسے رات کی تاریکی

جُرْعَةً مِّنِّي عَلَيْكَ عَلَىٰ أُمَّيِّ أَعْلَمُ أَنَّ السِّرَّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ مِّنْكَ

میں تجھ پر بیباکی کرتے ہوئے باوجود جاننے کہ خفیہ بھی تیرے نزدیک علانیہ ہے بغیر

مَانِعٍ وَلَا يَنْفَعُنِي عِنْدَكَ نَافِعٌ مِّنْ مَّالٍ وَلَا بَيْنِينَ إِلَّا أَنْ آتَيْتَكَ

رکاوٹ کے اور نہیں نفع دیتا تیرے ہاں کوئی نافع امر مال ہو یا اولاد مگر جبکہ حاضری دول تیری بارگاہ میں

بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۗ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي قَلْبًا سَلِيمًا وَفِي قَلْبٍ سَلِيمٍ عَلِيمًا

قلب سلیم کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا کر اور اس میں وسیع علم عطا کر جو

وَإِسْعًا مِّنْ أَرْتِ سِرِّ عُلُومِ الدُّنْيِ النَّبَوِيِّ الْبَاقِيَةِ وَغَيْرِهِ لِحَبِيبِهِ

تیرے محبوب کے نبوی لدنی دائمی علوم مخفیہ کی وراثت سے ہو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ وَّرَاثَةِ الظَّاهِرِيِّ وَالْبَاطِنِيِّ لِمَحْبُوبِهِ

صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے محبوب احمد

أَحْمَدَ الْمُجْتَبَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

مجتبے صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ظاہرہ اور باطنہ سے ہو۔ اے اللہ درود و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَالِي الدُّرُوبِ وَخَيْرِ الْقُلُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد اور آل محمد پر جو غم و اندوہ کو دور کرنے والے ہیں اور بہترین قلب والے ہیں تمام قلوب۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلِمَ الْهُدَاةَ وَحَسَنَ الصِّفَاتِ

درود و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ہادیوں کے علم ہدایت ہیں اور حسین صفات والے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْبَيِّنَاتِ وَ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو واضح آیات والے ہیں اور

ذُرِّ الْعَصَاةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گنہگاروں کیلئے ذمیرہ (منفرت) ہیں۔ اے اللہ درود و سلام بھیج سیدنا محمد و آل محمد پر

اَسْتَعِي الْمَلٰٓئِكُ وَرَبِّ السَّمٰوٰتِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

جو سب بیچوں رحیموں سے خوبصورت ہیں اور سخاوت کے مالک ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الصُّبْحِ وَرُكْنِ الصَّلٰوةِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

آل محمد پر جو صبح درخشاں کا نور اور صلاح و بہتری کا دار و مدار ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَاعِيَ الْفَلَاحِ وَمَدْعُو الْفَرٰحِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو کامیابی کی طرف دعوت دینے والے اور خوشیوں کی طرف بلانے والے ہیں

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْاَنَامِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو خیر انام ہیں

وَمَا حِيَ الْاَتَامِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور گناہ مٹانے والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

بَدْرِ الظُّلَامِ وَكُلِّ الْمَرَامِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

جوتاریکیوں کے دور کرنے والے ماہ کامل اور عین مقصود ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَسَنِ الشُّبٰنِ اٰلِ وَرُبِّي الْخَصَائِلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

محمد پر جو حسین عادات والے اور پاکیزہ خصال ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسَبِّحِ الْاَنَامِ وَاَعْلٰى الْوَسَائِلِ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو انگلیوں کے پوروں سے بھی تسبیح خواں ہیں اور تمام وسائل سے اعلیٰ ترین ہیں



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْبَرِيَاءِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو تمام مخلوق کے سردار اور

و خَيْرِ الْعَطَايَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بہترین عطیہ قدرت ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

مُجْرَى الْعَطَايَا وَسَاتِرِ الْخَطَايَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جو عطاؤں کے جاری کرنے والے اور خطا پوش ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَوْتِ الْتَّهْيِيفِ وَعَوْنِ الضَّعِيفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آل محمد پر جو فریادرس ہیں مصیبت زدگان کے اور مددگار ہیں ضعیفوں کے۔ اے اللہ درود و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَشْرَى الضُّيُوفِ وَوَرِثَةِ الرَّؤُوفِ

سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو سراپا بشارت ہیں مہمانوں کے لیے اور نور ہیں رؤف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْآخَائِرِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو بہترین ہیں تمام بہترین لوگوں سے

وَعَالِي الْمَفَاخِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اعلیٰ اوصاف والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

فَخِرِ الْمَنَابِرِ وَضَوْءِ الْبَصَائِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو منبروں کے فخر اور بصیرتوں کی ضیاء ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَشِّرِ السَّلَامَةِ وَخَلَّاصَةِ مَنْ تَهَامَتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر جو سلامتی کی بشارت دینے والے اور تمامہ کاجوہر خالص ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِتَوَلِّ بَطُولِ أَصْلِ الْأُصُولِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو دنیا سے قطع تعلق والے۔ جو امر کمال اور اصول

إِلَهِي بِحُرْمَتِ أَصْلِ أُصُولِ وَوُجُوهِ حُصُولِ آيَاتِنَا تَابِعِ حَاخَادِذِ

دارکان کی اصل و بنیاد ہیں۔ اے میرے الٰہی بطن حرمت ان وصول و حصول کے اصل الاصول کے یعنی آیاتنا ج ح خ و ذ



رَا زَا سَ شَ صَ ضَ طَا طَاعَ غَ فَا قَ كَلَمَانَ وَهَالَا عَيَا اللَّهُمَّ

رازا س ش ص ض ط طاع غ فاق ک ل م ن و ہا ل ا ع ی ا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّسَبِّحًا بِرَسُوْلِ

صلوٰۃ و سلام پر سیدنا محمد و آل محمد پر جو رسول اللہ کے اسم و لقب والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَابِقِ

اے اللہ صلواۃ و سلام پر سیدنا محمد و آل محمد پر جو متقدمین پر سبقت

الْمُبْتَدِئِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَابِقِ الْمُبْتَدِئِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

جو پہلے رہ جانے والوں کے پہلے والے ہیں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ مِّنْ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

آل پر جن پر تو نے قرآن نازل فرمایا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ ذِكْرِهِ اللهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ

آپ کی آل پر جس محبوب کا ذکر تو نے تورات و انجیل اور زبور و فرقان میں کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ تَصَرُّهُ اللهُ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ نے مدد دی

فِي الْعُدْوَانِ وَالْعَسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اہل عدوان اور عساکر پر۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ فَتَحَ اللهُ لَهُ الْبُلْدَانَ مَعَ الْوُلْدَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جن کو اللہ تعالیٰ نے شہروں اور اہلیان پر فتح عطا فرمائی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ بَشَّرَهُ اللهُ بِالْغُفْرَةِ وَالرِّضْوَانِ

نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ نے مغفرت اور رضامندی کا مژدہ دیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن يُسِّرُهُ اللَّهُ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن پر اللہ تعالیٰ نے وعظاً آمان

التَّذْكَرَةَ وَبَصْرَهُ اللَّهُ بِالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

فرمایا اور آخرت کی بصیرت عطا کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن زَكَّى نَفْسَهُ مِنْ مَّحَبَّةِ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ

آپ کی آل پر جنہوں نے اپنے آپ کو محبت دنیائے پاک کر دیا۔ اے اللہ بنا دے اپنی محبت کو

أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي اللَّهُمَّ إِذَا

میری طرف محبوب ترین تمام اشیاء سے۔ اپنے خوف کو سب سے زائد بنا دے۔ اے اللہ جب

أَقْرَبَتْ عَيْنُونَ أَهْلَ الدُّنْيَا بَدُنِيَا هُمْ فَأَقْرَبُ عَيْنِي بِكَ وَبِعِبَادَتِكَ وَ

تر ٹھنڈی کرے اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا کے ساتھ تو ٹھنڈی کر میری آنکھ اپنی ذات اور اپنی عبادت کیساتھ

أَقْطَعُ عَنِّي لَذَائِدَ الدُّنْيَا بِأَنْسِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ وَاجْعَلْ طَاعَتَكَ

اور قطع فرما مجھ سے دنیاوی لذتوں کو اپنے انس اور شوق لقاء کے ساتھ اور بنا دے میرے

فِي كُلِّ شَيْءٍ مِّمِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ ارْتُقِنِي حُبَّكَ وَحُبَّ

ہر عضو اور جزو کو اپنی طاعت میں اے جلال و اکرام والے۔ اے اللہ مجھے عطا فرما اپنی محبت اور

مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْ

اپنے محبوب کی محبت اور محبت کرنے والوں کی محبت اور محبت اس عمل کی جو تیرے قریب کر دے اور اپنی

حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْعَطْشَانِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ

محبت کو تمام اشیاء سے زیادہ محبوب بنا دے مانند ٹھنڈے پانی کے واسطے پیاسے کے۔ اے جلال و

الْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَاسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَةً

اکرام والے۔ اے اللہ مجھے پیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جام سے ساتھ اپنی رحمت کے

لَا أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ بِبَرَكَاتِكَ

ایسا شربت کر میں اس کے بعد کبھی پیلا سا نہ ہو سکوں۔ اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ بظہیر اپنے

أَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ وَكُلِّ مَا كَانَ عِنْدَكَ حَقٌّ صَبَّ عَلَى قُلُوبِنَا

انبیاء و اولیاء کی برکت کے اور ہر اس شے کے جو تیرے نزدیک برحق ہے، ہمارے دلوں پر پلٹ

كَأْسِ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ كَمَا صَبَبْتَ عَلَى قَلْبِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اپنے شراب محبت کا جام جیسے اپنے نبی محمد کے قلب پر پلٹا صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ وَعَلَى سَائِرِ قُلُوبِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَكَمَا صَبَبْتَ عَلَى سَائِرِ

وسلم اور دیگر تمام انبیاء و مرسلین کے قلوب پر اور جیسے تو نے پلٹا اسے تمام

قُلُوبِ مَشَائِخِ الطَّرِيقَةِ أَجْمَعِينَ فَاطْمِئِنَّ اللَّهُمَّ مِنْ قُلُوبِنَا حُبِّ

مشائخ طریقت کے قلوب پر پس اے اللہ ہمارے قلوب سے محو فرما دے غیر کی محبت

غَيْرِكَ وَأَسْقِنَا بِكَأْسِ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَاجْعَلْنَا سُكَّارِي مَنْهٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

اور ہمیں پلا دے اپنی محبت کا جام شراب اور اسی سے ہمیں مست و بخود بنا دے اے رب العالمین

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ صَفَى قَلْبَهُ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کا دل اقدس مصفی ہے

مِنَ الْمِيلِ إِلَى الدُّنْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دنوی میلان سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَنْ عَطَّرَ سِرَّهُ بِشَاهِدَةِ الْمَوْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جنہوں نے اپنے اندرون کو مشاہدہ مولی سے معطر فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَذَا اللَّهُ إِلَيْهِ وَدَعَاهُ اللَّهُ وَأَسْرَاهُ اللَّهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے اپنی طرف راہ بخشی اور اپنی طرف شب اسراء

إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَرَاغ

چلایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نہ مائل ہوئی

بَصْرَهُ بِالسَّيْرِ إِلَى الْغَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان کی نگاہ دوران سیر غیر کی طرف۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ كَلَّمَ مَعِ رَبِّهِ وَسَمِعَ مِنْهُ الْكَلَامَ اللَّهُمَّ مِنَ الْأَكْدَارِ

آل پر جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کلام کیا اور اس کا کلام سنا۔ اے اللہ آلاشوں سے مجھے

وَاحْفَظْنِي حَتَّى لَا أَسْكُنَ إِلَى شَيْءٍ عِزًّا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الْمُصْطَفِينَ

محفوظ فرما حتیٰ کہ کسی تنہا کی طرف مجھے سکون نہ ہو جیسے کہ تو نے محفوظ فرمایا اپنے برگزیدہ بزرگ

الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْنِي اللَّهُمَّ بِمَا ذَكَرْتَ بِهِ ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَابِرِ

بندوں کو اور مجھے یاد فرما جیسے تو نے یاد فرمایا دو میں سے دوسرے کو جبکہ وہ دونوں غابریں تھے

وَإَيْدِنِي اللَّهُمَّ عِنْدَ شُهُودِ الْوَارِدَاتِ بِأَلَا سْتَعْدَادِ وَالْإِسْتِبْصَارِ وَأَفْضُ

اور میری تائید فرما۔ اے اللہ واردات کے مشاہدہ کے وقت استعداد کامل اور بصیرت بخش کر

عَلَى مَنْ بَحَارِ الْعَنَابَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ الصِّدِّيقِيَّةِ مَا أَنْدَرَجَ بِهِ

اور مجھ پر فیضانِ فرما عنایتِ محمدیہ اور محبتِ صدیقیہ کے سمندروں سے کہ داخل ہو جاؤں اگلے ذریعے

فِي ظُلْمِ غِيَاهِبِ عِيُونِ الْأَنْوَارِ وَاجْمَعْنِي بِي وَأَجْعَلْ لِي بَيْنَ سِرِّكَ

انوار کے چشموں کی اتنا گہرائیوں میں اور مجھے میری حقیقت کے ساتھ جمع فرما اور بنا میرے لیے درمیانی

الْمَكْنُونِ الْخَفِيِّ وَالْإِسْتِظْهَارِ وَاكْشِفْ لِي عَنْ سِرِّ أَسْرَارِ أَفْلَاكِ التَّدْوِيرِ

حالتِ خفا و ظہور میں اپنے سرمنون کے درمیان اور کشف فرما مجھ پر افلاکِ تدویر کے سرالاسرار کو

فِي حَوَاشِي التَّصْوِيرِ لِأَدْبَرِ كُلِّ فَلَكٍ بِمَا أَقَمْتَهُ مِنَ الْأَسْرَارِ وَأَجْعَلْ

تصاویر و اشکال کے اطراف میں تاکہ میں تدبیر کروں ہر فلک کی ان اسرار کے ساتھ جو اس سے قائم فرمائے اور بنا

لِي الْحِطِّ الْخَطِيرِ الْمَمْدُودِ الْقَائِمِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْحُرُوفِ وَالْإِسْمِ

میرے لیے عظیم اور وسیع حصہ جو عدل کو قائم رکھنے والا ہو درمیانِ حرف و اسم کے

فَأَحِيطُ وَلَا أَحَاطُ بِأَحَاطَةِ لِمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ رَبُّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ بِسْمِ

تاکہ میں احاطہ کروں اور میرا احاطہ نہ کیا جاسکے بطریق اس احاطہ کے جس کیلئے ہے ملک آج و صرف اللہ واحد

اللَّهُ كَهَيْعِصٍ كُنَيْتٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ

تسار کیلئے ہی ہے بسم اللہ کہ بیعت میری کفایت کر دی گئی پس عنقریب تجھے اللہ کی طرف سے کفایت فرمائے گا وہی سمیعِ علیم ہے بسم اللہ

حَمْسَقٌ حَمِيْتُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

حَمْسَقٌ میری حمایت کی گئی ہے۔ اور نہیں کچھ طاقت اور قوت مگر اللہ بزرگ عظیم کی توفیق سے بسم اللہ

الْغَيْ غَيْتٌ وَعِنْدَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا

الغی بظہیل اللہ غنی کے اسم کے مجھے غنی کر دیا گیا اور اسی کے پاس ہیں خزانے غیب کے جنہیں وہی جانتا ہے اور وہ

فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ

جانتا ہے بحر و بر کی ہر شئی کو اور جو پتہ گرتا ہے اسے جانتا ہے اور نہیں کوئی دانہ زمین کی

الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيمِ عَلَّتُ

تاریکیوں میں اور نہ کوئی تر اور خشک شئی مگر روح محفوظ میں ہے۔ اللہ علیم کے اسم کی برکت سے مجھے علم

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الْقَوِيِّ الْقَوِيْتُ وَسَادَ اللَّهُ الَّذِينَ

دیا گیا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ قوی کے اسم کی برکت سے میں نے قوت پائی اور ٹھایا اللہ نے

كَفَرُوا وَابْغَيْظَهُمْ لَمَّ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ

کفار کو ان کے غیظ سمیت نہ پائی انہوں نے کچھ خیر اور کفایت فرمائی اللہ نے مؤمنین کو جنگ سے۔ اور اللہ

قَوِيًّا عَزِيزًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قوی عزیز ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَى فِيهِ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ اللَّهُمَّ

جو اس مقام والے ہیں "میرا اللہ کے ساتھ مخصوص وقت ہوتا ہے جس میں میری گناہیں نہیں رکھتا کوئی اللہ کا بندہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ فَأَوْحَى

درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو اس مقام والے تو وحی کی اللہ نے

إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنے عبد خاص کی طرف جو وحی کی" اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو اس مقام والے ہیں البتہ دیکھا انہوں نے اپنے رب کی بڑی آیات۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَمْدِ الَّذِي هُوَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو حمد والے ہیں جو کہ عطیات الہیہ کے

مِفْتَاحُ أَقْفَالِ الْعَطِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا

تاوان کی چابی ہیں حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا موت (نیند) دینے کے بعد

وَالِيهِ الْبَعْثُ وَالنُّشُورُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضَ

اور اسی کی طرف ہے ہمارا بعث اور شر۔ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے آسمانوں کی مقدار۔ زمینوں کی مقدار

وَمَلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَاهْلُ الثَّنَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ

اور ان کے مابین کی مقدار اور جو تو نے پیدا فرمانے کا ارادہ کر رکھا ہے اس کی مقدار تو مقدار ہے ثنا و کبریا

وَالْمَجْدِ وَأَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عِبِيدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ

اور بزرگی کا اور زیادہ لائق ہے اپنے عبد مختص کے اس قول کے اگرچہ ہم سبھی تیرے عبد ہیں "نہیں مانع تیری عطا

وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادٌّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ

کے لیے اور نہیں معطی تیری روکی ہوئی شئی کا اور نہیں کوئی مانع والا تیری قضا کا اور نہیں نفع دینا کسی نسب والے کو

الْجَدُّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ عَلَيَّ مَا خَصَّصْتَنِي بِهِ

اس کا نسب۔ اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں جیکہ تو حمد کے لائق ہے ان پسندیدہ عطیات پر جن سے مجھے مختص

مِنْ مَوَاهِبِ الرَّغَائِبِ وَأَوْصَلْتَ إِلَيَّ مِنْ فَضَائِلِ الصَّنَائِعِ وَأَوْلَيْتَنِي

بھرایا۔ اور بزرگتر نیکیوں پر جو مجھ تک پہنچائیں اور مالک بنا یا اپنے احسان

بِهِ مِنْ إِحْسَانِكَ بَوَّأْتَنِي بِهِ مِنْ مَقَامِ الصَّدَقِ عِنْدَكَ وَأَنْتَ تَنِي بِهِ

کا۔ ٹھکانہ دیا اپنے ہاں مقام صدق میں۔ اور عطا کیے

مِنْ مَنِّكَ الْوَأَصْلَةَ إِلَيَّ وَأَحْسَنْتَ بِهِ إِلَيَّ مِنْ إِندِقَاءِ الْبَيْلِيَّةِ عَنِّي وَ

اپنے انعامات جو واصل ہیں مجھ تک اور احسان کیا مجھ سے بیایات کے دور کرنے کا اور

التَّوْفِيقِ لِي وَالْإِجَابَةَ لِدُعَائِي حِينَ أُنَادِيكَ دَاعِيًا وَأُنَاجِيكَ رَاغِبًا

توفیق بخشنے کا اور میری دعا کی قبولیت کے ساتھ جب کہ میں تجھے پکاروں دعا کرتے ہوئے اور سرگوشی کروں رغبت

وَادْعُوكَ مُضَارِعًا مُصَافِيًا وَحِينَ أَرْجُوكَ رَاجِيًا فَاجِدْكَ اللَّهُمَّ

اور دعا کروں زاری کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ اور جبکہ تجھ سے امید رکھوں تیری پس تجھے پاؤں۔ اے اللہ

لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ أَحْمَدٌ

تیری حمد ہے تو برابر رکھنے والا ہے سموات و الارض اور ان کے مابین کا۔ اور تیری حمد کرتا ہوں

حَمْدَ الَّذِي لَيْسَ الْحَمْدُ وَتَكَرَّرَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا

مانند حمد اس شخص کے جس نے حمد کا لباس اوڑھا اور کرامت پائی ساتھ اس کے۔ پاک ہے وہ کہ تسبیح صرف اسی کے

لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ الَّذِي

شایاں ہے۔ نہیں معبود برحق مگر وہی۔ پاک ہے جس نے ہر شئی کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہے۔ پاک ہے

الْفَضْلِ وَالْمِنَّةِ سُبْحَانَ الَّذِي الطُّولِ وَالْحِكْمِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ الَّذِي الْعِزَّةِ

فضل و احسان والا۔ پاک ہے توانائی اور حکمتوں اور نعمتوں والا۔ پاک ہے عزت اور کامل

وَالتَّكْرُمِ سُبْحَانَ الَّذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ الَّذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

بزرگی والا۔ پاک ہے بزرگی اور کرم والا۔ پاک ہے جلال و اکرام والا۔

أَسْأَلُكَ بِمَعَارِقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عرش کے عزت والے پیوندوں کے طفیل اور تیری کتاب کے منتہائے

بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَجَدِّكَ الْأَعْلَى وَكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا

رحمت اور تیری عظیم تر اور کامل بزرگی کے طفیل۔ اور بطفیل اللہ کے کلمات تامہ کاملہ کے جن سے

يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کوئی نیک اور بد تجاوز نہیں کر سکتا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَمْرَةٍ اللَّهُ يَتَّبِعُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے حکم دیا اس کی طرف مکمل رجوع اور رحمت کا۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَمْرَةٍ اللَّهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے حکم دیا



بِالِاسْتِقَامَةِ تَعْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

استقامت کا از روئے تعلیم را امت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَنِ اعْتَدَّ اللَّهُ إِطَاعَتَهُ طَاعَةَ اللَّهِ تَعْظِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ اللہ نے جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت شمار کیا از روئے تعظیم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَالِبِ الْهُدَى لِمَنْ جَفَا عَلَيْهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو جفا کاروں کے لیے بھی ہدایت کے طلبگار ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنِ عَفَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے اپنے

عَنْ أَصْحَابِهِ الرِّزْلَةَ اللَّهُمَّ أَحِينَا وَأَمْتِنَا عَلَى حُبِّهِمْ وَأَحْفَظْنَا مِنْ

اصحاب کی لغزش سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا اور مارنا ان کی محبت پر اور بچانا ان کے

بُغْضِهِمْ وَسَبِّهِمْ وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْنَاقِنَا

بغض اور سب و شتم سے۔ اور نہ بنانا ان میں سے کسی کا اور نہ اہل اسلام میں سے کسی کا ہماری گردنوں

ظَلَامَةً وَاجْعَلْهُمْ شُفَعَاءَنَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ ارْضَ عَن

میں بدلہ جفا اور انہیں قیامت میں ہمارے شفیق بنانا۔ اے اللہ راضی ہو

قُطْبِ الْأَقْطَابِ وَقَرِّدِ الْأَحْبَابِ وَالْعَامِلِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

قطب الاقطاب اور یکتائے احباب سے اور کتاب و سنت پر عامل سے

وَالْقَائِلِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ قَدَمِي هَذَا عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَبِيَّ اللَّهُ

اور علانیہ یہ قول کرنے والے سے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔

الْغُوثِ الْفَرْدِ الْأَوْحَدِ أَبِي الْمَكَارِمِ وَالْمَحَاسِنِ أَعْنِي بِهِ الشَّيْخُ شَيْخُنَا

غوث۔ یکتا۔ یگانہ مکارم و محاسن کے مالک سے میری مراد ہے شیخ

وَمُرْشِدِنَا مُحَمَّدِي السُّنَّةِ وَالِدَيْنِ سَيِّدِنَا عَبْدَ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ

و مرشد محمدی السنۃ والدین سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی اللہ ان کے

سِرَّةً وَأَعَدَّ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ خُصُوصِيَّاتِهِ وَنَفَحَاتِهِ وَجَلَوَاتِهِ

باطن کو پاک رکھے اور ڈھانے ہم پر اور تمام اہل اسلام پر ان کے خصوصیات اور خوشبو میں اور جلوے

وَاحْشُرْنَا فِي زَمْرَتِهِ تَحْتَ لَوَاعِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور اٹھائے ہمیں ان کی جماعت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہے کے نیچے

وَوَالِدِينَا وَمَشَارِكِنَا وَمُعَلِّمِينَا وَإِخْوَانِنَا وَأَصْدِقَائِنَا وَمُحِبِّينَا وَ

اور ہمارے والدین و مشائخ اور اساتذہ۔ بھائیوں اور دوستوں اور محبوں کو اور

كَافَّةَ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيََاءَهُ وَرَسُولَهُ

تمام اہل اسلام کو۔ میں گواہ بناتا ہوں اللہ اور تمام ملائکہ اور انبیاء و رسل کو

وَالْحَاضِرِينَ مِنْ خَلْقِهِ اِثْنِي تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُجْتَنِبٌ مَنْ

اور مخلوق میں سے تمام حاضرین کو کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول کی طرف، اجتناب کرنے والا ہوں

مَحَارِمِهِ مُجْتَهِدٌ عَلَى طَاعَاتِهِ مُنِيبٌ إِلَيْهِ مُوَاطِبٌ عَلَى خِدْمَتِهِ

حرام امور سے سنی کرنے والا ہوں طاعات پر قلبی طور پر رجوع کرنے والا ہوں طرف اللہ کے اور فقراء و مساکین کی خدمت پر

الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ وَإِنِّي سَيِّدُنَا وَقَدْ وَتْنَا إِلَى

ہمیشہ کار بند رہوں گا اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور یہ کہ ہمارے سردار اور مقتدائے

اللَّهِ تَعَالَى الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّةَ

راہ خدا۔ شیخ محمد الدین عبدالقادر الجیلانی قدس سرہ العزیز

شَيْخِنَا وَمُرْشِدُنَا وَمُقْتَدَانَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ

ہمارے شیخ و مرشد اور مقتدا ہیں دنیا و آخرت میں اور اللہ ہمارے قول پر

وَكَيْلٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وکیل ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مَنْ صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ الرُّوْيَا يَفْتَحْ مَكَّةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

کہ جن کے خواب کو تو نے سچا کر دیا فتح مکہ کے ساتھ سے اللہ میں استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے فضل

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ وَقُدْرَتِكَ

اور قدرت طلب کرتا تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ اور سوال کرتا ہوں تیرے فضلِ عظیم اور قدرت کاملہ سے

فَاتَّكُ تَقْدِيرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ

کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو ہی تمام غیب کے کامل علم والا ہے۔ اے اللہ

إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا اللَّهُمَّ إِنْ

بیشک میں نہیں مالک اپنی ذات کے لیے ضرر و منفعت کا اور نہ حیات اور نہ اٹھنے کا۔ اے اللہ اگر

كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ كَانَ خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي

تو جانتا ہے کہ کوئی بھی امر بہتر ہے میرے لیے میرے دین اور معاش اور انجام کار میں

فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ

تو اسے میرے مقدر فرما اور سہل بنا پھر اس میں مجھے برکت دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ کوئی امر

شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي

میرے لیے براہے دین و معاش اور انجام کار میں تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر

عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

اور مقدر فرما میرے لیے خیر کو جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما بظنیل اپنی رحمت کے اے ارحم

الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

الراحمین۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَنْ شَرِهَدَا اللَّهُ أَنَّكَ رَسُولُهُ كَمَا شَرِهَدَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُمَّ

پر جن کے متعلق اللہ نے شہادت دی کہ وہ میرے رسول ہیں جیسے کہ انہوں نے شہادت دی کہ تمہیں مبود برحق مگر اللہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مخصوص ہیں

بِطَيْبِ النَّشْرِ إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پاکیزہ نکتہ کے ساتھ قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَرُوسِ الْخَافِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور آپ کی آل پر جو دولہا ہیں مشرق و مغرب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو مکہ و حرم کے امام ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ

و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر کہ بنایا اللہ نے ان کے منبر اور

بَيْنَ مَثْبُورَةٍ وَرَوْضَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

قبر انور کی درمیانی جگہ کو جنت۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْجَنَّةَ وَالتَّارَ مُمَثِّلَتَيْنِ فِي ظِلِّ حَائِطِ حُجْرَتِهِ

محمد پر جنہوں نے دیکھا جنت اور دوزخ کو تمثیل اپنے حجرہ مبارک کی دیوار کے سایہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ بنایا

جَعَلَ اللَّهُ التُّورَ مِنْ قَبْرِهِ عُمُودًا سَاطِعًا مِنَ الْفَرَشِ مُتَّصِلًا بِقِيَابِ

اللہ نے آپ کی قبر انور سے عمودی شکل میں بلند ہونے والا نور فرش زمین سے قبر عرش تک

الْعَرْشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

متصل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ حَوْضَهُ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ جُدَادَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ بنایا اللہ نے ان کے حوض کو دو ماہ کی مسافت تک وسیع۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ شَرِبَ مِنْ حَوْضِهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس نے پی لیا ان کے حوض سے

شَرِبَ هَنِيئَةً مَرِيئَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

ایک خوشگوار گھونٹ نہیں پیسا ہوگا اس کے بعد کبھی۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَهَىٰ اللَّهُ الْخَلْقَ أَنْ يَرْفَعُوا

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ منع فرمایا تو نے مخلوق کو ان کی آواز پر

أَصْوَاتَهُمْ فَوْقَ صَوْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آوازیں بلند کرنے سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَاقَىٰ الْعَطَاشَ مِنَ الْكُوْتْرِ الَّذِي قُبَابُهُ مِنْ

محمد پر جو پلانے والے ہیں پیاسوں کو تھوڑے کوثر سے جس کے قبہ جات

اللُّؤْلُؤِ الْمُجَوَّفِ وَكِيْرَانُهُ عِدَادُ النُّجُومِ أَوْ أَكْثَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اندر سے خالی موتیوں سے ہیں اور اس کے کٹوے ستاروں کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَكَنْتَ بِهِ صَدْمَةَ قَهْرْمَانَ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے طفیل رک گینا غلبہ جبروت کے قہرمان

الْجَبْرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و تسلط کا۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي أَنْزَلْتَ بِهِ الطَّافِكَ الْوَارِدَةَ مِنْ أَبْوَابِ الْمَلَائِكَةِ اللَّهُمَّ

کہ جن کے طفیل تو نے نازل فرمائے اپنے الطاف جو داخل ہونے والے ہیں ملکوت کے دروازوں سے اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّحْمَةَ الْمُسْدِلِ

اللہ صلوات و سلام نازل ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو سراپا رحمت ہیں اور پھیلانے والے

بِهَا أَذْيَالُ لُطْفِكَ وَسِتْرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہیں تیرے لطف اور پردہ پوشی کے دامنوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد و

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَصْمَةَ الْمَانِعَةَ لَنَا عَنْ أَنْزَالِ قَهْرِكَ اللَّهُمَّ

آل محمد پر جو مجسم عصمت ہیں روکنے والے ہیں ہم پر سے تیرے قہر کے نزول کو اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ

میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بطغیل تیرے اسم اعظم اور کلمات تامہ کے تنگدلی اور زہریلے

وَالْهَامَةِ وَأَعُوذُ بِكَ بِأَسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ

جانوروں کے شر سے۔ اور پناہ طلب کرتا ہوں بطین تیرے اسم اعظم اور کلمات تامہ کے تیرے بندوں

عِبَادِكَ وَمِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ

کے شر اور عذاب کے شر سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر سرکش شیطان اور ہر

كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا يَجْرِي بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَاتُ

سماند و جبار کے شر سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں شب و روز میں جاری ہونے والے کے شر سے بیشک

رَبِّي اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

میرا رب اللہ ہے کہ نہیں مسمود برحق مگر وہی اسی پر میں نے توکل کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔

إِلَهِي سَلَطْتَ عَلَيْنَا عَدُوًّا أَبْصِيرًا يَرِنَا بَعِيوبَنَا هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ

اے میرے الٰہ تو نے ہم پر ایسا دشمن مسلط کیا جو دیکھنے والا ہے ہمارے عیوب کو خود بھی اور اس کا قبیلہ بھی جہاں سے

لَا نَرَاهُمْ اللَّهُمَّ فَإِسْءُ مِنَّا كَمَا أَيْسَتْهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَبْطُهُ مِنَّا

ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ اے اللہ اسے ہم سے مایوس فرما جیسے کہ اسے اپنی رحمت سے مایوس کیا ہے اور نامید فرما اسے

كَمَا قَبْطْتَهُ مِنْ عَفْوِكَ وَأُبْعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا أَبْعَدْتَ بَيْنَهُ وَ

ہم سے جیسے نامید کیا اپنی عفو سے اور دوری پیدا فرما ہمارے اور اس کے درمیان جیسے تو نے اس کے اور جنت

بَيْنَ جَنَّتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

کے درمیان دوری پیدا کی۔ بے شک تو ہر شئی پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔

عَذَابِ الْقَبْرِ وَسُوسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

قبر کے عذاب۔ دل کے وسوسہ اور امور کی پراگندگی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا

بِكَ أَنْ يَدْعُو عَلَيَّ رَحِمًا قَطَعْتَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيئُ بِهِ

ہوں اس سے کہ بد دعا کرے مجھ پر رحم جسے میں نے قطع کیا اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہواؤں کے لائے ہوؤں کے

الرِّيَاحِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ

شر سے اور میں پناہ طلب کرتا ہوں دوزخیوں کے حال سے اور ہر اس شر سے جس سے تیرے نیک

عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ ۗ وَأَنْ تُكْفِيَنِي شَرَّ مَا يَدْبُرُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ  
بندوں نے پناہ طلب کی۔ اور یہ کہ کفایت فرمائے مجھے زمین میں داخل ہونے والے اور اس سے خارج ہونے والے

مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَبُ فِيهَا وَمَنْ شَرَّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَمَنْ  
کے شر سے اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو اس میں پڑھتا ہے اور ہر شریر کے شر سے اور ہر بشر اور

شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَوَحْيَةٍ وَعَقْرَبٍ وَكُلِّ شَيْءٍ عَقُورٍ وَشَرِّ سَاكِنِ  
سیاہ اژدہا اور سانپ اور بچھو کے شر سے اور ہر کانٹے والی شے کے شر سے اور دیہاتوں اور شہروں کے

الْقُرَى وَالْمَدِينِ وَالْحُصُونِ وَالْقَلَادِعِ وَالْحَمِيَّاتِ وَسَائِرِ الْوَحْشِيَّاتِ  
ساکنین اور حصون و قلعہ جات اور گناہوں کے ساکنین اور تمام وحشیوں کے شر سے

فَمَهْلِكِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
پس مہلت دے کافروں کو (نیوی زندگی میں) مہلت دے انہیں۔ اور جب تم گرفت کرو گے حیر و تعجب کی حالت میں۔ پس اللہ

وَاطِيعُونَ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ  
سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ کا رنگ ہے اور کون زیادہ احسن ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ پڑھانے میں۔ اور ہم اسی کے

عَابِدُونَ يَا رَشِيدُ أَرْشِدْنَا وَاحْفَظْنَا مِنْ جُحْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ  
عبادت گزار ہیں۔ اے رشید ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں محفوظ فرما بلیات کی مشقت اور شقاوت کے احاطہ

وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشِمَاتِ الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ كَيْفَ أَدَاءُ تَنَائِهِ مِنَّا وَأَنْتَ  
اور ناپسندیدہ قضاء اور دشمنوں کی شادمانی سے۔ اے اللہ کیسے ممکن ہے ہم سے اس محبوب کی تناء کرنا اور تو نے

الْهَمَّتِي فِي شَانِهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ شَيْءٌ قَدْرَهُ إِلَّا أَنَا وَكَفَى لَهُ وَصْفُكَ  
ہی مجھے اللہ فرمایا ان کی شان میں کہ ان کا شان و قدر صرف میں ہی جانتا ہوں اور کافی ہے ان کیلئے تیری توصیف

كَمَا سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا أَحْمَدًا فِي الْأَوَّلِ بِاسْمِ الدَّاتِي وَالصَّفَاتِي يَا اللَّهُ  
جیسے کہ تو نے انہیں محمد و احمد نام سے موسوم کیا ابتداء میں ذاتی اور صفاتی نام سے۔ اے اللہ

هُوَ تَوْسُطُنَا لِلْوُجُودِ نَافِكُلُّ دَعْوَاتِنَا وَنِيَّاتِنَا وَحَاجَاتِنَا بِتَوْسُطِهِ  
وہی ہمارے وجود کے لیے وسیلہ ہیں لہذا ہماری تمام دعائیں۔ نیات اور حاجات بھی انہیں کے توسل سے ہیں

إِلَيْكَ فَتَقَبَّلْهَا وَأَقْضِهَا بِوَجْهِ الْأَحْسَنِ بِحُرْمَتِهِ بِخَيْرِ الْخَيْرَاتِ يَا

طرت تیری لہذا انہیں قبول فرما اور احسن طریقہ پر پورا فرما بظہیل ان کی عزت کے اور سب بہترین سے بہتر کے۔ یا

رَسُولَ اللَّهِ أَنَا غَرِيبٌ مُسْكِينٌ فَقِيرٌ إِلَيْكَ وَعَنِي بِكَ لَا تَذَرُ لِفَقِيرِهِ وَ

رسول اللہ میں غریب و مسکین اور آپ کی طرف محتاج ہوں اور آپ کے ذریعے غنی ہوں۔ اے اللہ نہ چھوڑ ان کے

غَرِيبِهِ وَمُسْكِينِهِ بِأَيِّ حَالٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ مِنْ نَظَرِ إِحْسَانِهِ بِعَفْوِهِ

فقیر و غریب اور مسکین کے لیے کسی حال میں اور کسی زمانہ میں نظر احسان کو برسیلہ ان کے عفو و

وَعَفْوَانِهِ وَإِمْدَادِهِ وَأَعَانَتِهِ وَحِفْظِهِ بِفَضْلِهِ الْكَرِيمِ الْعَظِيمِ بِحُرْمَةِ

بخشش اور امداد و اعانت و حفاظت کے بسبب ان کے فضل کریم و عظیم کے بظہیل

حُسْنِ خُلُقِهِ وَأَصْطِفَائِهِ وَاجْتِبَائِهِ اللَّهُ بِاللَّهِ بِحَقِّ الْحَقِّ هـ

حرمت ان کے خلق حسن اور مصطفائی و محتبائی کے اللہ کے ہاں۔ خدا کے لیے بظہیل حقیقت الحق کے۔

يَا حَبِيبَ الْإِلَهِ خُذْ بِيَدِي ❖ مَا لِعَجْزِي سِوَاكَ مُسْتَنْدِي

اے حبیب الہ میری دستگیری فرماؤ ❖ نہیں ہے میرے عجز کے لیے تمہارے سوا کوئی سہارا

كُنْ رَحِيمًا لِدَلَّتِي وَاشْفَعُ ❖ يَا شَفِيعَ الْوَارِي إِلَى الصَّمَدِ

مہربان رہیے میری لغزش پر بھی اور شفاعت کیجئے ❖ بارگاہ صمدیت میں اے ساری مخلوق کے شفیع

إِعْتَصِمْ بِمِي سِوَا جَنَابِكَ لِي ❖ لَيْسَ يَا سَيِّدِي إِلَى الْأَحَدِ

آپ کی بارگاہ کے علاوہ میری عصمت کا موجب ❖ کوئی نہیں ہے اے میرے آقا

غَيْرُ عُرْوَتِكَ لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ ❖ لِعَلِيلٍ ذَلِيلٍ مُعْتَمِدِي

سوائے تیرے مضبوط حلقہ کے دونوں جہان میں نہیں ہے ❖ اس بیمار و بیچارہ کے لیے جائے اعتماد

صَلَوَاتِي عَلَيْكَ فِي الْمَلَكُوتِ ❖ كَانُ مَتَجَاوِزًا عَنِ الْعَدَدِ

میرے درود و صلوات ہوں آپ پر دونوں جہانوں ❖ میں گنتی و شمار سے زیادہ

اللَّهُ بِقَبُولِكَ فِي كُلِّ حَالِنَا بِلَا نَظَرِ حَسَنَاتِنَا بِحَضْرِ إِحْسَانِكَ

اے اللہ تیری قبولیت ہمارے شامل حال ہے تمام احوال میں بغیر نظر کئے طرف ہماری نیکیوں کے محض اپنے احسان



وَفَضْلِكَ الْعَظِيمِ كَيْفَ وَلَيْسَ مِنَّا حَسَنَةٌ إِلَّا نَقُّ لِقَبُولِكَ يَا سَيِّدَنَا

و فضل عظیم سے کیونکہ ایسے نہ ہو جیکہ نہیں ہماری کوئی نیکی اے ہمارے سید و مولیٰ تیری قبولیت کے لائق

يَا مَوْلَانَا لَكَ تَيْسِيرٌ بِالْوَاقِعِ كُلِّ مَا شِئْتَ أَنْ أَعْبِيدَكَ وَأَبْنُ عِبِيدِكَ

تیری طرف سے ہی تو تین ہی فی الواقع ہر اس امر میں جو تو چاہے، میں تیرا ناقص بندہ ہوں۔ اور ناقص بندے کا بیٹا

وَأِنْ كَانَ أَنَا عَبْدٌ أَبْنُ مُذْنِبٍ عَاصٍ بِذُنُوبٍ كَثِيرٍ كَثِيرٍ لَكِنْ

اگرچہ میں بھگا ہوا گناہگار عاصی بندہ ہوں بے حد گناہوں کے ساتھ لیکن

لَيْسَ لَنَا أَحَدٌ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ أَوْلَىٰ لَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْتَ وَلِيِّنَا وَأَنْتَ

نہیں ہمارا کوئی بھی سوائے تیرے تو زیادہ رحیم ہے ہم پر نسبت ہمارے نفوس کے تو ہمارا کارساز اور

مَوْلَانَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا مَوْلَانَا جَلْمِكَ وَرَحْمَتِكَ وَقَبُولِكَ وَ

مولیٰ امور ہے دنیا و آخرت میں اے ہمارے مولیٰ تیری بردباری اور رحمت، قبولیت اور

شَفَاعَتِكَ أَوْسَعُ وَأَعْظَمُ لِلْعَفْوِ وَالشَّفَاعَةِ لِجَمِيعِ الْمَذْنِبِينَ وَ

شفاعت زیادہ وسیع و عظیم ہے تمام گناہگاروں کی بخشش اور شفاعت کے لئے اور

لِلْقَبُولِ وَلِلْوَسِيلَةِ لِجَمِيعِ الْمُتَمَسِّينَ الرَّاجِينَ وَالْعَاجِزِينَ

قبولیت تو سل کے لیے واسطے تمام اہل التماس امیدواروں - عاجزوں -

الْمُتَحَيِّرِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَىٰ نَبِيًّا

حیرت زدوں اور کمزوروں کے لیے۔ جزا اے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے افضل ترین جزا نسبت

عَنْ أُمَّتِهِ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۗ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

اس جزا کے جو کسی بھی نبی کو امت کی طرف سے دی - بے شک آپ کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور آپ خلق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

عظیم پر حاوی ہو اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے اسم مبارک کو

حَبَّ اللَّهُ اسْمُهُ أَنْ يُسْتَسْتَبَىٰ بِهِ أَحَدٌ مِّنْ عِبَادِهِ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَمِيلَادِهِ

تو نے محفوظ رکھا اس سے کہ کوئی اس سے موسوم ہو آپ کے ظہور و ولادت سے قبل -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يَدْخُلُ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر کہ نہیں داخل ہوگا

النَّارَ مِنَ الْأَنْامِ مَنْ يُسْتَبَى بِاسْمِهِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَوْ كَانَتْ نَفْسًا فِي كُلِّ

آتش دوزخ میں جو ان کے نام سے موسوم ہوگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اگرچہ ہمارا نفس ہر

حَالٍ أَذُنَبَ الْمُدْنِيِّينَ وَأَحْيَرَ الْمُتَحَيِّرِينَ وَأَجْهَلَ الْجَاهِلِينَ وَأَضَلَّ

حال میں سب سے گناہگار تر اور سب حیرت زدگان سے زیادہ حیرت والا۔ سب جاہلوں سے جاہل تر

الْمُضِلِّينَ وَأَخْيَبَ الْخَائِبِينَ وَأَعْصَى الْعَاصِينَ فَلَا تَحْرِمْنَا قَارُونَ

اور گمراہوں سے گمراہ تر اور رسواؤں سے رسوا تر اور نافرمانوں سے نافرمان تر ہے پھر بھی ہمیں محروم نہ فرما اور ہمیں

مِنْ كَمَالِ شَفَاعَتِهِ وَدَلَالَتِهِ وَذَخِيرَتِهِ وَوَسِيلَتِهِ وَهَدَايَتِهِ وَ

نصیب فرما ان کی شفاعت کاملہ اور رہنمائی اور ذخیرہ سے اور ان کے وسیلہ، ہدایت اور

عِنَايَتِهِ وَحِفْظِهِ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ وَأَحْسَانِكَ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عنايت و حفاظت سے اپنے فضل عظیم اور احسان کریم کے ساتھ۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِلْمَةِ وَالْغَمَامَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر جو امتیازی علامت اور سایہ نغمہ بادل اور نبوت و رسالت والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُنَادِي يَوْمَ

درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جنہیں نداوی جائے گی قیامت کے دن

الْقِيَامَةِ أَكْرَامًا لِعُلُوِّ قَدْرِهِ وَعَظَمَتِهِ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ يُسْتَبَى بِاسْمِهِ

ان کے علو قدر اور عظمت کے اکرام کے طور پر چاہیے کہ جنت میں داخل ہو جائے جو موسوم ہے ان کے نام نامی سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ قَبْلِ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جس نے ان کے نام کا بوسل یا

إِسْمِهِ فِي كِتَابٍ رَفَعَهُ عَنهُ الْعَذَابُ يَا اللَّهُ إِذَا اسْتُغْفِرَ آدَمُ بِحَقِّهِ فَغَفِرَتْ لَهُ

کتاب میں تو اس سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اے اللہ جب آدم نے مغفرت طلب کی ان کے توسل سے تو تو نے انہیں بخش دیا

فَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا لَا يَعْزِمُنَا وَعَمَلْنَا وَوَقَّفْنَا لِمَرْضِيَاتِكَ وَتَبَتُّنَا

پس ہم سے بھی درگزر فرما اور ہمیں بخش اور رحم فرما نہ ساتھ ہمارے علم و عمل کے۔ اور ہمیں توفیق دے اپنے پسندیدہ امور کی اور

عَلَى دِينِكَ وَعَلَى طَاعَتِكَ بِخَيْرِ الْخَيْرِينَ بِكُلِّ قَوْلِنَا وَفِعْلِنَا وَحَالِنَا بِحَقِّهِ وَ

ثابت رکھ اپنے دین اور طاعت پر بظیفیل بہترین خلاق کے ہمارے ہر قول و فعل اور حال میں بحق محمد اور

بِحَقِّ حَلْمِهِ وَاحْسَانِهِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْتَ مَوْلَانَا وَأَنَا عِبْدٌ عَاجِزٌ بِالْفِعْلِ وَ

بظیفیل ان کے علم و احسان کے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی ہمارا مولیٰ ہے اور میں عاجز بندہ ہوں فعل و

الْقُوَّةِ بَدَاتِنَا وَصِفَاتِنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالظَّالِمِينَ وَالْجَابِرِينَ

قوت میں باعتبار اپنی ذات و صفات کے پس ہمیں مدد دے کافروں۔ ظالموں۔ جاہلوں۔

وَالْجَائِرِينَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْجَاهِلِينَ وَعَلَى كُلِّ حَاسِدٍ وَعَلَى كُلِّ مُعَادِيٍّ

اہل جور اور متکبر و جاہل قوم پر اور تمام اہل حسد و اہل عناد پر بظیفیل تمام

بِحُرْمَةِ جَمِيعِ الْمُقْبُولِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَ

مقبولین انبیاء و مرسلین اور صالحین کے اگرچہ ہم میں

لَنَا قَابِلِيَّةٌ بِأَدَاءِ الدُّعَاءِ الْمُقْبُولِ لَكِنْ أَنْتَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالْإِجَابَةِ الْكَامِلَةِ

قابلیت نہیں ہے مقبول دعا کی ادائیگی کی لیکن تو مالک ہے توفیق کا اور کامل اجابت کا

تَقْبَلْنَا بِحُرْمَةٍ وَعِزَّةٍ مُّحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَبِحُرْمَةٍ وَعِزَّةٍ جَمِيعِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ

پس ہمیں قبولیت بخش اپنے حبیب محمد کی حرمت و عزت کے طفیل اور ان کے مقبول آل و اصحاب اور

أَتْبَاعِهِ الْمُقْبُولِينَ الْأَقْبَلِينَ بِاجْتِبَاءِكَ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

اتباع کی حرمت و عزت کے طفیل جو مقبول ترین ہیں تیرے اجتناء کریم کے سبب۔ لے اللہ درود و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ لِأَجْلِهِ مَلَائِكَةَ سَيَّاحِينَ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کے لیے اللہ نے سیاح ملائکہ پیدا فرمائے ہیں ہمیشہ زیارت کرنے

مَدَّ الْأَبْدَانَ لِزِيَارَةِ كُلِّ دَارٍ فِيهَا اسْمُهُ أَحْمَدٌ وَمُحَمَّدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے لیے اس مکان کی جس میں احمد و محمد نام والا شخص ہو۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اقْتَعَدَ غَارِبَ الْجُودِ مِنْ مَكَامِنِهِ  
سیدنا محمد و آل محمد پر جو متمکن ہوئے جو دروزال کی گردن پر اس کے خفیہ ٹھکانے

وَخَزَائِنِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبُخْصُوصِ  
اور محزون سے۔ لے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو مختص ہیں

بِالْقِسْمِ بِهِ عَلَى مَوْلَاهُ دُونَ مَخْلُوقٍ سِوَاهُ اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ  
قسم کے ساتھ اپنے مولیٰ کی طرف سے بغیر دوسرے انسانوں کے۔ لے اللہ۔ لے مالک ارواح اور بوسیدہ

الْبَالِيَةِ أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الْأَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِهَا وَبِطَاعَةِ الْأَجْسَادِ  
اجسام کے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطیفیل اطاعت ان ارواح کے جو اپنے اجسام کی طرف لوٹنے والے ہیں اور بطیفیل ان

الْمَلْتَمَةِ بِعُرُوقِهَا وَبِكَلِمَاتِكَ التَّافِذَةِ فِيهِمْ وَأَخِذْكَ الْحَقُّ مِنْهُمْ وَالْخَلَائِقُ  
اجسام کی اطاعت کے جو اپنی رگوں سے ملنے والے ہیں اور بطیفیل تیرے کلمات کے جو ان میں موثر ہیں اور بطیفیل تیرے ان سے حق وصول کریں گے

بَيْنَ يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصَلِّ قَضَائِكَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتِكَ وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ  
جب کہ خلائق تیرے سامنے تیری قضاء و فیصلہ کے منتظر ہوتے تیری رحمت کے امیدوار اور تیرے عذاب سے خوفزدہ ہونگے

أَنْ تَجْعَلَ النَّوْرَ فِي بَصَرِي وَذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي وَعَمَلًا صَالِحًا  
کہ پیدا کرے نور میری نگاہ میں اور اپنا ذکر شب و روز میری زبان پر جاری کرے اور عمل صالح

فَارْزُقْنِي اللَّهُمَّ أَفْرِدُنِي لِمَا خَلَقْتَنِي وَلَا تُشْغِلْنِي بِمَا تَكَلَّمْتَنِي بِهِ وَلَا  
نعیب فرمائے۔ لے اللہ مجھے یکسوئی بخش مقصد تخلیق کے لیے اور مجھے مشغول نہ فرما ان امور میں جن کا تو کفیل

تَحْرِمْنِي وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ  
ہو چکا اور محروم نہ رکھ حالانکہ میں تجھی سے سوال کرتا ہوں۔ اور مجھے عذاب نہ دینا جبکہ میں تجھی سے شامل ہوں اور مجھے عذاب نہ دینا

اللَّهُمَّ أَحْيِ قَلْبِي وَأَمِتْ نَفْسِي حَتَّىٰ أَحْيَاكَ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
جبکہ میں تجھی سے استغفار کرتا ہوں۔ لے اللہ میرا دل زندہ فرما اور میرا نفس مازنا کہ میں تیرے طیفیل حیات طیبہ حاصل کروں دنیا و آخرت

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
میں بیشک تو ہر شئی ہر کامل دسترس والا ہے۔ لے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ سَلِّمِ الرِّضَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پیر جو حصول رضا کی سیڑھی ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ رَفِّ رُفِّ الإِصْطِفَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پیر جو اصطفاء کا رُفِّ رُفِّ ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِدْرَةَ الإِنْتِهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

محمد پیر جو منتہائے کمالات کے لیے سدرہ ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الْعَالَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

محمد پیر جو آفتاب جہانتاب ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَدْرِ الْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی آل پیر جو کمالات کے ماہ تمام ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَجْمِ الْهُدَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی آل پیر جو ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَوْهَرِ الْكُونَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی آل پیر جو دونوں جہان کی اصل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَلِيكَ الأَقْدَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی آل پیر جو محبوب تیرے قدیم ترین خلیل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِ الأَكْرَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی آل پیر جو حبیب مکرم ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ الأَقْوَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی آل پیر جو تیرے مضبوط ترین سلطان ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْقَائِمِ بِأَمْرِكَ اللَّهُمَّ لَيْسَ أَنْتَ بِغَائِبٍ نَنْتَظِرُهُ وَلَا بِغَائِلٍ

آپ کی آل پیر جو تیرے امر کو قائم رکھنے والے عبد ہیں۔ اے اللہ تو غائب نہیں کہ ہم انتظار کریں اور غافل نہیں



تَذِكْرَهُ وَلَا يَنْأِيكُمْ تَرْجِيهِ وَلَا يَعْجِزُ نَهْجُهُ يَا تَوَّابُ أَنْتَ التَّوَّابُ عَلَى مَنْ

کہ یاد دہانی کرائیں۔ اور سویا ہوائیں کہ اٹھائیں اور عاجز نہیں کہ چھوڑ دیں اے تواب تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے

تَابَ وَالْمُقَرَّبُ لِمَنْ أَنْابَ وَأَنْتَ الَّذِي بَسَطْتَ نُورَ كَرَمِكَ عَلَى قُلُوبِ الطَّلَبِ

اہل توبہ کی اور قریب بخشنے والا ہے اہل اتانہ کو اور تو نے ہی اپنے نورِ کرم کو اہل طلب کے قلوب پر پھیلا یا

وَأَنْتَ الَّذِي أَحْيَيْتَ أَرْوَاحَ أَهْلِ الرُّوحِ وَطَابَ حَتَّى رَجَعُوا إِلَيْكَ وَهَادُوا

تو نے ہی ذمی روحوں کے روحوں کو زندگی بخشی اور پاکیزگی دی حتیٰ کہ وہ تیری طرف لڑے اور مائل ہوئے

إِلَيْكَ بِسِرِّهِمْ وَنَابُوا إِلَيْكَ بِقُلُوبِهِمْ وَمَا لَوْ إِلَّا إِلَيْكَ بِظُؤَاهِرِهِمْ مِنْكَ

اپنے سراڑ کے ساتھ اور نائے ہوئے تیری طرف اپنے قلوب کے ساتھ اور راغب ہوئے اپنے اجسام کے ساتھ

الْخَوْفِ وَالْتَّائِبُ وَالِإِيَابُ إِلَيْكَ مَا الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ التَّوْبَةِ

تیری طرف سے ہی خوف اور تقویت ہے اور تیری طرف ہی بازگشت ہے قریب و بعید کی میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

وَضِيَاءِ الْأَدَمَةِ وَكَمَالِ الرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ أَنْ تَرْتُمَنِي إِلَى الْإِيَابِ إِلَيْكَ سِرًّا

اے اللہ بظیفیل نور توبہ اور رجوع الی اللہ کی ضیاء کے اور کمالِ رافت و رحمت کے کہ مجھے عطا کرے اپنی طرف رجوعِ خفیہ اور

جَهْرًا وَالْوُقُوفَ لَدَيْكَ حَكْمًا وَأَمْرًا وَأَحْفَظْنِي مِنْ كَرَمِكَ حَتَّى لَا أَنْقَهَرَ إِلَى

اور ملائیہ اور اپنے ہاں ٹھہرنا از روئے حکم و امر کے اور محفوظ فرما مجھے اپنے کرم کے ساتھ تاکہ نہ واپس لوٹوں

فَجَالِ التَّفْرِقَةِ عِقَابًا وَقَهْرًا وَأَجْبِرْنِي بِنَظَرَةٍ مِنْكَ لِأَنَّا لَسِرِّ قَوْلِكَ سَيَجْعَلُ

مقامِ تفرقہ کی طرف از روئے عقاب و قہر کے اور میری کوتاہی دور فرما اپنی نظرِ کرم سے تاکہ میں پاؤں تیرے اس قول کا رازِ حقیقت

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ سِرًّا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبِرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ

عنقریب پیدا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد سہولت۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں رضا کا بعد قضا کے اور پسندیدہ

الْمَوْتِ وَلِدَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضْرَّةٍ وَ

گزران کا بعد موت کے اور تیری ذات کی طرف نظر کی لذت کا اور تیرا شوق لقاء بغیر کسی ضرر رساں امر کے

لَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ سَقِّ الْيَتَامَى مِنْ رَحْمَتِكَ مَا يَغْنِينَا وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا

اور گمراہ کن فتنہ کے۔ اے اللہ پھیل ہماری طرف اپنی رحمت سے جو ہمیں بے نیاز کر دے اور نازل فرما ہم پر

مِنْ بَرَكَاتِكَ مَا يُكْفِينَا وَادْفَعْ عَنَّا مِنْ بَلَائِكَ مَا يُبَلِّغُنَا وَالْهَمْنَا مِنَ الْعَمَلِ

اپنی برکات سے جو ہمیں کفایت کریں۔ اور دور کر ہم سے اپنی بلیات کو جو ہمیں بوسیدہ کر دیں اور ہمیں الہام فرما

الصَّالِحِ مَا يَنْجِينَا وَجَبِّنَا مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ مَا يَرُدُّنَا وَأَفْضُ عَلَيْنَا مِنَ

عمل صالح کا جو ہمیں نجات دلائے۔ اور دور فرما ہمیں اس برے عمل سے جو ہلاکت میں ڈالے۔ اور ہم پر فیضان فرما

تَوْهْرِهِدَايَتِكَ مَا يَقْرِبُنَا مِنْ مَحَبَّتِكَ وَيُدْنِينَا وَادْفَعْ عَنَّا مِنْ مَقْتِكَ مَا

اپنے نور ہدایت سے جو ہمیں تیری محبت کے قریب و نزدیک کر دے اور دور فرما ہم سے اپنی ناراضگی جو

يُؤْذِنَا وَأَقْذِفْ فِي قُلُوبِنَا مِنْ تَوْهْرِ مَعْرِفَتِكَ مَا يُحْيِينَا وَأَرْسُقْنَا مِنَ

ہمیں ایذا دے اور ڈال دے ہمارے دلوں میں اپنے نور معرفت سے جو ہمیں زندگی بخشنے اور عطا کر ہمیں

الْيَقِينِ مَا يَثْبُتُ بِهِ أَفْعِدْنَا وَيُشْفِينَا وَعَافِنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِنْ كُلِّ مَا

اتنا یقین کہ ثبات رکھے اس کے ساتھ ہمارے قلوب اور ہمیں شفا و عافیت دے ظاہر و باطن کے لحاظ سے ہر عوائض

فِيْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ

سے جو ہم میں ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو آخری نبی

وَصَادِقِ الْوَعْدِ الْأَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سچے وعدہ والے اور امین ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الشَّفِيعِ الْكَرِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جو قیامت کے دن شفیع کریم ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعِزِّ الشَّامِخِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر جو ہالہ صفت عزت والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الْمَجْدِ الْبَازِجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر جو کہ نمایاں بزدگی والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

النُّورِ الظَّاهِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَقِّ

جو بلند و بالا نور ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر جو سراپا واضح

الْوَاضِحِ الرَّهْمِيِّ حَسَنَاتِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْهَا لَوْ هَبْتُكَ أَيَّهَا وَأَنَا عَبْدُكَ فَكَيْفَ

حق ہیں۔ اے اللہ میری نیکیاں باوجود میری ان کی طرف محتاجی کے میں نے تجھے پیش کر دیں حالانکہ میں تیرا بندہ ہوں پس

لَمْ تَهَبْ لِي سَيِّئَاتِي مَعَ غِنَاكَ عَنْهَا وَأَنْتَ رَبِّي اللَّهُ أَمَرْتَنَا أَنْ لَا نَرُدَّ

کیسے نہ جتنے گامیری خاطر میری برائیاں باوجود دینے نیازی کے حالانکہ تو میرا رب ہے۔ اے اللہ تو نے میں حکم دیا کہ مساکین کو اپنے

الْمَسَاكِينَ عَنْ أُبُوَائِنَا وَنَحْنُ مَسَاكِينُكَ فَلَا تَرُدَّنَا عَنْ بَابِكَ يَا كَرِيمُ

دروازوں سے نہ ٹھکراؤ اور ہم تیرے مساکین ہیں لہذا تو بھی ہمیں نہ ٹھکانا اپنے در اقدس سے اے کریم

وَأَمَرْتَنَا أَنْ نَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَائِنَا وَنَحْنُ فُقَرَاءُكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وَ

اور تو نے حکم دیا کہ ہم فقراء پر صدقہ کریں اور ہم تیرے فقیر ہیں لہذا تو ہمیں صدقہ و خیرات دے اور

أَمَرْتَنَا أَنْ نَعْتَقَ مَنْ شَابَ فِي مَلِكِنَا فَأَعْتَقْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَحِيمُ وَ

تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بوڑھے مملوک کو آزاد کر دیں پس تو بھی ہمیں آزاد فرما اے رحیم۔ اور

أَمَرْتَنَا أَنْ نَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمْنَا وَقَدْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَأَعْفُ عَنَّا بِرَحْمَتِكَ

تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم درگزر کریں ظلم کرنے والوں سے اور ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے پس ہم سے درگزر

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُ صَرَفَتْ رَجَائِي إِلَيْكَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ وَأَحْسَنْتَ

فرمایا اپنی رحمت کے ساتھ اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ میں نے اپنی امید کو تیری ذات کریم کی طرف متوجہ کیا اور اچھا کیا ہے

ظَنِّي فِي عَفْوِكَ الْعَظِيمِ فَارْحَمْنِي وَارْحَمْ وَالِدِي وَأَخَوَانِي وَالْمُسْتَسْبِينَ

اپنا گمان تیری عظیم عفو میں پس مجھ پر رحم فرما اور میرے والدین اور بھائیوں اور میرے اہل نسبت پر

إِلَى وَارِضْ عَنِّي وَعَنِ الْمُنْعَمِينَ عَلَيَّ وَلَا تَصْرِفْ رَجَائِي عَنْ وَجْهِكَ

اور مجھ سے راضی ہو اور مجھ پر انعام کرنے والوں سے اور میری امید کو اپنی ذات کریم سے

الْكَرِيمِ حَائِبًا وَلَا تَجْعَلْ حُسْنَ ظَنِّي فِي عَفْوِكَ الْعَظِيمِ كَاذِبًا لِلَّهِ كَيْفَ

نامراد نہ لوٹانا اور میرے حسن ظن کو اپنی عفو عظیم کے منقلب نہ جھوٹا نہ بنانا۔ اے میرے الٰہ میں کیسے

أَصْدُرُ عَنْ بَابِكَ حَائِبًا وَقَدْ وَرَدْتَنِي عَلَى ثِقَةٍ وَكَيْفَ تُوَسِّئِي بِنُحْوَاطِكَ

لوٹوں نامراد تیرے در اقدس سے جبکہ میں پر وارد ہوا ہوں وثوق کے ساتھ۔ اور تو کیسے مایوس فرمائے گا اپنی عطا سے



وَقَدْ أَمَرْتَنِي بِدُعَاكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا

جبکہ تو نے ہی مجھے علم دیا ہے دعا کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری مخصوص رحمت کا جس کے طفیل

قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أُمْرِي وَتَلْمَسُ بِهَا شَعْتِي وَتُصَدِّحُ بِهَا دِينِي وَتَقْضِي بِهَا

میرے دل کو ہدایت دے اور امور کو جمعیت اور پراگندگی کی اصلاح فرمائے اور حاجات پوری فرما دے

حَاجَتِي وَتَحْفَظْ بِهَا غَايِبِي وَتَرْفَعْ بِهَا شَاهِدِي وَتَبَيِّضْ بِهَا وَجْهِي

اور حفاظت فرمائے میرے غائب کی اور بلندی بخشے میرے حاضر کو اور روشن کرے لبیب اس کے میرے چہرے کو

وَتَرْكِبِي بِهَا عَمَلِي وَتُدْهِمْنِي بِهَا رَشْدِي وَتَرُدُّ بِهَا الْفِتْيُ وَتَعْصِمْنِي بِهَا

اور پاکیزہ فرمائے عمل کو اور الہام فرمائے رشد و بھلائی کا اور لوٹائے میری الفت کو اور بچائے مجھے ہر

مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَتَغْفِرْ لِي بِهَا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ

برائی سے اور بخشے میرا ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ۔ اے اللہ اے رب

إِرْحَمْ مَنْ ضَاقتْ عَلَيْهِ الْأَكْوَانُ وَلَمْ تُوْنِسِ الثَّقَلَانِ وَقَدْ أَصْبَحَ

رحم فرما اس پر جس پر جہاں تنگ ہو گئے اور جن و انس اس سے مانوس نہ ہوئے اور وہ صبح

وَأَمْسَى مُوْلَهَا حَيْرَانٌ وَأَضْحَى غَرِيبًا وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْأَهْلِ وَالْأَوْطَانِ

دشام سرگردان و حیران ہے اور غریب الوطن ہو چکا اگرچہ بظاہر اہل و تعارب اور وطنوں

مَنْزِعًا لَا يَأْوِيهِ مَكَانٌ قَلَقًا لَا يُلْهِمِيهِ عَنْ بَيْتِهِ وَحَزْنًا لَا تَغْيِرُ الْأَرْمَانِ

میں ہے۔ بے قرار ہے کوئی مکان اسے جگہ نہیں دیتا۔ مضطرب ہے اسے ملال و حزن سے غافل نہیں کرتا

مُسْتَوْحِشًا لَا يَأْنِسُ قَلْبُهُ بِأَنْسٍ وَلَا جَانٌّ رَبِّ هَلْ فِي الْوُجُودِ سَبٌّ

زمانوں کا تغیر و وحشت زدہ ہے نہیں انس گیر ہونا اس کا دل کسی انسان و جن کے ساتھ۔ اے میرے رب کیا تیرے سوا کوئی رب

سِوَاكَ فَيَدْعِي أَمْرًا فِي الْمَمْلَكَةِ إِلَهًا غَيْرَكَ فَيَرْجِي أَمْرًا كَرِيمًا غَيْرَكَ

موجود ہے تاکہ اسے پکارا جائے یا مملکت میں تیرے علاوہ کوئی الہ ہے تاکہ اس سے امید رکھی جائے یا کوئی کریم

فَيُطَلِّبُ مِنْهُ الْعَطَا أَمْرًا هَلْ تَمَّ جَوَادٌ سِوَاكَ فَيَسْأَلُ مِنْهُ الْفَضْلَ وَالنِّعْمَاءَ

تیرے علاوہ ہے جس سے عطا کی طلب کی جائے یا تیرے علاوہ کوئی صاحبِ جود ہے جس سے الغام و فضل کا رواں کیا جائے



أَمْ هَلْ حَاكِمٌ غَيْرُكَ فَيَرْفَعُ إِلَيْهِ الشَّكْوَى تُرِيحَالُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ عَلَيْهِ

یا تیرے علاوہ کوئی حاکم ہے جس کے پاس شکایت کی جائے پھر عبد فقیر کو اس کے حوالے کیا جائے

أَمْ هَلْ تَمَّ مَنْ تَبْسُطُ الْأَكْفُ وَتَرْفَعُ الْحَاجَاتُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا

یا کہیں کوئی ہے کہ دست سوال اس کے سامنے پھیلائے جائیں اور حاجات پیش کی جائیں پس ہمیں ہے ہمارے لیے

كِرْمُكَ وَجُودُكَ يَا مَنْ لَا مَدْجًا إِلَّا إِلَيْهِ يَا مَنْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ

مگر صرف تیرا کرم اور جود۔ اے کہ نہیں ہے ہمارے پناہ مگر طرف اسی کے۔ اے کہ جو پناہ دیتا ہے اور اس پر پناہ

أَهَاهُنَا كَرِيمٌ غَيْرُكَ فَيُرْجَى أَمْ مَنْ سِوَاكَ جَوَادًا فَيُسْئَلُ مِنْهُ الْعَطَا

نہیں دی جاتی۔ کیا یہاں تیرے سوا کوئی کریم ہے تاکر اس سے امید کی جائے یا تیرے علاوہ کوئی صاحب جود ہے جس سے عطا کا

رَبِّ قَدْ جَفَانِي الْحَبِيبُ وَمَلَكِي الطَّيِّبُ وَشِمْتِ بِنِي الْعَدُوِّ وَالْقَرِيبِ

سوال کیا جائے۔ اے میرے رب مجھ پر دوستوں نے جفا کی اور طیبیوں نے ظالم ظاہر کیا اور میرا دشمن اور قریبی میری وجہ سے

وَأَشْتَدُّ بِنِي الْكُرْبِ وَالنَّجِيبِ وَأَنْتَ الْوَدُودُ الْقَرِيبُ الرَّءُوفُ الْمُهَيَّبُ

خوش ہوا۔ اور سخت ہو گیا میرا اندوہ اور نالہ و فریاد۔ اور تو ہی بہت محبت والا قریب مہربان اور دعائیں قبول فرمانے والا ہے

رَبِّ إِلَى مَنْ أَشْكُو حَالَتِي وَأَنْتَ الْعَلِيمُ الْقَادِرُ أَمْ بِمَنْ أَسْتَنْصِرُ

اے میرے رب میں کس کے سامنے اپنی شکایت حال کروں حالانکہ تو علیم و قادر ہے یا میں کس سے نصرت طلب کروں

وَأَنْتَ الْوَلِيُّ النَّاصِرُ أَمْ بِمَنْ أَسْتَعِيثُ وَأَنْتَ الْوَلِيُّ النَّاطِرُ أَمْ إِلَى مَنْ

جبکہ تو ولی و ناصر ہے۔ یا میں کس سے فریادری کی اپیل کروں جبکہ تو ولی و ناظر ہے۔ یا میں کس کی پستہ

الْتَّجِيُّ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ السَّاتِرُ أَمْ مَنْ ذَا الَّذِي يَجْبِرُ كَسْرِي قَلْبِي وَأَنْتَ

ڈھونڈوں جبکہ تو کریم و پردہ پوش ہے یا کون ہے وہ جو میرے ٹوٹے دل کو جوڑے جبکہ تو ہی ہے

لِلْقَلُوبِ جَابِرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ٹوٹے دل جوڑنے والا ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل محمد پر

مُحَمَّدٍ جُودُ الْأَكْرَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو صاحب جود و کرم ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّوْرِ الْأَوْحَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جو بزرگ نور ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعِزِّ الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

و آل محمد پر جو مجسم عزت اور عظیم ترین ہیں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ رَحَى النَّبِيِّينَ وَنُقْطَةِ

محمد و آل محمد پر جو انبیاء کی چمک کے نقطہ اور

دَائِرَةِ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ مَنْ ذَا الَّذِي يُغْفِرُ عَظِيمَ ذَنْبِي وَأَنْتَ

مرسلین کے دائرہ کامرزی نقطہ ہیں۔ اے اللہ کون ہے جو میرے عظیم گناہوں کو بخشتے جبکہ تو

الرَّحِيمُ الْغَافِرُ يَا عَالِمُ بِمَا فِي السَّرَائِرِ فَاعْلَمْ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

رحیم۔ بخشتے والا ہے۔ اے حقیقت امور کے جاننے والے۔ پس یقین رکھو کہ نہیں ہے معبود برحق مگر اللہ

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيَاكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ

اور استغفار کیجئے اپنے لیے اور مومنین و مومنات کے گناہوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ

يَعْلَمُ مَتَقَلِّبِكُمْ وَمَثُوكُمْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

جانتا ہے تمہارے محل گردش کو اور محل قرار کو۔ وہ اللہ کہ نہیں معبود برحق

إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

مگر وہی۔ جاننے والا ہے غیب اور شہادت کا۔ وہی

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

رحمن رحیم ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

فرما دیجئے وہ اللہ یکا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے جنا کسی کو اور نہ وہ جنا کیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہیں ہے کوئی اس کے مثیل و مشابہ۔



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُبِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِمَحَبَّةِ بِسْمِ

لے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محبت کے اور بطفیل بسم اللہ

اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِبِلَاغَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ

الرحمن الرحيم کی حب کے اور بطفیل بسم اللہ الرحمن الرحيم کی بلاغت کے اور

بِفَصَاحَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِرَاحَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

بطفیل بسم اللہ الرحمن الرحيم کی فصاحت کے اور بطفیل بسم اللہ الرحمن الرحيم کی

الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ

راحت کے۔ تمام حمدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بہت مہربان۔ رحم فرمانے والا۔ یوم جزاء کا

الذِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

مالک ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں راہ راست پر چلا۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ان کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ عَزَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُنْتُمْ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اعزاز میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم

تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تب اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي مَا أَحَبَّتْ أَحَدًا إِلَّا بَتَوْسُطِ حُبِّكَ إِيَّاهُ فَإِنَّهُ الْمَحْبُوبُ الْمَرْضِيُّ

کہ نہیں محبت کی تو نے کسی شخص سے مگر ان سے اپنی محبت کے طفیل کیونکہ وہی اصلی محبوب و پسندیدہ

الْمَقْصُودُ مِنَ الْمَحْبُوبِينَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَفَقْرٍ

اور مقصود ہیں تیرے نام محبوبین میں سے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ بناؤ مجھے بغیر کسی علت اور فقر

وَفَاقَةٍ فِي اتِّبَاعِ شَرِيعَتِكَ الْجَامِعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْأَكْمَلِيَّةِ اللَّهُمَّ إِنِّي

وفاقہ کے اپنی شریعت کا متبع جو کہ جامع و اکمل محمدی شریعت ہے۔ اے اللہ میں

أَصِلُّ عَلَى حَبِيبِكَ وَالْمُحِبِّ إِذَا رَأَى أَحَدًا يُصَلِّي عَلَى حَبِيبِهِ يَرْحَمُ

صلوٰۃ بھیجتا ہوں تیرے حبیب پر اور محبت جب کسی کو اپنے حبیب پر صلوٰۃ بھیجتے دیکھے تو اس پر رحم

عَلَيْهِ وَيَجْعَلُهُ فَايُزَابِ مَقْصُودِهِ فَارْحَمْنِي وَهَبْ لِي سُؤْلِي وَاعْفُرْ لِي

کرتا ہے اور اسے مقصود میں کامیاب کرتا ہے پس تو بھی مجھ پر رحم فرما اور مجھے میرا مقصود عطا فرما اور مجھے بخش

وَلِلْمُنْتَسِبِينَ إِلَيَّ وَأَقْضِ حَاجَتِي وَحَاجَةَ كُلِّ مَنْ انْتَسَبَ إِلَيَّ بِحُرْمَةِ

اور میرے تمام اہل نسبت کو اور میری حاجات پوری فرما اور میرے تمام اہل نسبت کی ہر حاجت کو بظیفیل محمد

مُحَمَّدًا وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ وَجَاهِهِ وَقَبُولِهِ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّ

کریم کی حرمت و عزت اور شرف و جاہ اور مقبولیت کے اپنے ہاں۔ اے اللہ پیدا فرما حُب

مُحَمَّدٍ فِي بَدَانِي وَفِي رُوحِي وَفِي نَفْسِي وَفِي جَسَدِي وَفِي رَأْسِي وَفِي

محمدی میرے بدن و روح اور نفس و جسم میں اور میرے سر اور

عَيْنِي وَفِي بَصَرِي وَفِي أَنْفِي وَفِي سَمْعِي وَفِي فَمِي وَفِي لِسَانِي وَفِي شَفْتِي

آنکھوں اور نگاہوں اور ناک۔ کانوں اور منہ و زبان اور ہونٹوں میں

وَفِي شَامَتِي وَفِي جِبْهَتِي وَفِي وَجْهِي وَفِي جِلْدِي وَفِي لَحْيِي وَفِي دُمِي

اور سونگھنے کی قوت میں اور پیشانی اور چہرہ میں میری جلد۔ گوشت۔ خون۔

وَفِي عَظْمِي وَفِي عَصَبِي وَفِي جَمِيعِ أَجْزَائِي وَفِي أَعْضَائِي وَفِي كُلِّ وَ

ہڈیوں اور اعصاب اور تمام اجزاء اور اعضاء میں اور

فِي صَدْرِي وَفِي قَلْبِي حُبًّا خَاشِعًا خَاضِعًا بِحُظِّ حُظُوظِ الْهُومَةِ جَمِيعِ

میرے تمام وجود اور سینہ و قلب میں ایسی محبت جز مشورع و مضموع والی ہوتیری ذات بحت نصیب کامل پانے والی ہوسیع

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ فِي حُبِّكَ وَإِتِّبَاعِهِ

تمام مؤمنین و مومنات کے۔ اے اللہ مجھے بنادے عمر دراز والا اپنی محبت اور اتباع حبیب میں

يُصَدِّقْتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کے صدقہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الْمَقْصُودِ الْمَحْبُوبِ فِي الْكُلِّ وَمِنَ الْكُلِّ فِي عَالَمِ الْإِنْسَانِي الْكِبَارِيِّ

جو مقصود و محبوب ہیں سب میں اور سب سے تمام کامل عالم انسانی میں۔

اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنْ أَمْرَاضِ الْكُونَيْنِ وَقَوِّنِي عَنْ ضَعْفِ الدَّارَيْنِ

اے اللہ مجھے تمام موجودات کی بیماریوں سے شفا بخش۔ اور مجھے تقویت بخش دونوں جہان میں ضعف و ناتوانی سے

بِحُرْمَتِهِ وَبِعِزَّتِهِ وَقَبُولِهِ وَشَرَفِهِ عِنْدَكَ وَصَحْحَتِي وَثَبَّتْنِي عَلَى

بطفیل ان کی حرمت و عزت اور قبولیت و شرف کے اپنے ہاں اور میری درستگی فرما اور ثبات رکھ محمدی

الشَّرِيعَةِ الْغَرَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْأَكْمَلِيَّةِ الْأَنْوَارِيَّةِ الْأَجْمَعِيَّةِ وَالْحَقِيقَةِ

روشن و کامل تر شریعت پر جو بہت نورانی اور جامع ترین ہے اور حقیقت

الْحَقِيقِيَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ الْعَارِفِيَّةِ الْعُرْفَانِيَّةِ وَثَبَّتْنِي عَلَى السُّنَّةِ السَّنِيَّةِ

واقعیہ اور معرفت کاملہ اکملہ اور مجھے ثبات قدم رکھ عالی شان سنت پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُعَدِّنِ أَنْوَارِكَ وَمُخْزِنِ أَسْرَارِكَ وَمَحَلِّ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے انوار کی معدن و مکان پر اور اسرار کے خزانہ اور غنایات

عَنَائِيَّتِكَ وَتَجَلِّيَاتِكَ وَسَعَادَاتِكَ وَظُهُوسِ أَيْتِكَ مُحَمَّدٍ الَّذِي لَأَنْوَارُ

و تجلیات اور سعادات و ظہورات کے محل و مرکز محمد پر کہ نہیں کوئی نور

إِلَّا هُوَ لَا ظُهُوسَ إِلَّا هُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَيْنِ مُحَمَّدٍ وَبَصَرِهِ فِي الْبَصَائِرِ

مگر وہی اور نہیں کوئی ظہور مگر انہیں کا۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد کریم کی چشم روشن اور نگاہ بصیرت پر تمام

الثَّاقِبَةِ وَعَلَى قَلْبِهِ فِي الْقُلُوبِ الْجَلِيَّةِ وَعَلَى شِبْهِهِ فِي التَّفْحَاتِ الْغَيْبِيَّةِ

روشن بصیرتوں میں اور آپ کے قلب نور پر روشن قلوب میں اور ان کے سونگھنے پر غیبی قدسی

الْقُدْسِيَّةِ وَعَلَى ذَوْقِهِ فِي الْأَذْوَاقِ الْإِلَهِيَّةِ وَالتَّجَلِّيَاتِ الذَّوْقِيَّةِ وَيَتَوَجَّهُ

قدسی خوشبوؤں کو اور ان کے پچھنے پر الہی اذواق میں اور ذوقی تجلیات میں۔ اور انہیں کی طرف توجہ کرنا

إِلَيْهِ كُلُّ مُتَوَجِّهِ وَيُحِبُّهُ كُلُّ مُحِبِّ وَيُسْتَشْفَى مِنْهُ وَبِهِ كُلُّ مَرَضٍ

ہے ہر توجہ والا۔ اور انہیں سے محبت رکھتا ہے ہر محب اور انہیں سے اور ان کے طفیل شفا پاتا ہے ہر

جسدیّ أَوْ رُوْحِيّ أَوْ قَلْبِيّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَيِّمِ مُحَمَّدٍ الْمُحِيطِ

جسمانی۔ روحانی اور قلبی مرض والا۔ اے اللہ درود و سلام ہو محمد کی میم پر جو محیط ہے اپنی پائیدار

بِعَيْتِهِ الْمَتَّبِعَةِ لِسَائِرِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَيَّنَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَيْنِ وَعَلَى

بعیت کے ساتھ تمام معلومات کو جو متین ہیں علم میں اور نگاہ میں اور محمد کی

حَاءِ مُحَمَّدٍ الْحَاوِيّ لِكُلِّ الْحَقَائِقِ بِسِرِّ حَيَاتِهِ الْحَقِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ الْحَسْبِيَّةِ

حاء پر جو حاوی ہے تمام حقائق کو ان کی حیات واقعہ حقیقیہ

الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَيِّمِ مُحَمَّدٍ الْمَارْحُومِ لِلْأَمْرَاضِ وَ

کافیہ شافیہ کے رمز و باطن کے ساتھ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج محمد کے میم پر جو امراض و آفات کو

الْآفَاتِ عَنِ الْوَارِثِ وَجُودَاتِ الْمُحِبِّينَ الْمُخْلِصِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مٹانے والا ہے مجھوں مخلصوں کے وجود و شخص کی تختیوں سے۔ اے اللہ درود و سلام بھیج

عَلَى دَالِ مُحَمَّدٍ الدَّالِّ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً لِّضَلَالَةِ دَلَالَتِنَا الْعَقْلِيَّةِ الْعَبِيَّاءِ

محمد کی دال پر جو قطعی دلالت کرنے والی ہے ہمارے اپنے عقلی بے بصیرت دلائل کی ضلالت سے

لِدِينِ الْإِسْلَامِ الرَّبَّانِيِّ الْمُنَانِيِّ الْمُحَمَّدِيِّ الْأَكْمَلِيِّ اللَّهُمَّ أَقْمِنِي فِي مَقَامِ

طرت دین اسلام کے جو رب منان کا دین ہے اور محمد اکمل کا دین ہے۔ اے اللہ مجھے قائم فرما مقام

التَّوَكُّلِ وَالرِّضَاءِ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا وَالْحُبِّ الْحَقِيقِيِّ الْمَرْضِيِّ الْمُخْتَصِّ

توکل و رضا میں دنیا اور اہل دنیا سے اور حب حقیقی کے مقام میں جو پسندیدہ تر اور مختص ہے

بِمَقَامِ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَالْمَخْصُوصِ بِالْوَحْدَةِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ

قاب قوسین ادنیٰ کے مقام سے اور مخصوص ہے ساتھ وحدت کبریٰ کے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِدُكْرِكَ وَعَدَدُ ذِكْرِكَ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جیسے کہ انہیں اہتمام تیرے ذکر اور اس کے اعداد کی۔



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهْيَاةَ لِحُبِّكَ

اے اللہ بے حد درود و صلوات بھیج سیدنا محمد و آل محمد پر جیسے کہ نہیں حد تیری محبت

وَعَدَدِ حُبِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا

اور اعداد محبت کی۔ اے اللہ بے حد صلوات بھیج سیدنا محمد و آل محمد پر جیسے کہ نہیں

نَهْيَاةَ لِحُبِّهِ وَعَدَدِ حُبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حد ان کی محبت اور اعداد محبت کی۔ اے اللہ بے حد صلوات نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهْيَاةَ لِمَحَبَّتِكَ وَعَدَدِ مَحَبَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جیسے کہ نہیں حد تیری محبت اور اعداد محبت کی۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهْيَاةَ لِمَحَبَّتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا وَسَلَامًا

و آل محمد پر جیسے کہ نہیں حد ان کی محبت اور اعداد محبت کی۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے دائمی ایمان اور

بَاقِيًا وَاحْسَانًا مُسْتَمِرًّا وَالْجَوَارِحَ مَحْفُوظَةً وَالسُّلُوكَ عَلَى طَرِيقِكَ وَعَمَلًا

پائیدار اسلام کا اور ہمیشہ کے احسان کا اور محفوظ اعضاء کا اور اپنے راہ پر چلانے کا، عمل مقبول

مَقْبُولًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَعَيْنًا دَائِمَةً وَخَدًّا رَطْبًا فِي حُبِّكَ وَ

اور خشوع والے قلب کا۔ ذکر والی زبان اور رونے والی آنکھ کا اور اپنی محبت اور

حُبِّ حَبِيبِكَ وَالْوُقُوفَ عَلَى حُدُودِكَ وَالتَّوْفِيقَ لِطَاعَتِكَ وَالتَّجَاةَ مِنْ

حبیب کی محبت سے تروتازہ رخسار کا اور تیری قائم کردہ حدود پر ٹھرنے کا اور تیری اطاعت کی توفیق اور موت و حیات کے

فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَسُؤَالِهِ وَالسَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا

فتنہ سے نجات کا اور قبر اور اس کے سوال کے فتنہ سے نجات کا اور دین و دنیا

وَالْآخِرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُحَاسِبَنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَأَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي

اور آخرت میں سلامتی کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے آسان حساب لینا اور مجھے میرا نامہ اعمال

بِيَمِينِي وَأَنْ تُبَيِّضَ وَجْهِي وَأَنْ تُرْجِحَ مِيزَانِي بِفَضْلِكَ وَأَنْ تُحْشِرَنِي

دائیں ہاتھ میں دنیا۔ میرے چہرے کو روشن کرنا اور میرے میزان کو اپنے فضل سے وزنی کرنا اور مجھے اپنے حبیب کی

فِي زُمْرَةٍ حَبِيبِكَ وَتَحْتَ لَوَائِيهِ وَخَاصَّتِهِ وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ

جماعت میں اور ان کے پرچم تلے اور خواص میں اٹھاتا اور مجھے جنت میں داخل فرمانا

بِشَفَاعَتِهِ مَعَ أَهْلِ مَحَبَّتِهِ وَرِضَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَأَخْصَارِهِ بِرِضَاكَ وَرِضَاةِ

ان کی شفاعت کے ساتھ مع تمام اہل محبت اور اہل رضا اور ان کے اولیاء و خواص کے ساتھ اپنی رضا اور ان کی رضا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ وَ

کے۔ صلی اللہ علیہ و آلہ اجمعین۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

بَارِكْ عَلَى هَذَا الْحَبِيبِ الْمَحَبَّبِ الْمُحِبِّ وَالْمُحَبَّبِ الْمُحِبِّ وَالْمُحَبَّبِ الْمُحِبِّ وَالْمُحَبَّبِ الْمُحِبِّ

پر اور سلامتی و برکت نازل فرما اس حبیب اور محب و محبوب پر۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى هَذَا الصَّفِيِّ الطَّالِبِ الْمَطْلُوبِ أَسْأَلُكَ أَنْ

و آل محمد پر اور سلامتی و برکت نازل فرما اس صنفی طالب و مطلوب پر۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

تُعْطِيَنِي كِمَالَ حُبِّهِ إِلَى خُلُوصِ ذَاتِكَ وَأَكْمَلَ الشُّوقِ السَّرِيِّ إِلَى لِقَائِكَ دَائِمًا

کہ مجھے عطا فرمائے ان کی محبت کاملہ مع اپنے اخلاص ذات کے اور شوق باطنی کامل کے طرف اپنی لقا کے جو دائمی

أَبَدًا لَا مُنْقَطِعًا إِلَيْهِ إِذَا سَأَلْتُكَ مُحِبِّ بِأَسْمِ مَحْبُوبٍ مُحِبِّ وَلَهُ قُوَّةُ إِعْطَاءِ

ابدی ہو اور ختم ہونے والا نہ ہو۔ اے میرے اللہ جب کوئی محب سوال کرے کسی محب سے اس کے محبوب کے نام سے اور وہ

فَلْيُعْطِيَنِي وَحَمْدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يَنْبَغِي لِكِمَالِهِ مِنْكَ وَمِنْ جَمِيعِ

دینے پر قادر ہو ضرورتاً ہے اور محمد ان پر صلوٰۃ و سلام ہو جیسے کہ لائق ہے ان کے کمال کے تیری طرف سے اور تیرے تمام

عِبَادِكَ مُحِبِّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ أَسْأَلُكَ بِأَسْمِهِ فَأَعْطِنِي مَا أَسْأَلُكَ

عباد کی طرف سے تیرے محب و حبیب اور رسول ہیں میں ان کے نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں لہذا مجھے میرا مطلوب عطا

وَأَقْضِ حَاجَاتِي كُلَّهَا إِيْمَانًا دَائِمًا وَيَقِينًا صَادِقًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ

کہ اور میری تمام حاجات پوری فرما۔ مجھے ایمان دائم اور یقین صادق جس کے بعد کفر نہ ہو بظہیر محمد کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ كَمَا يَنْبَغِي لِكِمَالِهِ مِنْكَ وَجَمِيعِ عِبَادِكَ وَكَيْفَ لَمْ تُغْفِرْ لَهُ

جیسے اللہ ان پر درود اور سلام جیسے کہ لائق ہے ان کی شان کے اپنی طرف سے اور تمام عباد کی طرف سے اور کیسے نہ بخشے گا

وَلَمْ تَرْضَ عَنْهُ وَأَنْتَ قُلْتَ فِي شَانِ حَبِيبِكَ مِنْ لَدُنِّ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ

اور راضی نہ ہو گا ان سے حالانکہ تو نے فرمایا ہے اپنے حبیب کی شان میں کہ عرش سے لے کر زمینوں کی

الْأَرْضِينَ كُلَّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَائَكَ يَا مُحَمَّدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا

تہ تک سبھی میری رضا طلب کرتے ہیں اور اے محمد میں تیری رضا طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے حمد ہے کہ نہیں

انْقِضَاءَ لَهُ فِي كُلِّ أَحْسَانِهِ وَإِنْعَامِهِ لَا انْتِهَاءَ لَهُ لِمَوْجُودِيَّةٍ وَجُودِنَا وَكُلِّ

اختتام اس کے لیے اس کے تمام احسانات و انعامات میں۔ نہیں انتہا اس کے لیے ہماری موجودگی تک اور اس کے

تَوَابِعِ وَجُودِنَا لِجَمِيعِ الْحَالَاتِ لِاقْتِضَاءِ حُضُورِهَا وَحُصُولِ وَإِزْدِيَادِ مَرَاتِبِ

تمام توابع کی موجودگی تک تمام حالات میں واسطے طلب حضور و حصول کے اور زائد ہونے مراتب

الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ

ایمان و اسلام کے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظہیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو

خَيْرُ الْمُحِبِّينَ وَخَيْرِ الْمَحْبُوبِينَ أَنْ تَنْظُرَ فِي بَعِينِ الْحُبِّ وَتُحِبَّنِي حُبًّا كَامِلًا

سب محبوں اور محبوبوں سے بہتر و برتر ہیں کہ مجھ پر نگاہِ محبت فرمائے اور مجھے محبوب بنائے محبت کاملہ کے ساتھ

شَامِلًا لِلظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَتُصَحِّحَنِي وَتُقَوِّبِنِي لِلْمَحَبَّةِ الْحَقِيقَةِ وَتُزِيلَ عَنِّي

جو ظاہر و باطن کو شامل ہو اور مجھے صحت بخشنے اور سچی محبت کی طاقت بخشنے اور مجھ سے بجز و فراق کی

أَمْرَاضَ الْهَجْرَةِ وَأَوْ مِنْ مِنَ الْحَرَارَةِ الْفُرْقَةِ وَالْبُرُودَةِ الْوَصْلَةِ بِحُرْمَتِهِ

امراض زائل کرے اور میں امن میں رہوں فرقت کی حرارت سے اور وصل کی برودت سے بظہیر حرمت

رَحْمَةً نَاشِئَةً مِنْ مَحْضِ فَضْلِكَ دُونَ عَمَلِ مَبْتَنِي بِتَمَنِّي حَاصِلٍ مَنْ

حبیب کے از روئے رحمت کے جو پیدا ہونے والی ہو تیرے خالص فضل سے بغیر میرے عمل کے ساتھ اس تمنا کے جو حاصل

عَيْنِ لُطْفِكَ دُونَ سَبَبٍ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِكَ اللَّهُمَّ لَوْ جَعَلْتَ لِأَحَدٍ مَنْ

تیرے عین لطف سے بغیر کسی دوسرے کے واسطے کے۔ اے اللہ اگر تو بنائے کسی کے لیے اپنی محبت اور

أَسْبَابَ رِضَائِكَ وَحُبِّهِ فَهَذَا مِنْ عَيْنِ لُطْفِكَ دُونَ سَبَبٍ فَأَنْتَ الْمَسْبُوبُ

ان کی محبت و رضا کے اسباب تو یہ تیرا عین لطف ہے بغیر کسی سبب کے کیونکہ تو ہی اسباب

وَالْأَسْبَابُ مِنْكَ وَهِيَ أَسْبَابُ حُبِّكَ وَحُبِّ حَبِيبِكَ وَكَتْسَابُ مُحَبَّتِكَ وَ

بنانے والا ہے اور وہ تجھ سے ہی ہیں اور یہ اسباب ہیں تیری حب کے اور تیرے حبیب کی حب کی اور حصول و کسب ہے تیری

مُحِبَّةٌ مُحَبُّوبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ حَبِيبِكَ

محبت اور تیرے محبوب کی محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے صلوٰۃ بھیجے گا اپنے مخصوص حبیب

الصَّفِيِّ الرَّضِيِّ الْمُرَضِيِّ الْمَالِكِ مُخْتَارِكَ مُصْطَفَاكَ مُحَمَّدِ الْهَادِي لِلدِّينِ

پر جو بھیجے ہوئے پسندیدہ، مالک اور تیرے مختار و مصطفیٰ محمد ہیں جو دین قدیم

الْقَدِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الْمَوْصِلِ لِلطَّالِبِينَ إِلَى مَطْلُوبِهِمْ وَالسَّالِكِينَ

اور صراط مستقیم کی طرف ہادی ہیں، جو طالبین کو ان کے مطالب تک اور سالکین کو ان

إِلَى مَقْصُودِهِمْ أَقْوَى الدَّلَائِلِ وَأَعْلَى الْوَسَائِلِ وَالتَّوْبِ الشَّرِيفِ الْمُضِيِّ

کے مقاصد تک پہنچانے والے ہیں۔ قوی ترین دلیل ہیں اور اعلیٰ ترین وسیلہ اور بزرگ توبہ جو تمام

لِلْعَالَمِينَ وَالْجَوْهَرِ اللَّطِيفِ الْمُتَوَسِّلِ بِالْهُدَايَةِ لِلْغَافِلِينَ وَهُوَ الْمُنْظَرُ الْآتِمُّ

جہانوں کو ضیاء بخشنے والے ہیں۔ اور پاکیزہ جوہر ہیں جو غافلوں کو ہدایت سے منور کرنے والے ہیں اور وہی منظر اتم

الْأَكْمَلُ لِالطَّافِكِ وَعِنَايَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا حَسْبَ عَظْمَةِ

و اکمل ہیں تیرے الطاف و عنایات کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد کریم پر ان کی عالی مرتبت

حَقِيقَةِ الْعَلِيَّةِ وَبَعْدَ صُورِكَ الْعَلِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْكَوْنِيَّةِ وَبَعْدَ

حقیقت کی عظمت کے مطابق اور اپنی پیدا کردہ علمی الٰہی اور کونی صورتوں کے مطابق اور اپنے پیدا کردہ

أَرْوَاحِ اللَّطِيفَةِ الْمَجْرَدَةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ وَبَعْدَ الصُّورِ الْبَثَالِيَّةِ

ارواح لطیفہ مجرہ عقلیہ و نفسیہ کی مقدار۔ اور صورت مثالیہ

الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ وَبَعْدَ صُورِ الْأَجْسَامِ الْحَسَبِيَّةِ الشَّهَادِيَّةِ وَأَحْوَالِهَا وَ

مطلقہ اور مقیدہ کی تعداد کے مطابق۔ اور اجسام محسوسہ شہودہ کی صورتوں اور ان کے احوال و

أَعْرَاضِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْلِ مَا وَجَدَ وَ

اعراض کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جو موجود ہو چکی ہیں

سَيُوجَدُ اللَّهُمَّ اشْفِيْتِي وَصَحِّحْنِي وَقَوِّنِي وَاجْعَلْنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ فِي

اور جوہوں کی۔ اے اللہ مجھے شفا و تندرستی اور تقویت بخش اور مجھے طویل العمر بنا اپنی

حُبِّكَ وَاتِّبَاعِهِ بِحُرْمَتِهِ وَبِعِزَّتِهِ وَبِشَرَفِهِ وَبِقَبُولِهِ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ

محبت میں اور محبوب کی اتباع میں بظہیر ان کی حرمت و عزت اور شرف و قبولیت کے اپنے ہاں۔ اے اللہ

أَجِبْ وَلَا تَرُدِّ فَإِنْ رُدَّتْ فَمَنْ لِي أَسْأَلُهُ سِوَاكَ وَمَنْ لِي سِوَاكَ

قبول فرما اور نہ فرما پس اگر تو رد کرے تو کون ہے میرا تیرے سوا جس سے میں سوال کروں اور کون ہے میرا سوالان کے

أَتَوْسَلُ بِهِ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي حُبًّا بِحُبِّ حُبِّ الْحَقِّ وَبِحُبِّ حَقِيقَةِ

جسے وسیلہ بناؤں۔ اے اللہ مجھے عطا فرما محبت (بظہیر حُب حقیقی کے اور حقیقت

الْمُحَمَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَلْبِي وَفِي سِرِّي وَفِي حَالِي وَفِي

محمدیہ کی حب کے صلی اللہ علیہ وسلم) میرے دل میں اور ستر و باطن میں اور حال و

خِيَالِي بِحُرْمَةِ حُبِّكَ وَحُبِّ حَبِيبِكَ وَحُبِّ مَحْبُوبِكَ وَحُبِّ حَبِيبِكَ

خیال میں بظہیر اپنی حب اور اپنے حبیب و محبوب کی حب اور اپنے حبیب ہونے کی

وَحُبِّ مَحْبُوبِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَحْبُوبِ الْمُقَدَّسِ عَنْ أَنْ

اور محبوبیت کی حب کی حرمت کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے محبوب پر جو پاک ہیں اس سے کوئی

يُحِبُّهُ أَحَدٌ أَوْ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ كَمَا يَلِيْقُ بِشَانِهِ الْعَزِيزِ الْأَعْلَى الْإِلَهِيِّ

ان سے محبت کرے یا ان کی معرفت حاصل کرے جیسے کہ لائق ہے ان کی شان عزیز و اعلیٰ کے سوائے تیرے

فَهُوَ خَاصُّكَ وَمَخْصُوصُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مَنْ يَتَمَسَّكَ

کیونکہ وہ تیرے خاص اور مخصوص ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ان پر جن کے حلقے سے

بِعُرْوَتِهِ كُلُّ طَالِبٍ صَادِقٍ وَيَتَشَبَّثُ بِذَيْلِهِ كُلُّ مُحِبِّ هَائِمٍ مُحَمَّدِيٍّ

چنگل مارتا ہے ہر طالب صادق اور ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے ہر حیرت زدہ محب یعنی محمد پر

الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ وَالْبُرْهَانَ السَّاطِعِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ

جو دلیل قاطع اور برہان غالب ہیں اور ان کے سب آل و اصحاب اور اتباع پر۔

كَافَّةَ اللَّهُمَّ اَمَلًا بِنُورِ مَحَبَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ اللَّهُمَّ اِنَّا نَصَلِّيُ عَلَيْهِ

اے اللہ بھر دے میرے دل کو ان کی محبت اور معرفت کے نور سے۔ اے اللہ ہم ان پر صلوات بھیجتے ہیں

فَاِنَّهُ مَحْبُوبُكَ وَالْمُحِبُّ اِذَا رَاى اَحَدًا يَصَلِّيُ عَلٰى مَحْبُوْبِهِ وَيَدْعُوْ

کیونکہ وہ تیرے محبوب ہیں اور محب جب کسی کو اپنے محبوب پر صلوات بھیجتے اور ان کے لیے دعا کرتے دیکھے

لَهُ فَاِنَّهُ يَرْحَمُ عَلَيْهِ وَيَجْعَلُهُ فَايْزًا بِمَقْصُوْدِهِ وَعَلٰى اَتْبَاعِهِ بِقَبُوْلِهِ

تو اس پر رحم کرتا ہے اور اسے مقصد میں کامیاب کرتا ہے اور ان کے اتباع پر واسطے ان کی قبولیت

وَمَحَبَّتِهِ فِى مَحَبَّتِكَ وَهُوَ مَحْبُوبُكَ فَلَا بُدَّ لِيْ مِنْ الرَّجَاءِ الْقَوِيِّ

و محبت کے بسبب تیری محبت کے جبکہ وہ تیرے محبوب ہیں تو لازم ہے میرے لیے قوی

الْقَطْعِيِّ فِيمَا تُحِبُّهُ وَيُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ اللَّهُمَّ اِنَّ ذَاتَكَ

و قطعی امید اس میں جو تو پسند کرے اور وہ پسند کریں اور جس پر تو راضی ہو اور وہ راضی ہوں۔ اے اللہ تیری ذات

سُرْمِدِيَّةٌ وَاَسْمَاءُ ذَاتِكَ سُرْمِدِيَّةٌ لَّا حُدُوْثٌ فِيْهَا وَلَا تَجَدُّدٌ و

اور صفات ذات اور اسماء ذات سرمدی ہیں ان میں نہ حدوث و تجدد ہے اور

لَا تَكْتَرُ فِيْهَا وَلَا تَعْدُدُ فَكَيْفَ يَدْرِكُكَ مَنْ هُوَ فِى عَيْنِ الْحُدُوْثِ

نہ تکثر و تعدد تو تیرا احاطہ کس طرح کر سکتا ہے جو عین حدوث (تخلیق کا مقام) ہے

دَائِمًا وَفِى مَحْضِ التَّجَدُّدِ ثَابِتًا اللَّهُمَّ ثَبَّتْنِيْ عَلٰى شَرِيْعَتِكَ الْغَرَّاءِ

ہمیشہ اور محض تغیر میں ہے۔ اے اللہ مجھے ثابت رکھ اپنی شریعت پر جو

الْمُحَمَّدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ وَطَرِيقَتِكَ الْمُوَصَّلَةَ اِلَى الْمَقَامِ الْاَحَدِيِّ التَّوْحِيدِيِّ

نورانی۔ محمدی۔ کامل ترین ہے اور اپنی طریقت پر جو مقام احدی توحیدی تک پہنچانے والی ہے

بِحُرْمَتِهِ وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ وَقَبُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اِنِّيْ

بطفیل ان کی حرمت و عزت اور شرف و قبولیت کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں

اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَقَبْلَتِنَا حَبِيْبِكَ الصَّفِيِّ الرَّضِيِّ الْمَرْضِيِّ

سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ صلوات بھیجے ہمارے سید و قبلہ اپنے حبیب، صفی، رضی، مرضی،

الْمَالِكِ مُخْتَارِكَ مُصْطَفَاكَ مُحَمَّدِ الْهَادِي لِلدِّينِ الْقَدِيمِ وَالصِّرَاطِ

مالک اور مختار و مصطفیٰ محمد پر جو ہادی ہیں دین قدیم اور صراط

الْمُسْتَقِيمِ الْمَوْصِلِ لِلطَّالِبِينَ إِلَى طَلِبِهِمْ وَالسَّالِكِينَ إِلَى مَقْصُودِهِمْ

مستقیم کے، پہنچانے والے ہیں اہل طلب کو ان کے مطالب تک اور اہل سلوک کو ان کے مقاصد تک

أَقْوَى الدَّلَائِلِ وَأَعْلَى الْوَسَائِلِ وَالنُّورِ الشَّرِيفِ الْمُنْضِي لِلْعَالَمِينَ

جو قوی ترین دلیل - اعلیٰ ترین - اعلیٰ ترین وسیلہ اور بزرگ نور ہیں جو سب جہان کے لیے ضیاء بخش

وَالْجَوْهَرِ اللَّطِيفِ الْمُنُورِ بِالْهُدَايَةِ لِلْغَافِلِينَ وَهُوَ الْمَظْهَرُ الْأَتَمُّ الْأَكْمَلُ

اور جو بر لطیف ہیں جو غافلوں کو ہدایت سے متور کرنے والے ہیں اور وہ مظہر اتم و اکمل ہیں

لِللَّطَافِ وَعَنَايَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَا وَجَدَ

تیرے لطاف و عنایات کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جو موجود ہو

وَسَيُوجَدُ اللَّهُمَّ أَقْبَلُ عَذْرِي وَتَقْبَلُ تَوْبَتِي وَتُبَّ عَلَيَّ بِالْعِنَايَةِ

جلیں اور جو موجود ہوں گی۔ اے اللہ میرا عذر قبول فرما اور توبہ قبول کر اور مجھ پر عنایت خاصہ کی

الْخَاصَّةِ بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نظر فرما اپنے حبیب کے صدقہ میں جن کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ يَا بَنَ آدَمَ إِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى

سیدنا محمد پر جنہوں نے حدیث قدسی میں فرمایا۔ اے ابن آدم جب اللہ تعالیٰ

قَدِيكَفَلْ لَكَ بِالرِّزْقِ فَطُولُ اهْتِمَامِكَ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ الْخَلْقُ مِنِّي

تیرے رزق کا ضامن ہو چکا تو تیرے طویل اہتمام کی ضرورت کیا ہے اور جب تخلیق مجھ سے ہونا

حَقًّا فَالْبُخْلُ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ إِبْلِيسُ عَدُوًّا فَالْعَقْلَةُ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ

برحق ہے تو پھر بخل کس لیے اور جب ابلیس دشمن ہے تو پھر اس سے عقلمندی کیوں کر۔ اور جب

الْحَسَابُ وَالْمُرُورُ عَلَى الصِّرَاطِ حَقًّا فَالْجَمْعُ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ عِقَابُ

محاسبہ اور پل صراط پر گزرنا برحق ہے تو پھر جمع کرنے کا باعث کیا، اور جب اللہ کا عقاب

اللہ تعالیٰ حَقًّا فَاَلْمَعْصِيَةَ لِمَاذَا وَاِذَا كَانَ ثَوَابُ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ حَقًّا

برحق ہے تو پھر معصیت کس لیے۔ اور جب جنت میں اللہ کا ثواب برحق ہے

فَاَلِاسْتِرَاحَةَ لِمَاذَا وَاِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَائِي وَقَدَرِي فَالْجَزْعُ لِمَاذَا

تو پھر سستی کس لیے ہے؟ اور جب ہر شئی میری قضاء و تقدیر سے ہے تو پھر بے صبری

لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کس لیے؟ تاکہ نہ افسوس کرو اس پر جو تم سے فوت ہوا اور نہ خوشی مناؤ اس پر جو تمہیں دیا۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ يَا ابْنَ آدَمَ أَكْثَرُ مِنَ الزَّادِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حدیث قدسی میں فرمایا "اے ابن آدم زیادہ زاد سفر جمع کر

فَإِنَّ الطَّرِيقَ يَعْجِدُ بَعِيدًا وَجَدَادِ السَّفِينَةِ فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ وَعَمِيقٌ وَ

کیونکہ راستہ بہت طویل ہے۔ اور نئی کشتی بنا کیونکہ سمندر بہت گہرا ہے اور

خَفِيفُ الْحَمْلِ فَإِنَّ الصِّرَاطَ دَقِيقٌ وَدَقِيقٌ وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ

بوجھ ہلکا کر کیونکہ راستہ بہت ہی باریک ہے۔ اور عمل کو خالص کر کیوں کہ

النَّاقِدُ بَصِيرٌ بَصِيرٌ وَأَخْرَجْنَاكَ إِلَى الْقَبْرِ وَقَرَحَكَ إِلَى الْمِيزَانِ

اس کو پرکھنے والا بہت ہی بصیرت والا ہے۔ اور موخر کر اپنی نیند کو قبر تک اور فرحت کو میزان تک

وَشَهْوَتِكَ إِلَى الْجَنَّةِ وَرَاحَتِكَ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَذَّاتِكَ إِلَى الْحُورِ الْعِينِ

اور خواہشات کو جنت تک اور استراحت کو آخرت تک اور لذات کو حور عین تک۔ تو

وَكُنْ لِي أَوْ كُنْ لَكَ وَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِهَجْرِ الدُّنْيَا وَتَبَعُدْ مِنَ النَّارِ بِبُغْضِ

میرا ہو جا میں تیرا بن جاؤں گا۔ تو میرے قریب ہو جا دنیا کو چھوڑ کر اور دور ہو جا آتش دوزخ سے بوجھ

الْفُجَّارِ وَحُبِّ الْأَبْرَارِ فَكَذَلِكَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلٰی

سے بغض اور ابرار سے محبت کے ذریعے۔ تو ایسے ہی تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے مگر عبادت پر صبر کے

الْعِبَادَةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَيَّ بِالتَّوَابِلِ وَأَطْلُبُوا رِضَائِي بِرِضَاءِ الْمَسَاكِينِ

ساتھ پس میرے قریب ہو جاؤ توافل کے ذریعے اور میری رضا طلب کرو مساکین کی رضا مندی سے



فَإِنْ رَضَا نِي لَا يُفَارِقُهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیونکہ میری رضا ان سے جدا نہیں ہوتی بلکہ چھپنے کی دیر بھی۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر

صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا النَّجَاةَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ

درود اس عبد کا جو نجات کا امیدوار ہو اس کی بدولت جس دن اس زمین کو دوسری زمین میں بدلا جائے گا اور آسمانوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَتَّقِي بِهَا شَرَّ عِقَابِهَا يَوْمَ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بچنے اس کی بدولت شر عقوبت سے جس دن

يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ

دیکھے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر مانند درود اس

عَبْدٍ يُسْتَعِيدُ بِهَا مِنَ النَّارِ وَحَسْبُ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ عَنْ

عبد کے جو اس کے ذریعے پناہ حاصل کرے دوزخ کی آگ اور اس کی آواز سے جس دن ہر نفس صرف اپنی ذات کا

نَفْسِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى الْعَذَابَ

دفاع کرتا ہوا آئے گا۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوات اس عبد کی جو خوفزدہ ہو عذاب شدید سے

الشَّدِيدِ يَوْمَ تَقُولُ لِكُلِّ نَفْسٍ هَلْ أَمْتَلَيْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ اللَّهُمَّ

جس دن ہم کہیں گے جنم کو کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی ہیں کچھ مزید۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يُسْتَعِيدُ بِهَا ذُخْرًا يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر مانند صلوات اس عبد کے جو تیار کرے اس کی بدولت ذخیرہ جس دن پائیگا

نَفْسٍ مَّا عَمَلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحَضَّرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ

ہر نفس اپنے عمل خیر کو حاضر کیا ہوا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوات اس

عَبْدٍ يَحْتَمِي بِهَا وَيَسْتَعِينُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

عبد کی جو اس کی بدولت حمایت اور اعانت حاصل کرے۔ جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے حضور اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ

صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوات اس عبد کی جو امید رکھتا ہو اس کی بدولت امان کی جس دن نہ سوال کیا جائیگا اپنے

إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى

گناہ سے کوئی انسان اور نہ جن۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ صلوات اس عبد کی جو ڈرتا ہوا اپنے مولیٰ

عُقُوبَةَ مَوْلَاهُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اللَّهُمَّ

کی عقوبت سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی اورنی چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا اور امر تمام اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَوْمَ جَاهَهُ وَمَوْضِعَهُ اللَّهُمَّ

صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ صلوات اس عبد کی جو قصد کرے ان کے جاہ اور مقام کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَسْتَشْفِعُ بِهَا إِلَى الْخَلْقِ يَوْمَ

صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ صلوات اس عبد کی جو شفاعت حاصل کرے بارگاہِ خلاق میں جس دن

يَكْتَشِفُ عَنْ سَائِقِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَتَّقِي بِهَا

پردہ ہٹایا تجلی جلال سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔ صلوات اس عبد کی جو اس کی بدولت

الْأَسَايُومِئِدِ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا

بچے رنج و ملال سے اس دن پیچھے چلیں گے بلاتے والے کے بغیر کئی کے اور لپٹت ہو جائیں گی آوازیں رحمن کے لیے پس نہ

تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو لَدَيْهِ

سنگے مگر دھیمی آواز۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔ صلوات اس عبد کی جو آرزو مند ہے ان کے

مُقْبِلًا يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ

ہاں رجوع کا جس دن پھٹ پڑے گا آسمان بادلوں کے ساتھ اور ملائکہ اتارے جائیں گے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَوْمَ يَفْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔ صلوات اس عبد کی جو ان سے امیدوار ہے جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا

مان اور باپ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔ صلوات اس عبد کی جو امید رکھے اس کی

السَّلَامَةَ يَوْمَ الْحُسْرَى وَالنَّدَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بدولت سلامتی کی حسرت اور ندامت کے دن۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔

بَدَوْلَتِ سَلَامَتِي كِي حَسْرَتِ اُوْر نَدَامَتِ كِي دِن۔ اے اللہ صَلَوَاتُ و سَلَامُ نَازِلُ فَرَمَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ پَر۔



صَلَاةَ عَبْدٍ يَدْفَعُ بِهَا الْعَذَابَ وَالْعِقَابَ يَوْمَ الْعُرْضِ وَالْحِسَابِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ اس عبد کی بطفیل اس کے دور کرے تو اس سے دور کرے تو اس سے عذاب و عقاب کو پھینکی اور حساب کے دن

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَتَّقِيْ بِهَا مَا يَخَافُ وَيَحْذَرُ يَوْمَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو بطفیل اس کے بچاؤ حاصل کرے خوفناک اور قابل

الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى

پر ہیز امور سے بڑی گھبراسٹ کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو خوفزدہ ہو

الْغَلَاظِ الشَّدَادِ يَوْمَ الْمَعَادِ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

سخت مزاج ملائکہ سے قیامت کے دن جس دن کھڑے ہوں گے گواہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا فَرْحًا قَرِيْبًا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوُلْدَانَ

سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو امیدوار ہو اس کی بدولت قریبی فرحت کا اس دن میں جو بچوں کو

ثِيْبًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى عَظِيْمَ

بورہا بنا دے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو خوفزدہ ہو عظیم

الْكِبَارِ يَوْمَ الْاَرْزَاقِ اِذَا الْقُلُوبُ لَدٰى الْحَنَاجِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

کبار سے قیامت کے دن جبکہ دل حلقوم کے قریب آچکے ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا التَّعَاوُنَ يَوْمَ الْجُمُعِ وَالْتَّغَابُنِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر صلوٰۃ ایسے عبد کی جو امید رکھے اس کی بدولت تعاون کی اجتماع اور خسارے کے دن میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ تَلُوْذُ بِهٖ نَفْسُهٗ الْخَائِفَةُ يَوْمَ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی کہ پناہ حاصل کرے ساتھ ان کے خوفزدہ و نفس اس کا جس دن

تَرْجِفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کاپنے کی کانپنے والی اور اس کے پیچھے آئے گی آنے والی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَاةَ عَبْدٍ يَسْتَوْجِدُ بِهَا الْحَبِيْبَ يَوْمَ يَنْادِيْ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ اس عبد کی جو طلب کرے اس کی بدولت وجود حبیب کا جس دن ندا دے گا منادی قریب مکان سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ عَبْدٌ يَسْتَعِيدُ مِنَ الْحَمِيمِ وَالصَّادِقِ

درود و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ درود اس عبد کا جو پناہ کا طالب ہو اہل بیت پانی اور زرداب سے

يَوْمَ يَنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِيْ قَالُوْا اذْكُ مَا مَنَّا مِنْ نِّهْيِ اللّٰهِ لَمْ صَلِّ وَ

جس دن پکارے گا انہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں میرے مفروضہ شریک کہیں گے ہم نے تہا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ان پر شاہد نہیں

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ عَبْدٌ يَرْجُوْ بِهَا رَوْفًا وَفَارِحِيًّا يَوْمَ تَكُوْنُ

ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ درود اس عبد کا جو اس کی بدولت امیدوار ہو رُوف و رحیم سے جس دن ہوگا

السَّمَاوٰتِ كَالْمُهْلِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمًا اَللّٰهُمَّ

آسمان مانند پگھلے تانبے کے اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند اور نہیں پوچھے گا کوئی قلبی دوست کسی دوست کو۔

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ عَبْدٌ يَرْتَجِيْ بِهَا مَوْلًا كَرِيْمًا يَوْمًا

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ درود اس عبد کا جو امیدوار ہو اس کی بدولت مولائے کریم سے اس دن میں

عَبُوْ سَاقِطٍ يُّرِيُّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ عَبْدٌ يَرْتَجِيْ

جو شدید مشر والا ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ درود اس عبد کا جو امید رکھے

بِهَا ظِلًّا ظَلِيْلًا يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰی يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَلِيْتَنِيْ اَتَّخَذْتُ

بطفیل اس کے گھنے سائے کی جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ کہے گا اے کاش میں پھوٹتا

مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا يَا وَيْلَتَا لِيْتَنِيْ لَمَّا اتَّخَذْتُ فُلَانًا خَلِيْلًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

رسول اللہ کے ساتھ راستہ لے میری بربادی۔ کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا۔ اے اللہ درود و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ عَبْدٌ يَّتَّقِيْ بِهَا شَرَّ النَّدَامَةِ فِيْ عَرَصَاتِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔ درود اس عبد کا جو بچے بطفیل اس کے شر ندامت سے میدان

الْقَبِيْةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ عَبْدٌ يَخْشَى النَّارَ وَ

قیامت میں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ درود اس عبد کا جو ڈرتا ہے آتش دوزخ اور

شَرَّ اَرْضِهَا يَوْمَ تُحَدِّثُ الْاَرْضُ اَخْبَارَهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کے شراروں سے جس دن زمین اپنی خبریں بتلائے گی۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر

صَلَاةَ عِيدٍ يَلُودُ بِهَا يَوْمَ النَّشُورِ إِذَا بَعَثَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي

درود اس عید کا جو پناہ حاصل کرے ساتھ اس کے یوم نشور میں جب کہ جمع کئے جائیں گے قبروں والے اور دلوں کے بھیید

الصَّدُورِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عِيدٍ يَتَّقِي بِهَا بَخْسًا

معلوم کئے جائیں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔ درود اس عید کا جو نیچے بسبب اس کے خالصے

إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رُجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سے جبکہ لرزے گی زمین پوری قوت سے۔ اور پہاڑ نرمی سے چلائے جائیں گے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عِيدٍ حَامِيَةً لَهُ مَا نَعَى يَجِدُهَا يَوْمَ الصَّاحَةِ وَالْوَأَقَةِ

محمد پر۔ درود اس عید کا جو پائے اسے محافظہ نگران بہرہ کرنے والی اور واقع ہونے والی قیامت کے دن میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عِيدٍ يَتَّقِي بِهَا سُوءَ الْبَحَاظِرِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ درود اس عید کا جو بچاؤ حاصل کرے بطفیل اس کے برے اعمال ناموں

يَوْمَ يُبْلَى السَّرَائِرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عِيدٍ تَهْدِيهِ

جس دن باطنی امر کی آزمائش ہوگی۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ درود اس عید کا کہ ہدایت دے تو ایسے

سَبِيلًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَنْظُنُونَ أَنْ لَبِئْتُمْ الْأَقْلِيَاءَ

راہ کی جس دن بلائے گا تمہیں پس قبول کرو گے دعوت اس کی حمد کرتے ہوئے اور گمان کرو گے کہ نہیں ٹھہرے مگر نفیل وقت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عِيدٍ يَتَّقِي بِهَا الصَّرَاءَ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ درود اس عید کا جو نیچے بسبب اس کے ضرر سے

إِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ

جبکہ آئے بہت بڑی ہلاکت۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر۔ درود

عَبْدٍ لِحَاثِهِ يَسْعَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اس عید کا جو ان کے عز و جاہ کے طفیل سعی کرے گا جس دن یاد کرے گا ہر انسان جو اس نے عمل کیا۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عِيدٍ يَرْجُو بِهَا جَزِيلَ الثَّوَابِ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ

سیدنا محمد پر۔ درود اس عید کا جو امیدوار ہو بطفیل اس کے عظیم ثواب کا جس دن ہم پھیلیں گے آسمانوں کو مانند پیٹے جانے

السَّجِلِ لِلْكِتَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ عَبْدِكَ تَبَالُ

کتب کی جلد بندی والے چڑے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو حاصل کرے

بِهَا الْمَطْلُوبُ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا أَعْلَمُ

بطیفیل اس کے اپنا مطلب جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا وہ کہیں گے ہمیں علم

لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ

نہیں کیونکہ تو تمام غیب کا کامل علم رکھتے والا ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود

عَبْدِي رَجُوبِهَا أَفْضَلُ الْجَزَائِمِ الْعِقَابِ وَالْجَزَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس عبد کا جو امیدوار ہو بسبب اس کے افضل جزا کا عِقَاب و جزا کے دن۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ عَبْدِي رَجُوبِهَا الْقَبُولِ وَالرِّضَا يَوْمَ الْفَصْلِ وَ

سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو امیدوار ہو بطیفیل اس کے قبولیت و رضا کا فیصلہ و

الْقَضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ عَبْدِي تَقْبَلُ بِهَا الرَّدِّي

قضاء کے دن۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بجا و حاصل کرے ہلاکت بطیفیل

يَوْمَ تُحْشَرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَّوْا نَسُوقَ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ

اس کے جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمن کی طرف بطور وفد کے اور مجرمین کو ہانپیں گے جہنم کی طرف

وَرُدَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ عَبْدِي يَسْتَعِيدُ بِهَا

وارد ہونے کے لیے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو پناہ حاصل کرے بطیفیل اس

مِنَ النَّارِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذرتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ

کے آگ سے جس دن ظالموں کو نفع نہیں دے گی ان کی معذرت اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور

الدَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ عَبْدِي رَجُوبِهَا الشَّفَاعَةُ

برائے مکان۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو امیدوار ہو بسبب اس کے

يَوْمَ تَقُومُ زُلْزَلَةُ السَّاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ

شفاعت کا جس دن قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ

عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا أَجْرًا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا

اس عبد کی جو امیدوار ہو بظہیر اس کے اجر کا جس دن آسمان تیز چلے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِهِ عَلَيْهَا يَوْمَ الدِّينِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر صلوٰۃ اس عبد کی جو نجات پائے بظہیر اس کے قیامت

يَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَحْبَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کے دن جس دن اللہ انہیں ندا دے کر پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اے اللہ درود و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِهِ عَلَيْهَا مِنْ الْاَهْوَالِ يَوْمَ تَرْجَفُ الْاَرْضُ

سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو نجات پائے بسبب اس کے ہولناکیوں سے جس دن لرزے گی زمین

وَالْجِبَالُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِهِ عَلَيْهَا

اور پہاڑ۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو طالب امداد ہو بظہیر اس

مِنَ الْعَوْصِ فِي الْعَرَقِ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کے سینہ میں عرق ہونے سے جس دن نہیں لگے چیخ کو ساتھ حق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِهِ عَلَيْهَا يَوْمَ يَرْضَى الْمَعْبُودُ فِي الْيَوْمِ

سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو مستحق ہو بظہیر اس کے رضائے معبود کا یوم

الْمَوْعُودِ وَشَاهِدًا وَمَشْهُودًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِهِ

موعود میں اور آپہنچنے والے دن اور شاہد کئے ہوئے دن میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر درود

عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا انْتِفَاعًا يَوْمَ تَشَقُّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا اللَّهُمَّ صَلِّ

اس عبد کا جو نفع کی امید رکھے اس سے جس دن پھٹ جائے گی اتر کی زمین لوگوں پر سے جلدی میں۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِهِ عَلَيْهَا يَوْمَ الْوَعِيدِ يَوْمَ تَأْتِي

و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو نجات پائے بسبب اس کے وعید کے دن جس روز

كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر نفس اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ہوگا ہانکنے والا اور گواہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر

صَلَاةَ عَبْدٍ يَنْجُو بِهَا مِنَ الشُّيُورِ يَوْمَ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ

صلوٰۃ اس عبد کی جو نجات پائے بسبب اس کے احوال متغیرہ سے جس دن میں بولیں گے اور نہ انہیں اذن دیا جائے گا

فَيَعْتَدِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ تُقْبَلُ

کہ معذرت کریں۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا کہ قبول ہوں

بِهَالِهِ الْأَعْدَاءُ وَتُغْفِرُ لَهُ بِهَا الْأَوْزَارُ يَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

اس کے عذر اور بخشے جائیں اس کے گناہ بظفیل اس کے جس دن پیش کئے جائیں گے کفر کرنے والے آگ پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا الْحَكِيمُ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو امیدوار ہر بظفیل اس کے حکیم

الْكَرِيمِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اللَّهُمَّ

وکریم سے جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے مگر جو آئے بارگاہ خداوندی میں قلب سلیم کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى النَّارَ وَهَوْلَهَا يَوْمَ

درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو خوفزدہ ہو آگ اور اس کی ہولناکیوں سے جس دن

تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

غافل ہو جائے گی ہر شیرہ شیر خوار سے اور گرا دے گی ہر حمل دالی اپنے حمل کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَرْجُو بِهَا الْوَفَا

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بظفیل اس کے امیدوار وفا ہو

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس دن کھڑے ہوں گے روح اعظم اور ملائکہ صف بستہ۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر

صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى الْأُمُورَ الْمَخْفِيَةَ يَوْمَ نَشْرُ الصَّحِيفَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

درود اس عبد کا جو خوفزدہ ہو امور مخفیہ سے صحائف اعمال کھولے جانے کے دن۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ عَبْدٍ يَخْشَى نَقْعًا يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو خوفزدہ ہو روسیہا ہی سے جس دن دیکھے جائیں گے لوگ آتش



جَهَنَّمَ دَعَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ عَبْدِ يَتَّقِي بِهَا

دوزخ کی طرف۔ اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا جو بچاؤ حاصل کرے گا بسبب اس

عَذَابِ الْهُونِ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُوَلَّى عَنْ مُوَلَّى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

کے رسوائی والے عذاب سے جس دن نہ فائدہ دے گا کوئی دوست کسی دوست کو ذرہ بھراور نہ ہی وہ مدد پائیں گے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ عَبْدِ لَيْسَ لَهُ إِلَى غَيْرِهِ

اے اللہ درود و سلام ہو سیدنا محمد پر درود اس عبد کا کہ جسے سوائے ان کے نہ کسی کا

اِسْتِنَادٌ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ اِعْتِمَادٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سہارا ہے اور نہ کسی پر اعتماد۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الْهَامُورُ بِقَوْلِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

جو مامور ہیں ملک عزیز و ہاب کے اس قول کے ساتھ۔ فرمادیکئے وہی میرا رب ہے نہیں معبود برحق مگر وہی اسی پر

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف ہے میرا رجوع۔ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ وسلم تسلیما۔

كثِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ تَطَهَّرْنَا بِهَا مِنْ

کثیراً۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں پاک فرمائے

الدُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ

ذنوب و سیئات سے۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل

تَرَفَعْنَا بِهَا عَلَى الْمَقَامَاتِ وَالدرَجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بلند فرمائے ہمیں اعلیٰ مقامات اور درجات پر۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ تَقِيَّا بِهَا مِنَ الْخَوْفِ وَالرَّدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں بچائے خوف و ہلاکت سے۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ شِمَاتِهِ الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں بچائے دشمنوں کی شادمانی سے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل جمع فرمائے ہمیں انبیاء و صدیقین

وَالشُّهَدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَشْفِي لَنَا بِهَا أَرْوَاقَنَا

اور شہداء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل شفا دے تو ہمیں امرض سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنْوِّرُ بِهَا أَبْصَارَنَا اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل منور فرمائے تو ہماری آنکھوں کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَسْتُرُنَا بِهَا عَوْرَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل پردہ ڈالے ہمارے عیوب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحْفَظُنَا بِهَا فِي أَهْلِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہماری حفاظت فرمائے ہمارے اہل اور اولاد میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَتُوبُ عَلَيْنَا بِهَا يَا تَوَّابُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل توہم پر نظر رحمت فرمائے اے تواب۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَهَبُ لَنَا بِهَا رَحْمَةً مِّنْ لَّدُنْكَ إِنَّكَ أَنْتَ

سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہمیں اپنی مخصوص رحمت بخشے بے شک تو ہی

الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَسْمُوْ كَدَايِكَ

بخشتے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ تیرے ہاں

وَتَرْتَفِعُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَهَبُ بِهَا قُرَّةَ

بلند و بالا ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل تہ ختم ہونے والی

عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيدُنَا بِهَا

آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل پناہ دے ہمیں

مِنَ الْجَبْنِ وَالْكَسَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعِيدُنَا

بزدلی اورستی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل پناہ دے

بِهَا مِنْ أَلَمٍ وَأَلْحَقَ اللَّهُ بِهَا صِلَ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

تو ہمیں غم و اندوہ اور بیہودگی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ غَلِيَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پناہ دے ہمیں قرض کے غلبہ اور لوگوں کے قہر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل تو پناہ دے ہمیں مسیح دجال کے فتنہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو پناہ دے ہمیں گناہ اور قرض سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو پناہ دے ہمیں قبر کے فتنہ اور عذاب

جَهَنَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ جُهْدِ

جہنم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو پناہ دے ہمیں

الْبَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكْسِرُ بِهَا عُنَا مَدِّ

بلیات کی مشقت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل قطع کر دے ہم سے منگائی کے

الْغَلَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ دَعْوَى

پھیلاؤ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل بجائے ہمیں ہلاکت اور

الْوَيْلِ وَالتَّبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنْجِينَا

تباہی کو دعوت دینے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل نجات دے

بِهَا مِنْ الْقَزَعِ إِلَّا كِبْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَغْفِرُ

ہمیں بڑی گھبراہٹ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمارے

لَنَا بِهَا ذُنُوبَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

گناہ بخش دے پہلے اور پچھلے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُنَفِّسُ بِهَا كُرْبَتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے میری شدت و سختی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتُكَ تُوْنِسُ بِهَا وَحُشْتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

جس کے طفیل انس سے بدلے ہماری وحشت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تُسَدِّدُ لَنَا بِهَا اللِّسَانَ مِنَ الْفُحْشَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

بندر کھے ہماری زبان کو فحش گوئی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے

تُقَوِّمِي لَنَا بِهَا يَقِينِ الْجَنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

طفیل مضبوط فرمائے ہمارے قلبی یقین کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے

تَشْفِي بِهَا مَرْضَانَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَجْعَلُ

طفیل شفا بخشے ہمارے مریضوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بدلے

لَنَا بِهَا ثَارَنَا عَلَى مَنْ عَادَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

و انتقام ہمارا ہمارے اعداء سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے

تَمَحِّنُ بِهَا عِزًّا وَإِكْرَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَجْعَلُنَا

طفیل عطا کرے ہمیں عزت و اکرام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بنا دے

بِهَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہمیں اپنے ان بندوں سے جو بہودگی کے پاس سے گزریں تو کرمیانه انداز میں گورتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بنائے ہمیں اپنے ان بندوں سے کہ جن سے جاہل مخاطب ہوں تو وہ

قَالُوا سَلَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ

کتے ہیں تم پر سلام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بچائے ہمیں

طُرُقِ الْمَهَالِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُعِيدُنَا بِهَا

ہلاکتوں کی راہوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بچائے ہمیں

مِنْ سُوءِ الْمَسَالِكِ وَمَنْهَاجِ الْمَهَالِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

برے اور ہلاکتوں کے راستوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الدَّالَةِ وَالْقَلَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں پناہ بخشے ذلت اور فقر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ قَرِيْبِ السُّوءِ وَصَاحِبِ الْغَفْلَةِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل پناہ بخشے ہمیں برے ساتھیوں اور اہل غفلت سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ سُوءِ الصَّنِيعِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے برے عمل سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بَسُّ الصَّحِيحِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے بھوک سے کیونکہ وہ برا ساتھی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُطَهِّرُنَا بِهَا الْفُرُوجَ مِنَ الرِّثَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہماری شرمگاہوں کو بدکاری سے محفوظ فرمائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُبَيِّنُنَا بِهَا الْهُدَى وَالْتَّقَى وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں عطا کرے ہدایت و تقویٰ اور

الْعَفَافَ وَالْغِنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُطَهِّرُنَا بِهَا السُّتُنَا

تقاعد و غنا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہماری زبانوں کو پاک

مِنَ الْكُذْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُبَاعِدُنَا بِهَا بَيْنَنَا

فرمائے جھوٹ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل دوری پیدا فرمائے ہمارے

وَبَيْنَ خَطَايَانَا كَمَا بَاعَدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور گناہوں کے درمیان جیسے تو نے دوری پیدا فرمائی مشرق و مغرب کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَتِهِ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بچائے قبر کی ظلمت اور فتنہ سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے ہر اس چیز کے شر سے کہ تو جس کی

پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں تقویت بخشنے اپنی طاعت پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَدْخُلُنَا بِهَا فِي حِفْظِ عِنَايَتِكَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں داخل فرمائے اپنی حفاظت و عنایت میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُعِزُّنَا بِهَا عِزًّا أَدُلَّ مَعَهُ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں ایسی عزت بخشنے جس کے ساتھ ذلت نہ ہو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا بِسَطًا فِي الْأَنَامِ وَسَعَةً اللَّهُمَّ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں عطا کرے مخلوق میں وسعتاً و فراخی رزق۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا سُوءَ الْبَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے ہم سے بری آزمائش۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَكْفِينَا بِهَا شَرَّ الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سیدنا محمد پر جس کے طفیل کفایت فرمائے ہمیں شرعادو سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا مَشِيئَةَ مَنْ رَامَنَا بِمَشِيئَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور کرے ہم سے برے ارادہ والے کو اپنی مشیت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَخْرِجُنَا بِهَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ رَحْمَتِكَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل نکالے ہمیں دنیا سے اپنی فراخی رحمت کی طرف

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُنْجِينَا بِهَا مِنْ قُضَاةِ الْفِتَنِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل نجات دے ہمیں گمراہ کن قوتوں سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُنْقِذُنَا بِهَا مِنَ الْهَوَانِ فِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بچائے ذلت و رسوائی سے

السِّرِّ وَالْعَلَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرْتُقِنَا بِهَا حِفْظَ

حقیبہ وعلانیہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے اپنی

کِتَابِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقِينَا بِهَا شَرَّ عِقَابِكَ

کتاب کا حفظ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بچائے برے عذاب

وَالِيَمِ عَذَابِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَهْدِينَا بِهَا لِمَا

اور دردناک عذاب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہماری رہنمائی فرمائے

اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقِينَا بِهَا

اس حق میں جس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں بچائے

شَرَّ الْأَعْدَاءِ وَتَجَلَّى بِهَا عَنَّا الصَّدَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اعداؤں کے شر سے اور دور فرمائے ہمارے (قلوب کے) ازنگ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تَرَحُّمْنَا بِهَا بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَيْدَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

ہم پر رحم فرمائے ترک معاصی کی توفیق سے ہمیشہ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تُعْجَلُ لَنَا بِهَا عَافِيَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعْرِفُ

ہمیں جلد عافیت بخشنے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل عرفان بخشنے

بِهَا قُلُوبَنَا مَعْرِفَتِكَ وَطَاعَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

ہمارے قلوب کو اپنی معرفت و طاعت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تُخْتَمَ لَنَا بِهَا بِخَيْرِ أَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُذْهِبُ

ہمارا خاتمہ اچھے اعمال پر فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے

بِهَا عَنَّا غِيْظَ قُلُوبِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُكْفِينَا

ہم سے ہمارے دلوں کا غصہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل کفایت فرمائے

بِهَا شَرَّ الْأَنْوَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعْصِمُنَا بِهَا

ہمیں مخلوق کے شر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بچائے ہمیں

مِنَ الْغِي وَالْإِثْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُدْ يُقْنَا بِهَا

گمراہی اور گناہوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں چکھائے

بِرُدْعَوْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْتُقْنَا بِهَا حُبِّكَ

اپنی عفو کی ٹھنڈک و سرور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے

وَحُبِّ مَنْ يُنْفَعُنَا حُبُّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی محبت اور ان تمام مقبولین کی محبت جو ہمیں تیری بارگاہ میں نفع دے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةٌ تُعِيدُنَا بِهَا عَنْ فِعْلِ كُلِّ مُبْتَدِعٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جس صلوٰۃ کے طفیل پناہ دے ہمیں ہر بدعتی کے افعال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْتُقْنَا بِهَا نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْتُقْنَا بِهَا حُسْنَ الظَّنِّ فِي مَا يُرْضِيكَ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل نصیب فرمائے ہمیں حسن ظن تجھے راضی کرنے والے امور میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُلْهِمُنَا بِهَا الْكُلَّ عَمِلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُنَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں الہام فرمائے ایسے صالح اعمال کا جو تیرے ہاں

بَيْنَ يَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُدْخِلُنَا بِهَا ظِلًّا

نفع دے ہمیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں جگہ دے جنت کے اچھے

ظَلِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَسْتُرُنَا بِهَا سِتْرًا جَمِيلًا اللَّهُمَّ

سایوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہم پر حسین پردہ ڈالے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَحْمِينُنَا بِهَا مِنَ الْأَشْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں محفوظ فرمائے شربروں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَكْفِينُنَا بِهَا شَرَّ مَا يَأْتِي بِهِ اللَّيْلُ وَالتَّهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل کفایت فرمائے ہمیں شب و روز کے لائے ہوئے شرور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ





وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُبَلِّغُنَا بِهَا اُمْنِيَّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل ہمیں پہنچائے ہمارے مقاصد تک۔ اے اللہ صلوة وسلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا الْقُصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

سیدنا محمد پر جس کے طفیل نصیب فرمائے ہیں میانہ روی فقر و غنا میں۔ اے اللہ صلوة وسلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُنِيلُنَا بِهَا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل ہمیں متیا کرے نیک اعمال۔ اے اللہ صلوة وسلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ فِعْلِ السَّيِّئَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے برے اور ناپسندیدہ اعمال سے۔ اے اللہ صلوة وسلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِيدُنَا بِهَا عَنِ الْحَمِيْمِ وَالْجَحِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرما سیدنا محمد پر جس صلوة کے طفیل پناہ دے ہیں اُبلتے پانی اور آتش و ذرخ سے۔ اے اللہ صلوة وسلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْزُقُنَا بِهَا النِّعَمَ وَالْعِزَّ الْمُسْتَدِيْمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے جنتی نعمتیں اور دائمی عزت۔ اے اللہ صلوة وسلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُشَبِّعُ بِهَا مَتَّاجِرًا جُوعَاتِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں سیر فرمائے ہر قسم کی بھوک سے۔ اے اللہ صلوة وسلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَنْفِسُ بِهَا عَنَّا كُرْبَاتِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے ہماری شدتیں اور سختیاں۔ اے اللہ صلوة وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل

تُرِيْلُ بِهَا عَنَّا مَكْرَ الْمَاكِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْزُقُنَا

زائل کرے ہم سے اہل مکر کے مکر کو۔ اے اللہ صلوة وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں مزین

بِهَابِ زِيْنَةِ الْمُتَّقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعَلِّمُنَا بِهَا مَا

فرمائے متقیین والی زینت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوة وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل سکھائے وہ امور جن سے

جَهَلْنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُلْهِمُنَا بِهَا مَا يَنْفَعُنَا وَ

ہم جاہل ہیں۔ اے اللہ صلوة وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں اللہ فرمائے نافع امور کا اور

تَدْفَعُ عَنَّا مَا يَضُرُّنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُغِيثُنَا بِهَا

دور فرمائے ہم سے مضر اشیاء کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں امداد دے

غِيثًا نَأْتِنَا فِعَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَنْحِنُ بِهَا عَفْوَ أَوْ أَسْعَا

مفید ترین امداد۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل عطا فرمائے ہمیں وسیع عفو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْفَعُ لَنَا بِهَا الْأَعْمَالَ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل بلند فرمائے ہمارے اعمال کو در مقام قبولیت تک اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ نَرْجُو بِهَا الشَّفَاعَةَ إِذَا انْقَطَعَتِ الْأَمَالُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل امید وار ہوں شفاعت کے جبکہ منقطع ہو جائیں گی امیدیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَنْحِنُ بِهَا الْيُسْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل عطا فرمائے ہمیں آسانی۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا الْبِئْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل دور فرمائے ہم سے شدت و ضرر کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الْهَجَسِ وَالْهُوسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سیدنا محمد پر جس کے طفیل محفوظ فرمائے ہمیں برے خیالات اور خواہش نفس سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَنْقِيْ بِهَا عَنَّا خَطَايَا نَا كَمَا تُنْقِي الثَّوْبَ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

سیدنا محمد پر جس کے طفیل پاک کرے ہم سے ہماری خطا میں جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑے کو میل سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْتَضُّ قَنَابَهَا الرِّضَا بِالْقُوْتِ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے قلیل روزی پر رضامندی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْتَضُّ قَنَابَهَا الرِّضَا بِالْقَضَا وَبَرْدِ الْعَيْشِ بَعْدَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے اپنی قضا پر رضامندی اور موت کے بعد پر سرد

الْمَوْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرْتَضُّ قَنَابَهَا الْقَنَاعَةَ اللَّهُمَّ

زندگی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں قناعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَرَحُّمًا بِهَا فَيَمُنُ تَرَحُّمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہم پر رحم فرمائے مرحومین میں۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَبْلِغُنَا بِهَا بِلَاغًا حَسَنًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

فرما سیدنا محمد پر جس کے طفیل ہمیں مقصد تک پہنچائے اچھے انداز میں۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُنَوِّرُ بِهَا مَنَّا الْقُلُوبَ سِرًّا وَاعْلَمْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جس صلوة کے طفیل منور فرمائے ہمارے قلوب کو از روئے باطن و ظاہر کے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَحَا اللَّهُ بِهِ طُرُقَ الْإِتْبَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جس کے طفیل اللہ نے مٹائے اشتباہ کے راستے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُجَلِّبُ بِالصَّلَوةِ عَلَيْهِ الْفَوَائِدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جن پر صلوة کے طفیل ہم فوائد حاصل کریں۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَسْتَفَادُ بِالصَّلَوةِ عَلَيْهِ جَمِيلَ الْعَوَائِدِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر صلوة کے ذریعے استفادہ کریں منافع جمیلہ کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَشْطَبِهِ فِي الْأَشْطَابِ

اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی کنکھی پر کنکھیوں میں

وَعَلَى مَشْطَبَتِهِ فِي الْمَشَاطَاتِ وَتَسْرِيحِهِ فِي الْمَتَسْرِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کے کنکھی میں رہنے والے بالوں پر ان بالوں میں اور بال چھڑانے پر بال چھڑانے والوں میں۔ اے اللہ صلوة و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِرَاتِهِ فِي الْمِرَاتِيِّ وَكِحْلِهِ فِي

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے آئینہ پر آئینوں میں اور سرمہ پر

الْأَكْحَالِ وَمَكْحَلَتِهِ فِي الْمَكَاحِلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خَلْقِي

سرموں میں اور سرمہ دانی پر سرمہ دانیوں میں۔ اے اللہ تو نے حسین بنا یا میری صورت کو پس حسین بنا میری

وَحَرِّمْ وَجْهِي عَلَى النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَأَحْسَنَ صُورَاتِي

سیرت کو اور چہرے کو آگ پر حرام فرما تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں جس نے موزوں بنا یا میری تخلیق کو اور خوبتر بنا یا میری صورت

وَتَرَانِ مَنِّي مَا شَانَ غَيْرِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کو اور میں کیا مجھ سے جو عیب ناک بنایا دوسروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِيْلِهِ فِي الْأَمْيَالِ وَدُهْنِهِ فِي الْأَدْهَانِ وَعَلَى

آل محمد پر اور آپ کی سلائی پر سلائیوں میں اور تیل پر تیلوں میں اور

مَدَاهِنِهِ فِي الْمَدَاهِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تیل کے طرف پر طرف میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُسْعِطِهِ وَعَلَى هُرَاوَتِهِ فِي الْهَرَاوِي وَمَرْوَحَتِهِ

آل محمد پر اور آپ کی ڈوبیہ پر۔ اور عصا پر عصاؤں میں اور آپ کے پنھے پر

فِي الْمَرَاوِحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پنھوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

وَعَلَى عَطْرِهِ فِي الْمُعْطَرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کے عطر پر عطر والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَارِيخِهِ فِي التَّوَارِيخِ وَعَصْرِهِ فِي الْأَعْصَارِ وَقَرْنِهِ

آل محمد پر اور آپ کی تاریخ پر تاریخوں میں اور آپ کے زمانہ پر زمانوں میں اور آپ دو پر

فِي الْقُرُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ادوار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور

سَاعَتِهِ فِي السَّاعَاتِ وَوَقْتِهِ فِي الْأَوْقَاتِ وَعَامِهِ فِي الْأَعْوَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی ساعت پر ساعتوں میں اور آپ کے وقت پر اوقات میں اور آپ کے سال پر سالوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى شَهْرِهِ فِي الْأَشْهُرِ وَعَلَى شَهْرِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے مہینہ پر مہینوں میں اور آپ کے

الرَّبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَوْمِهِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ربیع الاول کے مہینہ پر اور آپ کے سوموار والے دن پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَسْبُوعِهِ فِي الْأَسَابِيعِ وَعَشْرَتِهِ فِي الْعَشْرَاتِ وَلِيْلِهِ

آل محمد پر اور آپ کے ہفتہ پر ہفتوں میں آپ کے عشرہ پر عشروں میں اور آپ کی رات پر

فِي اللَّيَالِيِ وَيَوْمِهِ فِي الْأَيَّامِ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسِينَا وَبِكَ نَحْيِي وَبِكَ نَمُوتُ

راتوں میں اور آپ کے دن پر دنوں میں۔ اے اللہ تیری توفیق سے وقت شام تک پہنچے اور تیری توفیق سے

وَالْيَكِ الشُّورَةُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ مُتَوَفِّيهَا لَكَ مِمَّا تَهَيَّأُ

زندگی پاتے ہیں اور تیرے امر سے مرے گے اور تیری طرف ہی اٹھتا ہے۔ اے اللہ تو نے میرے نفس کو پیدا فرمایا اور تو ہی اس کو وفات

وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَأَحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاعْفُ رُهَا اللَّهُمَّ إِنِّي

دینے والا ہے تیرے ہاتھ میں ہے اس کی موت و حیات۔ اگر اسے زندہ رکھے تو محفوظ رکھنا اور موت دے تو بخشش عطا کرنا۔ اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن اٹھائے گا اپنے بندوں کو تمام حمدیں اللہ کیلئے ہیں

الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کہ جس کے انعام سے ہی نیکیاں تکمیل پاتی ہیں۔ اللہ کے لیے ہے حمد ہر حال میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَصْلِهِ فِي الْفُصُولِ وَعَدَاتِهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے موسم پر موسموں میں اور آپ کی صبح پر

فِي الْعُدَاوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

صبحوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور

عَلَى ظَهْرِيَّتِهِ فِي الظَّهَائِرِ وَأَصِيلِهِ فِي الْأَصَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کی دوپہر پر دوپہروں میں اور آپ کی شام پر شاموں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بُقْعَتِهِ فِي الْبُقَاعِ وَنَاحِيَّتِهِ فِي التَّوَارِحِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے قطعہ زمین پر قطعات میں اور آپ کے علاقہ پر علاقہ جات میں

وَأَرْضِهِ فِي الْأَرْضَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور آپ کی زمین پر زمینوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَرِيْبَتِهِ فِي الْقَرْيِ وَوَطْنِهِ فِي الْاَوْطَانِ وَمَوْلِدِهِ فِي

محمد پر اور آپ کے شہر پر شہروں میں اور آپ کے وطن پر اوطان میں اور جائے ولادت پر

الْمَوَالِدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

مقامات ولادت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور

مَكَانِهِ فِي الْاَمِكْنَةِ وَمِصْرِهِ فِي الْاَمْصَارِ وَمَدِيْنَتِهِ فِي الْمَدَائِنِ اَللّٰهُمَّ

آپ کے مکان پر مکانوں میں اور بلا پر بلا میں اور آپ کے مدینہ پر جملہ شہروں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى دَارِهِ فِي الدُّوْرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی حویلی پر حویلیوں میں

وَمَسْكِنِهِ فِي الْمَسَاكِنِ وَمَطْلَعِهِ فِي الْمَطَالِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور آپ کے مسکن پر ساکن میں اور آپ کے بالاخانہ پر بالاخانوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَصْرِهِ فِي الْقُصُورِ وَيَمِيْنَتِهِ فِي الْاَيْمَانِ وَشِمَالِهِ فِي الشِّمَالِ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور آپ کے محل پر محلات میں اور دائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھوں میں اور بائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھوں میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى فَوْقِهِ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے اوپر والی جانب اور

تَحْتِهِ وَقَدَامِهِ وَخَلْفِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

پہلی اور اگلی اور پچھلی جانب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَسَاسِهِ فِي الْاَسْسِ وَيَبِيْتِهِ فِي الْبِيُوْتِ وَبَيْتِ اَصْحَارِهِ فِي

پر اور آپ کے مکان کی بنیاد پر بنیادوں میں اور مکان پر مکانات میں اور آپ کے دامادوں کے مکانوں پر

الْاَبْيَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مکانات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

وَعَلَى حَائِظِهِ فِي الْحَيْطَانِ وَاَسْطُوَانَتِهِ فِي الْاَسَاطِيْنِ وَسَقْفِهِ فِي

اور آپ کی دیوار پر دیواروں میں اور ستون پر ستونوں میں اور مکان کی چھت پر

السُّقُوفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

چھتوں میں - لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور

عَلَى سَطْحِهِ فِي السُّطُوحِ وَسَلِّمْ فِي السَّلَالِمِ وَمِرْقَاتِهِ فِي الْمِرَاقِ

آپ کے مکان کی چھت پر چھتوں میں اور سیڑھی پر سیڑھیوں میں اور سیڑھی کے ہر درجہ پر درجات میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے

صَفْتِهِ فِي الصُّفَاتِ وَحُجْرَتِهِ فِي الْحُجْرَاتِ وَظِلَّتِهِ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهُمَّ

چھپر پر چھپروں میں اور حجرہ پر حجرات میں اور سایہ دار جگہ پر سایہ دار جگہوں میں لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَاحَتِهِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے صحن پر

فِي السَّاحَاتِ وَسُدَّتِهِ فِي السُّدَّاتِ وَسُرَادِقَتِهِ فِي السُّرَادِقَاتِ

صحنوں میں اور چوکھٹ پر چوکھٹوں میں اور سرا پردہ پر سرا پردہ میں -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے

بَابِهِ فِي الْآبْوَابِ وَمَصْرَعِ بَابِهِ فِي الْمَصَارِيعِ وَأُسْكُفَّتِهِ فِي الْأُسْكُفَّاتِ

دروازہ پر دروازوں میں اور دروازے کے کواڑ پر کواڑوں میں اور دہلیز پر دہلیزوں میں -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَجُلٍ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے نچلے حصہ

بَابِهِ فِي الْآبْوَابِ وَمِرْأَجِهِ فِي الْمِرْأَجِ وَعَضَادَتِهِ فِي الْعَضَادَاتِ

پر دروازوں میں اور دروازے کے چٹنی پر چٹنیوں میں اور دروازے کی جانبوں پر جوانب میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَكِّهِ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے دروازے کی تکی پر

فِي السَّكَكِ وَسَلِّسْتَهُ فِي السَّلَاسِلِ وَقَفَيْتَهُ فِي الْأَقْفَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

بلیوں میں اور زنجیر پر زنجیروں میں اور تالہ پر تالوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَفَاتِيحِهِ فِي الْمَفَاتِيحِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور آپ کی چابی پر چابیوں میں

وَطَرِيقَتِهِ فِي الطَّرِيقِ وَرِنَاقِهِ فِي الرِّزْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور آپ کے راستہ پر راستوں میں اور گلی پر گلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سَكَّتِهِ فِي السَّكِّ وَخَوَّخْتِهِ فِي الْخَوَّخَاتِ وَ

محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے کوچہ پر کوچوں میں اور کھڑکی پر کھڑکیوں میں اور

بِيرِهِ فِي الْبَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

کنوئیں پر کنوئوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے

مُعْتَسِلِهِ فِي الْمُعْتَسَلَاتِ وَكَيْفِيهِ فِي الْكِنَافِ وَمَسِيلِ مَائِهِ فِي الْمَسِيلَاتِ

عسل خانہ پر عسل خانوں میں اور بیت الخلاء پر بیت الخلاءوں میں اور آپ کے پانی کی گزرگاہ پر اس کی گزرگاہوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَرْبَابِهِ فِي الْأَرْبَابِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے بطن پر بطنوں میں

وَقُلْتِهِ فِي الْقُلْدَالِ وَجَرَّتِهِ فِي الْجَرَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور آپ کے نٹے پر نٹوں میں اور گھڑے پر گھڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَفْنَتِهِ فِي الْجَفَانِ وَابْرِيْقِهِ فِي الْاَبَارِيْقِ وَ

آل محمد پر اور آپ کے پہالے پر پہالوں میں اور لوٹے پر لوٹوں میں اور

اِدَاوَتِهِ فِي الْاِدَاوِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

چھوٹے مشکیزہ پر مشکیزوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اُنْفِيَّتِهِ فِي الْاُنْفِيَّاتِ وَقُدْرِهِ فِي الْقُدُوْرِ وَمَجْبَرِهِ فِي الْمَجَابِرِ

پر اور آپ کے چوٹے کے پھروں پران پھروں میں اور ہنڈیا پر ہنڈیوں میں اور عود سوز پر عود سوزوں میں



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَرَمَتِهِ فِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی ہانڈی پر

الْبُرْمِ وَطَنْجِيرِهِ فِي الطَّنَاجِيرِ وَتَوْبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہانڈیوں میں اور دھات کی دیبگی پر و تہچھیوں اور تنوروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَائِفَتِهِ فِي الطَّوَابِقِ وَطَيْبِهِ فِي الطَّسَائِسِ وَفَرْكَنِهِ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے تھال پر تھالوں میں اور تاش پر تاشوں میں اور گھن پر

فِي الْمَرَائِكِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَغْفَرَتِهِ

گھنوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے چھپر پر

فِي الْمَغَارِفِ وَمَلْعَقَتِهِ فِي الْمَلَاعِقِ وَدَلْوَتِهِ فِي الدَّلَائِلِ الْإِلَهِيِّ هَدَيْتَنِي فَلَهَوْتُ

تہچھوں میں اور چھچی پر تہچھوں میں اور آپ کے ڈول پر ڈولوں میں۔ اے میرے الٰہ تو نے مجھے ہدایت دی پس میں غافل ہو

وَوَعظت ففقسوت وأبليت الجميل فعصيت ثم عقرت فعدت وإذا

گیا اور تو نے نصیحت فرمائی مگر میں سنگدل ہو گیا اور تو نے اچھائی کر کے آزمایا مگر میں نافرمانیوار ہو گیا پھر بھی تو نے بخشش فرمائی مگر

عزفتني فاستغفرت فأقلت فعدت فسترت فلك الحمد اللهم

میں عصیان کی طرف ٹوٹا اور جب تو احسان جلائے تو میں مغفرت طلب کرتا ہوں تو گرفت سے باز رہے تو میں پھر برائی کی طرف ٹوٹا ہوں تو

أنت الملك الجواد الباز الغفور الرحيم لا اله الا أنت الذي قد نجح

پھر بھی پروردہ پوشی کرتا ہے پس تیرے جیسے ہی حمد و ثنا ہے۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ صاحب جود و صاحب احسان بہت بخشنے والا مہربان ہے نہیں

حاجات من توجه اليك بالصدق والإطاعة وبداخ قلبه وشرح

معبود بحق مگر تو کہ تحقیق پروری کی گئیں حاجات ان کی جو متوجہ ہوئے تیری طرف صدق و اطاعت کے ساتھ اور فراخ کیا گیا دل اس کا اور کشادہ کیا گیا

صدره ونزج حزنه ونزح ماء الحيوه من بحار قدرتك التي هي

سینہ اس کا اور دور کیا گیا حزن اس کا اور کھینچا گیا آب حیات تیری قدرت کے سمندروں سے (اس کے لیے)

قادرة على إيجاد إن أردته وعلى إعدام إن شئتة اللهم إن عادني

جو کہ قادر ہے ایجاد پر جب ارادہ کرے تو ایجاد کا اور معدوم کرنے پر اگر چاہے معدوم کرنا۔ اے اللہ اگر صلوات رکھے مجھ

جِنَّ حَاسِدًا أَوْ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ يَتَشَبَّهُ بِبَشَرٍ أَوْ حَيَوَانٍ حَيْثُ دَعَوْتُهُ

سے حاسد جن یا سرکش شیطان جو تشکل ہو تشکل بشری یا حیوانی میں جہاں میں اس کو بلاؤں اور

وَعَيْنَتُهُ لِإِهْلَاكِ عَدُوِّ فَاهْلِكَ فَإِنَّهُ خَالَفَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَابْتَغَى اللَّهُمَّ

منتیں کروں کسی دشمن کی ہلاکت کے لیے تو اس کو ہلاکت فرما نا کیونکہ اس نے اہل اسلام کی مخالفت اور بغاوت کی۔ اے اللہ

أَنْتَ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرَهُمْ وَبَارَهُمْ إِنِّي مِمَّنْ آمَنَ بِكَ وَبِهِنْ أَمَرْتُ

تو اہل ایمان کا ولی و ناصر اور محسن ہے، میں ان میں سے ایک فرد ہوں جو تجھ پر ایمان لائے اور جن کے ساتھ ایمان لانے کا

بِالْإِيمَانِ بِهِ أَنْصَرْتَنِي عِنْدَ كُلِّ دَهْشَةٍ وَشِدَّةٍ وَأَقْلِبْ وَهْمِي وَخِيَالِي إِنْ كَانَ

تو نے حکم دیا میری مدد فرما ہر دہشت اور شدت کے وقت اور بدل دے میرے وہم و خیال کو اگر وہ موجب

نَقْصَالِ هَذَا الدَّاعِي وَوَلَاهِلِهِ وَأَجْبَائِهِ وَأَوْلَادِهِ إِلَى خِلَافِهِ يَا بَارِبُّ بَرٍّ مَحْمُودًا

نقصان ہو اس دعا طلب اور اس کے اقرباء اور احباب و اولاد کے لیے دوسری جانب لے من محمود احسان والے از روئے

وَجُودًا أَيَّامًا كَانَ مِنْ وَجُودِ عَرْضِيَا أَوْ جَوْهَرِيَا أَنْتَ تَامٌ مَحْمُودٌ وَالْقَائِلُ نَاقِصٌ

وجود کے جو وجود بھی ہو عرض یا جوہری تو کامل و محمود ہے اور قائل ناقص ہے

فَمَتْمُهُ بِإِنْفَاقِ نُورِهِ سَارِيًّا فِي عُرُوقِهِ وَغَيْرِ مُضَرٍّ لِسَيْلَانِ الدَّمِ وَتَبَدُّلِهَا إِلَى

لہذا تو اس کو بھی کامل فرما بسبب ملانے نور کے جو سرایت کرنے والا ہو اس کی رگوں میں اور دوران خون کیلئے مضر نہ ہو اور نہ

فُضُولَاتِ الْبَشَرِيَّةِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ مُتَّصِرًا لِلنُّورِ الْإِجْمَالِيِّ الْمُتَقَدِّمِ فَاجْعَلْهُ

زوائد بشریہ کی طرف دھلنے والا ہو۔ اے اللہ اگر تو اپنے نور اجمالی معتدل کو صورت و شکل دینے والا ہے تو اسے میرے

لِي لَذِيذٍ أَوْ مُتَّسِقًا مِنْ غَيْرِ عَارِضٍ وَلَا بَارِدٍ بِشِدَّةِ اللَّمَعَاتِ بَلْ مُعَدًّا لِهَذَا

یسے لذیذ اور خوشگوار بنا لیز کسی عارض کے اور نہ ظاہر ہونے والا شدید چمکوں کے ساتھ بلکہ استعداد پیدا کرنے والا

الدَّاعِي بِالْعَصِّ فِي الْوُصُولِ فَأَغْبُ فِي ذَلِكَ الْبَارِ مُتَلَدِّذًا بِالْجَمَاعِ مَعَ الصُّوْبِ

واسطے اس دعا گو کے چبانے کے ساتھ وصول میں پس غائب فرما اس نوحکار میں لذت اندوز ہونے ہوئے بسبب

الْغَيْبِيَّةِ الْحَسَنَةِ الْجَمَالِيَّةِ وَالسَّعَادَةِ مُنْزَهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الْمُرِيدَةِ

اجتماع کے ساتھ غیبی حسین و جمیل اور سعادت مند صورتوں کے درآئیکہ منزہ ہو شہوات بشریہ سے جو زائل کرنے والی ہیں

لِلنُّطْفَةِ وَاجْعَلْنِي اِذْ عَانَا فِي قَوْمٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَاجْتَدِهْ اِخْتِدَافًا لِّرِصَانِ

نطفہ کو اور بنا دے مجھے از روئے یقین کے طلاء اعلیٰ کی قوم اور شکر میں در آنجا لیکہ میں حاصل کرنے والا ہوں ساتھ کامل

تَامٍ مِّنْ غَيْرِ فَقَدْ سِرَّ مَنْ اسْرَارِكَ بِحَيْثُ لَا يَصْدُرُ مِنِّيْ خِلَافٌ اِذْ عَانَ وَلَا

استحکام کے بغیر کم گئے کسی راز کو تیرے رازوں سے اس انداز میں کہ نہ سرزد ہو مجھ سے خلاف یقین اور نہ ہی

جُرْمٌ فِيْ فَوَائِدِ هَذَا الْاِسْمِ وَمَظَاهِرِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الطَّبَائِعَ فِيْ هَذَا الدَّاعِي

کوئی جرم اس اسم کے فوائد اور مظاہر میں۔ اے اللہ بنا دے طبائع کو اس دعا طلب میں

مُعْتَدِلَةً اِخْتِدَافًا لِّجِنْسِهَا اَمْثَلِ اِعْتِدَالِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَدُّ حَتَّى لَا يَهْلِكَ

معتدل جو اپنے ہمیں کو اختد کریں کامل اعتدال کے ساتھ بغیر تجاوز کے یہاں تک کہ نہ ہلاک ہو

شَخْصِيْ بَغِيْظًا زَائِدًا اَوْ تَكُوْنُ مُضْغَةً اَوْ اِفْرَاطَ قُوَّةٍ مِّنَ الْقُوَى الْاِنْسِيَّةِ

میرا شخص زائد بغیظ و غضب سے یا مضغہ کے بننے یا انسانی قوتوں میں سے کسی کے حد سے بڑھنے کی وجہ سے

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَافِظِيْ وَالْمَلِكَةُ الْاَرْبَعَةُ الْمُوَكَّلَةُ عَلَيِ الْكَيْفِيَّاتِ الْاَرْبَعَةِ

اے اللہ تو میرا محافظ ہے اور چار فرشتے جو موکل ہیں چار کیفیات پر

الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْهَا الْاَرْبَعَةُ الْاٰخِرَى تَحْتِ اَمْرِكَ وَرِضَاكَ وَسَوَادِيْ وَخِيَالِيْ

جن سے پیدا ہونے والی ہیں چار کیفیات دوسری تیرے امر و رضا کے تحت اور میرے مجسمہ خیال کے تحت

وَ كُلُّ اَمْرٍ عَرَضِيٍّ اَوْ جَوْهَرِيٍّ لَكَ اِجْعَلْهَا بَارَةً فِيْ عِبْدِكَ هَذَا اَو الدَّاعِي

اور اپنے ہر امر عرضی اور جوہری کو بنا دے موافق طبع اپنے اس عبد میں اور طالب حاجات میں

اِلَيْكَ يَا فَاطِرَ الْحَقَائِقِ الْمُتَفَرِّدِ بِالْعَظْمَةِ وَالْجَلَالِ الْمُنْتَزِعِ عَنِ الْكُفُوِّ الَّذِي

اے پیدا کرنے والے حقائق کے جو متفرد ہے عظمت و جلال کے ساتھ اور منزہ ہے کفو و مثیل سے کہ

تَقْرِبُهُ اَوْ تَنْظُرُهُ اَوْ تَتَلَذَّذُ بِهِ فَلَيْسَ لِاحِدٍ اَنْ يَقْدِرَ عَلَي مَكَانٍ وَصْفِهِ

کوئی اس کے قریب ہو یا نظیر و مماثل ہو یا اس سے لذت گیر ہو سب نہیں ہے کسی کے لیے شایاں کہ قادر ہو اس کی حقہ توصیف

كَمَا هُوَ يَا اَكْبَرَ الظَّاهِرِ مِنْ كُلِّ اَفَةٍ بِقُدْسِهِ زَكِيٌّ وَطَهَّرَنِيْ مِنْ كُلِّ لَوْثٍ

پر لے پاکیزہ و طاہر ہر آفت سے بسبب اپنے تقدس کے مجھے پاک اور طاہر فرما ہر انسانی آلائش سے

اِنْسِي بِحَيْثُ يَكُونُ صُورَتِي وَشَخْصِي صُورَةَ اِنْسِي وَسَيْرَتِي سَيْرَةً

اس انداز سے کہ میری صورت اور جسم انسانی ہو اور میری سیرت کو بتا دے

شَبِيهَا بِالْعَقْلِ الْاَوَّلِ بِفَضْلِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ وَلَوْ لَا فَضْلُكَ عَلَيْنَا

مشارع عقل اول کی سیرت کے اپنے فضل سے اے ارحم الراحمین اور تیرا فضل ہم پر نہ ہو

لَمَا زَكَيْتُ اَبَدًا وَّلٰكِنْ تُزَكِّيْ مَنْ تَشَاءُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ تَجْعَلَنِيْ

تو میں کبھی پاک نہیں ہو سکتا لیکن تو ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اے اللہ تو قادر ہے اس پر کہ بنا لے مجھے

هٰكَذَا فَاَجْعَلْنِيْ مَحْفُوْطًا عَنْ اَفَةِ اَرْضِيَّةٍ كَانَتْ اَوْ سَمَاوِيَّةٍ مَّانِعَةً

اس طرح پس مجھے محفوظ فرما ہر آفت سے ارضی ہو یا سماوی ہو جو مانع ہو

بِعُبُوْرِ الْعَقْلِ وَالسَّيْرِ فِي الْقُدْسِيَّاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

عقل کے عبور اور سیر سے قدسیات میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى ذِي رَحْمَةٍ فِيْ ذَوِي الْاَرْحَامِ وَذُرِّيَّتِهِ

محمد و آل محمد پر اور آپ کے ذوی الارحام پر تمام ذوی الارحم میں اور آپ کی ذریت

فِي الدَّرَارِي اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر تمام ذریعات میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

وَعَلٰى مُرْضِعِهِ فِي الْمَرَاضِعِ وَاَبِيْهِ فِي الْاَبَاءِ وَجَدِّهِ فِي الْاَجْدَادِ اَللّٰهُمَّ

اور آپ کو دودھ پلانے والی پر دودھ پلانے والیوں میں اور آپ کے باپ پر آباء میں اور دادا پر اجداد میں

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى جَدَّتِهِ فِي الْجَدَّاتِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی وادی پر دادیوں میں

وَجَدِّهِ الْفَاسِدِيْنَ فِي الْاَجْدَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور نانی پر نازوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى جَدَّتِهِ الْفَاسِدَةِ فِي الْجَدَّاتِ الْفَاسِدَاتِ وَعَمِّهِ

اور آل محمد پر اور آپ کی نانی پر نانیوں میں اور چچے پر

فِي الْأَعْمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بچوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور

عَلَى زَوْجِ عَيْمِهِ فِي أَزْوَاجِ الْأَعْمَامِ وَعَمَّتِهِ فِي الْعَمَّاتِ وَزَوْجِ عَمَّتِهِ فِي

آپ کی چچی پر بچوں کی بیویوں میں۔ اور پھوپھی پر پھوپھیوں میں اور پھوپھی کے خاندان پر

أَزْوَاجِ الْعَمَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پھوپھیوں کے خاندانوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

وَعَلَى أَخِيهِ فِي الْأَخُوَّةِ وَأُخْتِهِ فِي الْأَخَوَاتِ وَخَالِهِ فِي الْأَخْوَالِ اللَّهُمَّ

اور آپ کے بھائی پر بھائیوں میں اور آپ کی بہن پر بہنوں میں اور ماموں پر ماموں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَالَتِهِ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی خالہ پر

الْخَالَاتِ وَوَلَدِهِ فِي الْأَوْلَادِ وَأَبْنِهِ فِي الْأَبْنَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

خالوں میں اور آپ کی اولاد پر اولادوں میں اور آپ کے ہر صاحبزادہ پر صاحبزادوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُتَبِعِيهِ فِي الْمُتَبِعِينَ وَكُتْبَتِهِ فِي

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے متبئی پر متبئوں میں اور آپ کی بھوپر

الْكَنَّانِ وَبُنْتِهِ فِي الْبَنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بھوں میں اور ہر صاحبزادی پر صاحبزادیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَتْنِهِ فِي الْأَخْتَانِ وَسِبْطِهِ فِي الْأَسْبَاطِ وَحَافِدَتِهِ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے سر پر سروروں میں اور ہر بیٹے پر بیٹوں میں اور پوتے

فِي الْحَافِدَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر پوتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

وَعَلَى زَوْجِهِ فِي الْأَزْوَاجِ وَحَتَّاتِهِ فِي الْحَتَّاتِ وَصَهْرِهِ فِي الْأَصْهَارِ

اور آپ کی ہر بیوی پر بیویوں میں اور آپ کی ساس پر ساسوں میں اور آپ کے داماد پر دامادوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَتَنَتِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی ماس پر

فِي الْخَتَنَاتِ وَسَلَفِهِ فِي الْأَسْلَافِ وَصَاهِرَتِهِ فِي الْمَصَاهِرَاتِ اللَّهُمَّ

ماسوں میں اور آپ کے ہم زلف پر ہم زلفوں میں اور آپ کے سر بننے پر صاہرت میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خَلِيفَتِهِ فِي الْخَلَائِفِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے ہر خلیفہ پر خلفاء میں

وَصَحْبِهِ فِي الْأَصْحَابِ وَخَادِمِهِ فِي الْخِدَامِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ وَنَسْأَلُكَ

اور صحابی پر اصحاب میں اور ہر خادم پر خدام میں۔ اے اللہ ہم تجھ سے وسیلہ پکڑتے ہیں اور تجھی سے سوال

وَنَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِكِتَابِكَ الْعَزِيزِ وَنَبِيِّكَ الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

کرتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں تیری طرف بظیفیل تیری کتاب عزیز اور تیرے نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَشْرَفِهِ الْمَجِيدِ وَبِأَبَوَيْهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَبِصَاحِبِيهِ

علیہ وسلم کے اور بظیفیل ان کے شرف و مجد کے اور بظیفیل ان کے دونوں باب ابراہیم و اسماعیل کے اور دونوں صحابیوں

أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذِي النُّورَيْنِ عُمَانَ وَإِلَيْهِ فَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَوَلَدَيْهِمَا الْحَسَنُ

ابوبکر و عمر کے اور بظیفیل ذی النورین عثمان اور آپ کی آل فاطمہ و علی اور صاحبزادوں

وَالْحُسَيْنَ وَعَمِّيهِ حَمْرَةَ وَالْعَبَّاسَ وَزَوْجَتِيهِ خَدِيجَةَ وَعَائِشَةَ اللَّهُمَّ

و حسین کے اور بچوں حمزہ و عباس کے اور دونوں بیویوں خدیجہ و عائشہ کے۔ اے اللہ

ارْحَمْ أَبَا بَكْرٍ التَّقِيِّ وَعُمَرَ التَّقِيَّ وَعُثْمَانَ الزُّكِّيَّ وَعَلِيَّ الْوَرَقِيَّ أَسَدَ اللَّهِ

رحم فرما ابوبکر پر ہیزگار، عمر پاکیزہ۔ عثمان طاہر اور علی باوقا اسد اللہ مرتضیٰ

الْمُرْتَضَى وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَعَائِشَةَ الصِّدِّيقَةَ الْعُلْيَا

پر اور فاطمہ زہراء۔ خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ بلند شان پر

وَالْحَسَنَ الرَّضَى وَالْحُسَيْنَ الشَّهِيدَ الْمُجْتَبَى وَالشُّهَدَاءَ الْكِرْبَلَاءَ وَالسُّعْدَ

حسن مجسمہ رضا اور حسین شہید مجتبیٰ پر اور تمام شہداء کربلا پر اور سعد

وَالسَّعِيدَ وَالظَّلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

وسعيد اور طلحہ و زبیر اور عبد الرحمن بن عوف و ابو عبیدہ بن الجراح  
الْجَرَّاحَ الْعَشْرَةَ الْمُبَشِّرِينَ وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ

یعنی تمام عشرہ مبشرہ پر اور دیگر تمام صحابہ کرام و تابعین اور خلفاء راشدین پر  
رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین - اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بخش اور ہمارے والدین  
وَلِمَشَائِخِنَا وَلَا سَاتِدَاتِنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

کو اور مشائخ و اساتذہ کو اور تمام مومنین و مومنات زندہ اور فوت شدہ کو  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُلَامِهِ فِي الْعِلْمَةِ وَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے ہر غلام پر غلاموں میں  
مَوَالِيهِ فِي الْمَوَالِي وَشَيْعَتِهِ فِي الْأَشْيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور محبوبوں پر تمام محبوبوں میں اور جماعت پر جماعتوں میں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر  
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى نَصِيرِهِ فِي الْأَنْصَارِ وَمَهَاجِرِهِ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَ

اور آل محمد پر اور آپ کے مددگار پر مددگاروں میں اور ہر مہاجر پر مہاجرین میں اور  
فَارِسِهِ فِي الْفَوَارِسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آپ کے ہر شاہسوار پر شاہسواروں میں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَعْرَابِهِ فِي الْأَعْرَابِ وَفِي حَبَشَةِ الْفَيْوُجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کے اعراب پر اعرابیوں میں اور آپ کے ہر کارہ پر ہر کاروں میں - اے اللہ صلوات و سلام نازل  
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَفِيرِهِ فِي السُّفَرَاءِ وَرَسُولِهِ فِي

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے ہر سفیر پر سفیروں میں اور ایچی پر  
الرُّسُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا لِهَذَا الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا

ایچیوں میں - اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ کا اور تیرے ہاں



تَرْضَى اللَّهُ هَوْنٌ عَلَيْنَا سَفَرْنَا هَذَا وَأَطْوَلْنَا الْبُعْدَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ

پسندیدہ عمل کا۔ اے اللہ آسان فرما ہم پر ہمارا یہ سفر اور لپیٹ دے ہمارے لیے اس کی دوری۔ اے اللہ تو ہی ساتھ ہے

فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَ

سفر میں اور نگران ہے اہل و عیال میں۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سفر کی تھکان اور

كَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ اطْوِلْهُ

برے منظر سے اور بری بازگشت سے مال اور اہل و اولاد میں۔ اے اللہ سمیٹ اس کی

الْبُعْدَ وَهَوْنٌ عَلَيْهِ السَّفَرِ اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرْفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَذَلِكَ

دوری کو اور آسان فرما اس پر سفر کو۔ اے اللہ تیرے لیے ہی ہے بزرگی ہر شرف و بزرگی پر اور تیرے لیے

الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہے حمد ہر حال میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أُمَّتِهِ فِي الْأِمَاءِ وَعَبِيدِهِ فِي الْعَبِيدِ وَكَاتِبِهِ فِي

محمد پر اور آپ کی لونڈی پر لونڈیوں میں اور غلام پر غلاموں میں اور ہر کاتب پر

الْكِتَابِ وَرَقِيْبِهِ فِي الرَّقَبَاءِ وَحَارِسِهِ فِي الْحُرَّاسِ وَنَقِيْبِهِ فِي

کاتبوں میں اور آپ کے ہر نگران پر نگرانوں میں اور ہر پہرے دار پر پہرے داروں میں اور آپ کے مقرر کردہ ہر سردار پر

النُّقَبَاءِ وَمُؤَدِّيْنِهِ فِي الْمُؤَدِّيْنَ وَخَطِيْبِهِ فِي الْخُطَبَاءِ وَجَاسُوسِهِ فِي

ایسے سرداروں میں اور ہر مؤذن پر مؤذنون میں اور ہر خطیب ہر خطیبوں میں اور آپ کے ہر جاسوس پر

الْجَوَاسِيْسِ وَأُمَّتِهِ فِي الْأُمَمِ وَشَاعِرِهِ فِي الشُّعْرَاءِ وَبَوَائِبِهِ فِي الْبَوَائِبِ

جاسوسوں میں اور آپ کی امت پر امتوں میں اور ہر شاعر پر شاعروں میں اور ہر دربان پر دربانوں میں

وَقَصَادِهِ فِي الْقَصَادِيْنَ وَخِيَاطِهِ فِي الْخِيَاطِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور ان کی طرف متوجہ ہونے والے پر متوجہ ہونے والوں میں اور ان کے درزی پر درزیوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَبَاخِهِ فِي الطَّبَاخِيْنَ وَعَصَارِهِ فِي

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے باورچی پر باورچیوں میں اور شیرہ تکانے پر



الْعَصَارِينَ وَرَاعِيَهُ فِي الرُّعَاتِ وَحَجَّامِهِ فِي الْحَجَّامِينَ وَفَضَادِهِ فِي

شیرہ نکالنے والوں میں اور ہر چرواہے پر چرواہوں میں اور سینکیاں لگانے والے پر ایسے لوگوں میں اور رگزن پر

الْفَضَادِينَ وَمُنَادِيَهُ فِي الْمُنَادِيْنَ وَصَبَّاعِهِ فِي الصَّبَّاعِينَ وَسَهَّارِهِ فِي

رگزنوں میں اور آپ کے منادی پر منادیوں میں اور رگزیں پر رگزیوں میں اور گھی فروشوں پر

السَّهَّارِينَ وَكِبَّانِهِ فِي الْكِبَّانِينَ وَحَدَّادِهِ فِي الْحَدَّادِينَ وَصَيَّاعِهِ فِي

گھی فروشوں میں اور دودھ فروش پر دودھ فروشوں میں اور آپ کے لوہار پر لوہاروں میں اور سنار پر

الصَّيَّاعِينَ وَعَظَّارِهِ فِي الْعَظَّارِينَ وَحَلَّاقِهِ فِي الْحَلَّاقِينَ وَحَطَّابِهِ فِي

سناروں میں اور عطار پر عطاروں میں اور آپ کے حجام پر حجاموں میں اور آپ کے کٹھالے پر

الْحَطَّابِينَ وَحَادِيَهُ فِي الْحُدَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کٹھالوں میں اور حدی خواں پر حدی خواںوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دِينِهِ فِي الْأَدْيَانِ وَمِلَّتِهِ فِي الْمِلَلِ وَمَذَاهِبِهِ فِي

آل محمد پر اور آپ کے دین پر ادیان میں اور ملت پر ملتوں میں اور مذاہب پر

الْمَذَاهِبِ وَشَرِيْعَتِهِ فِي الشَّرَائِعِ وَطَرِيقَتِهِ فِي الطَّرِيقِ وَحَقِيْقَتِهِ فِي الْحَقَائِقِ

مذاہب میں آپ کی شریعت پر شریعتوں میں اور آپ کی طریقت پر طریقتوں میں اور حقیقت پر حقیقتوں میں

وَمَعْرِفَتِهِ فِي الْمَعَارِفِ وَأَمْرِهِ فِي الْأَوْامِرِ وَنَهْيِهِ فِي النَّوَهِىِ وَخَلْوَتِهِ فِي

اور آپ کی معرفت پر معرفتوں میں۔ اور آپ کے امر پر اوامر میں اور منع پر مناہی میں اور خلوت پر

الْخَلَوَاتِ وَطَاعَتِهِ فِي الطَّاعَاتِ وَعِبَادَتِهِ فِي الْعِبَادَاتِ وَطَهَارَتِهِ فِي

خلوتوں میں اور اطاعت پر طاعات میں اور آپ کی عبادت پر عبادات میں اور طہارت پر

الطَّهَارَاتِ وَعُسْدِهِ فِي الْمُغْتَسِدِينَ وَوُضُوْعِهِ فِي الْمُتَوَضِّئِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

طہارتوں میں اور آپ کے غسل پر غسل کرنے والوں میں اور وضو پر وضو کرنے والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَسَاكِينِهِ فِي الْمَسَاكِينِ وَتَيْمَمَتِهِ فِي

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے مساکین پر مساکینوں میں اور آپ کے تیمم پر

الْمُتَيِّبِينَ وَمَسْجِدِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعْبُدَةٍ فِي الْمَعْبُدِ وَعِيدَةٍ فِي الْأَعْيَادِ وَ

تمام تراہل یتیم میں اور آپ کے مسج پر اہل مسج میں اور جائے عبادت پر عبادتگاہوں میں اور آپ کی عید پر عیدوں

وَجَمْعَتِهِ فِي الْجَمْعَاتِ وَعَنْزَتِهِ فِي الْعَنْزَاتِ وَجَمَاعَتِهِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَصَلَاتِهِ

میں اور جمعہ پر جمعوں میں اور چھوٹے نیزہ پر ایسے نیزوں میں اور آپ کی جماعت پر جماعتوں میں اور مسجد پر

فِي الْمَسَاجِدِ وَمُنَابِرَةٍ فِي الْمُنَابِرِ وَأَذَانِهِ فِي الْمَوْذِنِينَ وَسُتْرَتِهِ فِي السُّتْرَاتِ

مساجد میں اور آپ کے منبر پر منبروں میں اور آپ کی اذان پر موزنین میں اور آپ کے سترہ پر ستروں میں

وَصِفِّهِ فِي الصُّفُوفِ وَخُطْبَتِهِ فِي الْخُطَبِ وَأَقَامَتِهِ فِي الْمُقِيمِينَ وَسَجَّادَتِهِ

اور آپ کی صف پر صفوں میں اور خطبہ پر خطبوں میں اور اقامت صلوات پر اہل اقامت میں اور آپ کے مصلیٰ

فِي السَّجَّادَاتِ وَطَنْفَسِيَّتِهِ فِي الطَّنَافِسِ وَإِمَامَتِهِ فِي الْأَيْمَةِ وَصَلَاتِهِ فِي

پر مصلحوں میں اور آپ کی چٹائی پر چٹائیوں میں اور امامت پر آئمہ میں اور آپ کی نماز پر

الصَّلَوَاتِ وَقِيَامِهِ فِي الْقَائِمِينَ وَمَحْرَابِهِ فِي الْمَحَارِبِ اللَّهُمَّ

نمازوں میں اور قیام پر اہل قیام میں آپ کے محراب پر محرابوں میں - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَدْعِهِ فِي الْجَدَائِعِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے تن اقدس پر تنوں میں

وَنَيْتِهِ فِي النَّيَّاتِ وَتَكْبِيرِهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَتَحْرِيمَاتِهِ فِي التَّحْرِيمَاتِ وَفُرْضِهِ

اور آپ کی نیت پر نیت میں اور تکبیر پر تکبیرات میں اور تکبیر تحریمہ پر تحریمات میں اور ہر فرض پر

فِي الْفَرَائِضِ وَوَأَجِبِهِ فِي الْوَأَجِبَاتِ وَسُنَّتِهِ فِي السُّنَنِ وَمُسْتَحَبَّتِهِ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ

فرائض میں اور ہر واجب پر واجبات میں اور سنت پر سنن میں اور ہر مستحب پر مستحبات میں

وَنَقْلِهِ فِي النَّوَافِلِ وَمُبَاحِهِ فِي الْمُبَاحَاتِ وَتَهْجُدِهِ فِي التَّهْجُدِينَ وَقِرَاءَتِهِ

اور آپ کے نقل پر نوافل میں اور مباح پر مباحات میں اور آپ کی تہجد پر اہل تہجد میں اور قراءت پر

فِي الْقِرَاءَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ خَشْوَعِهِ

قاریوں میں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے خشوع پر

فِي الْخَاشِعِينَ وَرُكُوعِهِ فِي الرُّكْعَاتِ وَشَفَعَتِهِ فِي الشَّفَعَاتِ وَرُكُوعِهِ فِي

اہل خشوع میں اور ہر رکعت پر رکعات میں اور دو دو رکعت پر جفت رکعات میں اور رکوع پر

الرُّكْعِ وَقُوَّتِهِ فِي الْقَائِمِينَ وَقَوْمَتِهِ فِي الْقَوْمَاتِ وَفَأْمُومِهِ فِي الْمَأْمُومِينَ

اہل رکوع میں اور قنوت پر اہل قنوت میں اور قوم پر قوموں میں اور آپ کے ہر مقتدی پر مقتدیوں میں

وَسُجْدَتِهِ فِي السُّجْدَاتِ يَأْصِدُّ مَنْ غَيْرِ شِبْهِهِ فَلَا شَيْءَ كَمَثَلِهِ إِجْعَلْنِي غَنِيًّا

اور آپ کے ہر سجدہ پر سجدوں میں۔ اے بے نیاز بلا مشابہہ کوئی شئی جس کی مثل نہیں ہے مجھے کوہن سے

عَنِ الْكُوفِيِّنَ فَاطْرًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَائِمًا فِي أَوْامِرِكَ الَّتِي أَنْتَ كَلَّمْتَنِي بِهَا

بے نیاز کر دے در آنجا لیکہ افطار کرنے والا ہوں تیرے حضور اور برابر پا کرنے والا تیرے احکام کو جن کے ساتھ تو نے مجھے مکلف فرمایا

مَنْ غَيْرُ مَثَلَةٍ مِّنَ الْمَثَلَاتِ الدِّنِّيَّةِ الرَّدِّيَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْأَمَارِيَّةِ يَا قَدُّوسُ

بغیر کسی آفت کے حقیر رومی نفس امارہ کی آفات۔ اے قدوس

يَا سُبُّوحُ أَرْسَلْ عَلَيَّ الرَّشْحَاتِ الصَّمْدِيَّةِ الْفَيْئِيَّةِ مِنَ الْأَمْرِ شَادَاتِ

اے سبح سبح مجھ پر صمدی چھینٹوں سے جو لوٹنے والے ہیں بشری

الْبَشَرِيَّةِ الْمَوْصَلَةِ إِلَى مَنْ مَحْضُ السَّرِيِّ الْمُمْتَدِّ الشُّعَاعِي مِنْ غَيْرِ اخْتِذِ

رہنما یوں سے جو پہنچانے والے ہیں طرف میری محض ستر ممتد نورانی سے بغیر استعمال کرنے

الَّذِي مِّنَ الْأَلَاتِ السَّبِيَّةِ الْغَيْرِ الْمُمَثِّلَةِ لِعَالَمِ الْحِسِّ ثُمَّ أَقْبِنِي دَائِمًا

کے کوئی آلہ آلات سببیہ سے جو مشابہہ نہیں ہیں عالم محسوسات کے پھر مجھے قائم رکھ ہمیشہ

إِلَى أَسْيَابِ السَّمَوَاتِ مِنْ غَيْرِ مَنَعٍ وَسَلِّبْ فِي الْعُرُوجِ إِلَى مِرْقَاتِ وَ

آسمانوں کی طرف چڑھنے والے راستوں میں بغیر کسی رکاوٹ اور سلب قوت کے عروج میں طرف بلندی اور

عُرْوَانَ غَيْرَ مُتَوَقِّفٍ عَلَى إِذْنِ بَلْ مُتَدَرِّجًا بِدَرَجَةٍ مَعَ رُوحِيَّةٍ وَنَفْسِ

تجاوز کے بغیر توقف کے اذن پر بلکہ درجہ بدرجہ چڑھتے ہوئے روحانیت اور پاکیزہ نفس

رُكْيَةَ تَابِعَةٍ لِرُوحٍ فِي خِيَالٍ مِّنْ غَيْرِ سَرَايَةٍ مِّنَ السَّرَايَاتِ الْأَرْضِيَّةِ وَ

کے ساتھ جو تابع ہے روح کے خیال میں بغیر تائید کے ارضی اور سماوی تاثیرات سے

کے ساتھ جو تابع ہے روح کے خیال میں بغیر تائید کے ارضی اور سماوی تاثیرات سے

السَّمَاوِيَّةِ حَتَّى تَصِيرَ مُنْقَطِعَةً مِّنَ الْإِلْتِفَاتِ السَّفَلِيَّةِ وَأَجْعَلْ نَفْسِي

حتی کہ وہ منقطع ہو جائے سفلی توجہات سے اور بناوے میرے نفس کو

سَكَتًا سَكِينًا عَنِ الْإِعْتِرَاضَاتِ فِي سَيْرِ الْخِيَالِ الْأَوْحَادِيَّةِ فِي الْكَمَالَاتِ

بہت ہی خاموشی اور ساکت اعتراضات سے خیالات اوحیدیہ کی سیر میں طرف کمالات کے

وَرُوحِي عِنْدَكَ مُتَوَجِّهًا إِلَيْكَ بِفَنَاءِ حَوَادِثَاتِ وَصُولِكَ وَمَوَانِعِ

اور میرے روح کو بناوے متوجہ اپنی طرف بسبب فنا کرنے حادثات کے اور موانع کے اپنے وصول اور

طُرُقِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّمَدُ فَأَثِرُ رُوحِي وَجَسَدِي أَنْتَ أَرْضُ صَدِيدِيَّتِكَ

اپنی راہوں سے۔ اے اللہ تو ہی نیاز ہے پس پیدا فرما میری روح و جسم میں اپنی صمدیت کے اثرات

حَتَّى لَا أَحْتَاجَ إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ ثُمَّ أَقْمِنِي فِي صُفُوفِ مَمْلُوكَتِكَ مِنْ

حتی کہ میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہوں۔ پھر مجھے قائم فرما اپنے مملکت کی صفوں میں بیمر

غَيْرِ وَعُولٍ فِي اجْتِمَاعِ أَشْجَارِكَ عِنْدَ قُدْسِكَ بَلْ بَاقِيًا مُشَخَّصًا

بناہ لیے تیری بارگاہ قدس میں مجتمع اشجار میں بلکہ باقی و مشخص اور

وَحَدَانِيًا مُشَارًا إِلَى شَخْصِي هَذَا بَشْرِي مَعَ أَثَرِ مَمْلُوكَتِي تُشْرِقُ بِالشَّرِيفَاتِ

منفرد ہوتے ہوئے اشارہ کیا گیا ہو میرے مجسمہ کی طرف کہ یہ ہے میرا بشر مع مملکتی اثرات کے درآئیکہ میں شرف ہوا

اللَّاهُوتِيَّةِ مِنْ غَيْرِ وَكُلِّ إِلَى عِبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ إِلَّا إِلَى رَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ

لاہوتی خلعتوں کے ساتھ بغیر کسی اپنے بندہ کے حوالے کئے ماسوائے اپنے رسول و حبیب

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَقِيمًا لَنَا عِنْدَ أَنْوَارِهِ وَدَرَجَاتِهِ خَادِمًا

محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جیکہ تو ہمیں قائم فرمانے والا ہوا ان کے انوار و درجات کے پاس بحیثیت بادشاہ

مُؤَدِّبًا مُسْتَشْفَعًا بِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ مِّنْ لَّمَحَاتِ الْكَرَامَاتِ

خادم کے جو ان سے طالب شفاعت ہو ہر لمحہ و ہر لحظہ میں تیرے نلباتِ اکرام کے

سَطَوَاتِكَ عَلَى اللَّهِ هَمَّ أَنْ عَايِقَنِي جَنَّ أَوْ إِنْسٍ أَوْ رُوحٍ حَسَدًا أَعْلَى

لمحات میں سے۔ اے اللہ اگر رکاوٹ ڈالے کوئی جن یا انسان یا روح مجھ پر حسد کی وجہ



عِنْدَ سَيْرِي إِلَى سَجْحِكَ فَلَا تُقَدِّرُهُ عَلَيَّ بِخِيَالٍ أَوْ وَهْمٍ كَأَنَّ مُكْرَمًا

بوقت سیر کے تیرے خاص راستہ کی طرف۔ تو اسے مجھ پر قادر نہ کرنا خیال یا وہم کے ذریعے مانند سرگردان اور

إِذَا عَلَوْتُ أَوْ رَجَعْتُ يَا بَارِئُ فَلَا شَيْءَ كَفُوهُ يُدَانِيهِ وَلَا أَمَّكَانَ

بار بار لوٹائے جانے والے کے جب بلندی کی طرف جاؤں یا لوٹوں۔ اے مومن کوئی شئی اس کی کفو اور قریب نہیں اور نہ اس کی توصیف

لِيُوصِفَهُ إِجْعَلْنِي بَارِئًا فِي حَقِّ كُلِّ كَوْنٍ فِي عَالَمِ الْحِسِّ إِمَّا

کسی کے بس میں ہے۔ مجھے بنا کے موافق و سازگار عالم محسوس کے ہر موجود کے حق میں

بِالْأَفْعَالِ بِأَنْ أَتَوَاضَعَ لِطَائِبِيكَ وَأَخْدَمَ لِمُقَرَّبِيكَ يَا كَبِيرَ أَنْتَ

ساتھ افعال کے بایں طور کہ میں صاحب تواضع بن جاؤں تیرے اہل طلب کیلئے اور خادم بن جاؤں تیرے مقربین کے لیے۔ اے

الَّذِي لَا تَهْتَدِي الْعُقُولُ إِلَيْهِ فَتَحْمَدُكَ وَتَشْكُرُكَ وَتَسْجُدُكَ ثُمَّ

کیسے تڑھی ہے کہ جس کی طرف عقول راہ نہیں پاسکتے پس ہم حمد کریں اور شکر بجا لائیں اور سجدے کریں وہاں پر

بِإِقَامَةِ لَطِيفِكَ فِي مَقَامِ قَابِ قَوْسَيْنِ عِنْدَكَ فَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى

بسبب قائم کرنے تیرے عطا کردہ خاص لطیفہ کے تیرے ہاں قاب قوسین کے مقام میں پس نہ توجہ کریں ہم

كَأَنَّ رُوحِي أَوْ مَلِكِي وَلَا نَذْهَبُ إِلَى حُسْبَانِي إِنَّهُ إِلَهُ وَسَرَابٌ

کسی بھی روحانی یا ملکی مخلوق کی طرف اور نہ جاؤں اس گمان کے کہ وہ (لطیفہ) الہ اور رب

اللَّهُمَّ أَنْتَ مُكَبِّرُ الْعُقُولِ الْبَشَرِيَّةِ وَالْمُبَلِّغُ لَهَا إِلَى الدَّرَجَاتِ الَّتِي

اے اللہ تو ہی بڑائی دینے والا ہے عقول بشریہ کو اور انہیں پہنچانے والا ہے ان درجات تک کہ جن

ظَنَّتْ لِأَهْلِهَا عُقُولُ الصَّالِّينَ بِالْإِلَهِ وَالرَّبِّ وَهُمْ عِبَادٌ عِبَادُونَ

درجات والوں کو گمراہوں کے عقول نے الہ اور رب گمان کیا حالانکہ وہ اللہ کے انتہائی عبادت گزار بندے ہیں

مُكْرُونَ أَقْوَالَهُمْ وَظُنُونَهُمْ لَا عُنُونَ عَلَيْهِمْ بِأَقْبَحِ اللَّعْنَةِ اللَّهُمَّ

اہل ضلال کے اقوال اور فاسد گمانوں پر نفی کرنے والے اور ان پر بیشع ترین لعنتیں بھیجنے والے ہیں۔ اے اللہ

أَسْعِدْنِي مَعَ الَّذِينَ سَعِدُوا وَافْفِي رَحْمَةَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

مجھے سعادت مند بنا ان سعادت مند لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی رحمت میں ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَلْسَتِهِ فِي الْجَلْسَاتِ وَعَلَىٰ قَعْدَتِهِ

سیدنا محمد و آل سیدنا محمد پر اور آپ کی نشست پر نشستوں میں اور تشدد پر

فِي الْقَعْدَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ دِينِ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِ

تشددوں میں۔ اللہ عظیم کے نام کی برکت سے۔ اور حمد ہے اللہ کی دین اسلام پر، اسلام

حَقٌّ وَالْكَفْرُ بَاطِلٌ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْبَغْضَاءِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنْ

برحق ہے اور کفر باطل ہے۔ اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک فرما اور میری شرمگاہ کو محفوظ فرما تا

الْفَوَاحِشِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيَمْنَ وَالْبُرْكَهَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّؤْمِ

برائیوں سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یمن و برکت کا اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کی نوحیت

وَالْهَلَكَةَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبَيْثِ وَالْخَبَائِثِ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ

و ہلاکت سے، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں خبیث جنوں اور خبیثات سے۔ اے اللہ میری امانت فرما اپنے ذکر

وَعَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَىٰ صَلَاةِ حَبِيبِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ

اور قرآن کی تلاوت پر اور اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درود و صلوات پر اے اللہ

أَبْرَحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَرْضَ عَنِّي وَأَنْتَ رَاضٍ عَنِّي غَيْرُ غَضَبَانَ

مجھے جنت کی خوشبو سونگھا اور مجھ سے راضی ہو اور تو مجھ سے راضی رہنا ناراض نہ ہونا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ سُوءِ الدَّارِ بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آتش دوزخ سے اور برے مکان سے بطیفیل نبی مختار کی حرمت کے

وَالهِ الْأَبْرَارِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ

اور آپ کی آل ابراہار کے علیہ و علیہم الصلوٰۃ۔ اے اللہ روشن فرما میرے چہرہ کو اپنے نور کے ساتھ

تَبْيِضْ وَجْهَ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تَسْوِدْ وَجْهِي بِظُلْمَتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُ وَجُوهٌ

جس دن تیرے اولیاء کے چہرے نورانی ہوں گے اور نہ سیاہ کرنا میرے چہرہ کو ظلمت کے ساتھ جس دن سیاہ ہونے

أَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

تیرے اعداء کے چہرے۔ اے اللہ مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا اور مجھ سے آسان حساب لینا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِشِمَالِي أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے یا پیٹھ کے پیچھے سے

اللَّهُمَّ عَشِّبْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأَظْلِنِي تَحْتَ

اے اللہ مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت کے ساتھ اور مجھ پر اپنی برکات نازل فرما اور مجھے جگہ عطا کرنا

ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ

عرش کے سایہ میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے سایہ کے۔ اے اللہ مجھے بنا ان لوگوں سے

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ أَسْمِعْنِي مُنَادِيَ الْجَنَّةِ

جو ہر قوم کہ سنتے ہیں پھر احسن قول کی اتباع کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے سنوانا جنت کی منادی

مَعَ الْأَبْرَارِ اللَّهُمَّ فَكْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ

نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے اللہ میری گردن کو آتش دوزخ سے آزاد فرما اور میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں دوزخ

وَالْأَغْلَلِ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَبِقَابِ آبَائِي اللَّهُمَّ

کی زنجیروں اور طوقوں سے۔ اے اللہ میری گردن نارہنم سے آزاد فرما اور میرے آباء کی گردنیں بھی۔ اے اللہ

ثَبِّتْ قَدَمِي وَقَدَمَ وَالِدَيَّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَوْمَ تَزُلُّ الْأَقْدَامُ

میرے قدموں کو اور میرے والدین کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت و راسخ فرما جس دن پھسلیں گے بہتیرے

فِي النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَزُلَّ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ

قدم آگ میں۔ اے اللہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری کہ پھسلے میرا قدم پہل صراط پر سے جس دن

تَزُلُّ أَقْدَامُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ

پھسلیں گے منافقوں اور کافروں کے قدم آتش دوزخ میں اے اللہ بنا مجھے تو بہ

التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ

کرنے والوں سے اور بنا مجھے پاکیزہ لوگوں سے اور بنا مجھے اپنے نیک

الصَّالِحِينَ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَا

بندوں سے جو جنات نعیم کے ورثاء ہیں۔ اور بنا مجھے ان لوگوں سے جن پر نہ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ط وَأَجْعَلْنِي عَبْدًا شَكُورًا وَاجْعَلْنِي

خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور بنا مجھے شکر گزار بندہ اور مجھے اپنا

أَنْ أَذْكَرَكَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَأَسْبِحَكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُمَّ اشْفِنِي

بہت ذکر کرنے والا اور صبح و شام تسبیح کہنے والا بنا۔ اے اللہ مجھے شفا بخش

بِشْفَائِكَ وَدَاوِنِي بِدَاوَائِكَ وَعَافِنِي مِنَ الْبَلَاءِ وَأَعْصِمْنِي

اپنی مخصوص شفا کے ساتھ اور میری دور فرما اپنی مخصوص دوا کے ساتھ اور مجھے بلاؤں سے عافیت عطا کر اور مجھے محفوظ فرما

مِنَ الْأَهْوَالِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

ہولناک امور اور امراض اور دردوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ تَشْهَدُ فِي التَّشْهُدَاتِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے تشہد پر تشہدوں میں

وَسَلَامِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور آپ کے سلام پر سلام دینے والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُنَاجَاتِهِ فِي الْمُنَاجَاتِ وَعَلَىٰ دُعَائِهِ

آل محمد پر اور آپ کی مناجات پر اہل مناجات میں اور آپ کی دعا پر

فِي الدُّعَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

دعاؤں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَرْدِهِ فِي الْأَوْرَادِ وَذِكْرِهِ فِي الْأَذْكَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آل پر اور آپ کے ورد پر اوراد میں اور آپ کے ذکر پر اذکار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اسْتِغْفَارِهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی استغفار پر

فِي الْمُسْتَغْفِرِينَ وَعَلَىٰ مُكَاشَفَتِهِ فِي الْمُكَاشَفَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ

اہل و مستغفار میں اور آپ کے مکاشفہ پر تمام مکاشفات میں۔ اے اللہ بے شک تو



تَعْلَمُ أَنِّي عَاجِزٌ عَلَى إِقَامَةِ أَسْبَابِ حُصُولِي عَلَى الْكَمَالَاتِ وَوُصُولِي

جانتا ہے کہ میں عاجز ہوں کمالات کے حصول کے اسباب قائم کرنے سے اور

إِلَى الْمَطَالِبِ الْكَلْبِيَّةِ وَأَعْلَى الْمَقَامَاتِ إِلَّا أَنِّي مُتَوَسِّلٌ بِالصَّلَاةِ وَ

مطالب کلیہ اور اعلیٰ مقامات تک وصول و رسائی سے مگر میں وسیلہ بناتا ہوں صلوات و

التَّسْلِيَمَاتِ عَلَى مَنْ هُوَ لَهَا أَهْلٌ وَلَا تَرُدُّ سَوَالَ الْمَتَوَسِّلِ بِهِ

تسلیات کو جو بھیجتا ہوں اس ذات پر جو ان کے لائق ہیں اور تو رد نہیں فرماتا ان سے توسل کرنے والے کا سوال

فَأَجِبْ سَوَالِي وَأَغْنِ قَلْبِي وَأَحْفَظْنِي وَأَوْلَادِي مِمَّا لَا تَرْضَاهُ

پس میرا سوال پورا فرما اور میرے دل کو مٹنی فرما اور مجھے اور میری اولاد کو محفوظ فرما ان سے جو تجھے پسند نہیں

مِنَ التَّذَلُّلِ عَلَى بَابِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ تَأْخِيرٌ أَجَابَةً

یعنی ذلت اٹھانے سے دنیا اور اہل دنیا کے دروازے پر۔ اے اللہ اگر میری دعا کی قبولیت میں

دُعَائِي مِنْ جِهَةِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحُقُوقِ الَّذِينَ قَصَّرْتُ فِي حُقُوقِهِمْ

تاخیر کسی حقدار کی طرف سے ہے جن کے حقوق میں نے کوتاہی کی ہے

فَارْضِهِ عَنِّي وَأَتُوبُ إِلَيْكَ مِنَ التَّقْصِيرِ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ الذُّنُوبِ

تو اسے میری طرف سے راضی فرما اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس کوتاہی سے۔ اور اگر میرے گناہوں

وَالْعُصْيَانِ فَإِنِّي اعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي وَتُبْتُ إِلَيْكَ فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ

اور عصیان کی وجہ سے ہے تو میں نے گناہ کا اعتراف کیا ہے اور تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے پس مجھے بخش دے

لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ إِذْ قُلْتَ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ

کیونکہ گناہ نہیں بخشتا مگر تو ہی جبکہ تو نے فرمایا ہے "تأمید نہ ہوتا اللہ کی رحمت سے بیشک

اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِنْ كَانَ

اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخشتا ہے۔ بیشک وہی غفور رحیم ہے اور اگر یہ تاخیر

بِسَبَبِ مَانِعٍ آخَرَ لَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَادْفَعْ ذَلِكَ

کسی دوسرے مانع کی وجہ سے ہے جسے میں نہیں جانتا اور تو سب غیوب کا علم کامل رکھتا ہے تو دور فرما اس

الْمَانِعَ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ عِنْدَكَ وَأَجِبْ دُعَائِي وَدُعَاءَ

مانع کو محمد کریم کی عزت و حرمت اور شرف کے طفیل جو تیرے ہاں ہے اور میری دعا قبول فرما اور ہر اس شخص کی

كُلِّ مَنْ التَّجَىٰ إِلَىٰ وَدُعَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَدُعَاءَ مَنْ تَوَسَّلَ

جس نے میری طرف پناہ لی اور تمام مومنین و مومنات کی دُعا اور دُعا پر اس شخص کی جس نے

بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا۔ اللہ کی طرف سے صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اور تمام انبیاء و مرسلین پر

الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَحْبَابِهِ أَجْمَعِينَ

اور تمام مقرب ملائکہ پر اور آپ کی آل و اصحاب اور ازواج و احباب سبھی پر

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّبِعِينَ لِشَرِيعَتِهِ الْمُتَّصِفِينَ بِحُبَّةِ الْهَيْتَدِينَ

اے اللہ ہمیں بنا دے آپ کی شریعت کی اتباع کرنے والوں سے، آپ کی محبت سے موصوف لوگوں سے اور

بِهْدْيِهِ وَسِيرَتِهِ وَتَوْفِقًا عَلَىٰ سُنَّتِهِ وَلَا تَحْرِمْنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهِ وَ

ہدایت پانے والوں سے آپ کی سیرت و کردار کے ساتھ اور ہمیں وفات دینا آپ کی سنت پر اور ہمیں محروم نہ رکھنا آپ کی

أَحْسُرْنَا فِي اتِّبَاعِهِ الْغُرَّ الْمُحَجِّدِينَ وَأَشْيَاعِهِ السَّابِقِينَ وَأَصْحَابِ

شفاعت والے فضل و احسان سے اور ہمیں اٹھانا آپ کے روشن چہروں اور نورانی اعضاء والے متبعین میں اور آپ کے سبقت پہلنے والے

الْيَسِينِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

گروہوں اور دائیں جانب والوں میں اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ صَوْمِهِ فِي الصَّوَامِ وَعَلَىٰ إِفْطَارِهِ فِي

آل محمد پر اور آپ کے روزہ پر روزہ داروں میں اور آپ کے افطار پر

الْمِفْطِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اہل افطار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

وَعَلَىٰ تَرَاوِيحِهِ فِي التَّرَاوِيحَاتِ وَعَلَىٰ سُحُورِهِ فِي الْمُنَسْحَرِينَ

اور آپ کی تراویح پر تراویح میں اور آپ کی سحری پر سحری کرنے والوں میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ

إِعْتِكَافِهِ فِي الْمُعْتَكِفِينَ وَعَلَى أَضْحِيَّتِهِ فِي الصَّحَابِيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے اعتکاف پر اعتکاف والوں میں اور آپ کی قربانی پر قربانیوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَلَوَاتِهِ فِي الصَّلَوَاتِ وَ

نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی صلوٰۃ پر صلوٰت میں اور

عَلَى مُصَلِّيَيْهِ فِي الْمُصَلِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آپ پر درود بھیجنے والے پر درود بھیجنے والوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُسَلِّمِيهِ فِي الْمُسَلِّمِينَ وَعَلَى زَكَاةِهِ فِي الزَّكَاةِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر سلام بھیجنے والوں میں اور آپ کی زکوٰۃ پر زکوٰتوں میں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِمَتِهِ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے چرنے والے جانوروں پر

السَّوَابِمِ وَعَلَى عَرَضِهِ فِي الْعُرُوضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

چرنے والوں میں اور آپ کے سازوسامان پر سازوسامانوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَالِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَدَرْهَمِهِ فِي الدَّرَاهِمِ

و آل محمد پر اور آپ کے مال پر اموال میں اور درہم پر درہم میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے

دِينَارِهِ فِي الدَّنَانِيرِ وَعَلَى رِيَالِهِ فِي الرِّيَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دینار پر دیناروں میں اور ریال پر ریالوں میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى قُرُوصِهِ فِي الْقُرُوصِ وَعَلَى

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی روٹی پر روٹیوں میں اور آپ کے

عَشْرِينَ فِي الْعَشْرِينَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بیس کے سکتے پر بیسیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

أَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَشْرَتِهِ فِي الْعَشْرَاتِ وَخَمْسَتِهِ فِي الْخَمْسَاتِ

آل محمد پر اور آپ کے دس کے سکتے پر دسیوں میں اور پانچ کے سکتے پر تمام پانچوں میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی

مِيرَانِهِ فِي الْمَوَارِيثِ وَعَلَى وَقْفِهِ فِي الْأَوْقَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

وراثت پر وراثتوں میں اور آپ کے وقف پر اوقات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى دَيْنِهِ فِي الدُّيُونِ

نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے فرض پر قرضہ جات میں

وَتَرَكَتِهِ فِي التَّرَكَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور ترکہ پر ترکہ جات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

أَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَجَّهِ فِي الْحُجَّاجِ وَقَرَانِهِ فِي الْقَارِنِينَ اللَّهُمَّ

آل محمد پر اور آپ کے حج پر اہل حج میں اور حج و عمرہ کے جمع کرنے پر جملہ اہل قرآن میں۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَتَبُعِهِ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے ہر دو عبادت (حج و عمرہ) کے ساتھ نفع اندوز

فِي الْمُتَتَبِعِينَ وَحَصْرِهِ فِي الْمُحْصَرِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

ہونے پر اہل تتبع میں اور آپ کے حصر یعنی روکے جانے پر اہل احصار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى هَدْيِهِ فِي الْهَدَايَا وَعُمُرَتِهِ فِي

محمد و آل محمد پر اور آپ کے کعبہ مبارکہ کی طرف لے جانے والے جانور پر ان جانوروں میں اور

الْمُعْتَمِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَل سَيِّدِنَا

آپ کے عمرہ پر عمرہ والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٌ وَعَلَى زَادِهِ فِي الْأَزْوَادِ وَرَاحِلَتِهِ فِي الرَّاحِلَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر اور آپ کے سفر خراج پر جملہ زادراہ میں اور آپ کی سواری اونٹنی پر تمام اونٹنیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِيقَاتِهِ فِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی جائے احرام پر

الْمَوَاقِيتِ وَعَلَى إِحْرَامِهِ فِي الْمَحَرَّمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جملہ احرام کی جگہوں میں۔ اور آپ کے احرام پر جملہ اہل احرام میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَلْبِيئَتِهِ فِي الْمَلْبِيئِينَ وَعَلَى

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے تلبیہ کتنے پر تمام تلبیہ کتنے والوں میں اور آپ

إِسْتِلاَمِهِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي الْمُسْتَلِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کے حجر اسود کا بوسہ لینے پر تمام اہل استلام میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِسْتِلاَمِهِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے رکن یمان کے استلام پر

فِي الْأَرْكَانِ وَعَلَى تَكْبِيرِهِ فِي الْمُكَبِّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تمام ارکان و جراب کعبہ میں اور آپ کی تکبیر پر تمام تکبیر کتنے والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَهْلِيلِهِ فِي الْمَهْلِلِينَ وَ

سیدنا محمد اور آل محمد پر اور آپ کے لا الہ الا اللہ کہنے پر تمام اہل تہلیل میں اور

اضْطِبَاعِهِ فِي الْمُضْطَبِعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی اس کیفیت احرام پر تمام اہل اضطباع میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَمْلِهِ فِي الرَّامِلِينَ وَعَلَى سَوِّطِهِ فِي

اور آل محمد پر اور آپ کے رمل (دوران طواف دوڑ) پر رمل کرنے والوں میں۔ اور آپ کے ایک پیکر

الْأَشْوَاطِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پر تمام پیکروں اور گردشوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَوَافِهِ فِي الطَّوَافِينَ وَسَعِيهِ فِي السَّعَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر اور آپ کے طواف پر تمام طواف کرنے والوں میں اور آپ کی سعی (صفا و مروہ میں دوڑ) پر تمام سعی والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَنْسَكِهِ فِي

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی قربانی اور جائے عبادت پر جملہ

الْمَنَاسِكِ وَمَوْقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مناسک میں اور آپ کے موقف (رعنات یا مزدلفہ میں قیام) پر جملہ موافقت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَصَاتِهِ فِي الْحَصِيَّاتِ وَجَمْرَتِهِ فِي

اور آل محمد پر اور آپ کی کنکری پر کنکریوں میں اور آپ کے جمرہ پر

الْجَمْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جمرات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى بُدُنِهِ فِي الْبُدُنِ وَحَلِقِهِ فِي الْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آپ کے تونج کئے جانے والے اونٹوں پر اونٹوں میں اور آپ کے سراقس منڈانے پر تمام اہل حلق میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى نِكَاحِهِ فِي الْأَنْكَحَةِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے نکاح پر نکاحوں میں

وَشَاهِدِيهِ فِي الشُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور آپ کے دو گواہوں پر تمام گواہوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَلِيِّهِ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى كُفْوَيْهِ فِي الْأَكْفَاءِ

آل محمد پر اور آپ کے ولی پر اولیاء میں اور کفو قبیلہ کے نسب و حسب پر تمام اکفاء میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَهْرِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے حق مہر پر

فِي الْمَهْرِ وَقَسَمِهِ فِي الْأَقْسَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مہروں میں اور آپ کے باریاں مقرر کرنے پر باریوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَلْقِهِ فِي الطَّلَقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

و آل محمد پر اور آپ کی طلاق پر (اگر دیتے) تمام طلاقوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ فَرَسِهِ فِي الْأَفْرَاسِ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے گھوڑے پر گھوڑوں میں

وَجَنِيْبَتِهِ فِي الْجَنَائِبِ وَنَعْمِهِ فِي الْأَنْعَامِ وَجَمَّازَتِهِ فِي الْجَمَّازَاتِ

اور آپ کے کونٹے گھوڑے پر کونٹے گھوڑوں میں اور چار پالیوں پر چار پالیوں میں اور آپ کے تیز دوڑانے پر دوڑوں میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَاةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کی بھری پر

فِي الشِّيَاهِ وَبَعْلِهِ فِي الْبُعَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بھریوں میں اور بچھیر بچھروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَبَلِهِ فِي الْجِبَالِ وَنَاقَتِهِ فِي النَّوَقِ

آل محمد پر اور آپ کے اونٹ پر اونٹوں میں اور اونٹنی پر اونٹنیوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور

مَطِيئَتِهِ فِي الْمَطَايَا وَدُجَاجِهِ فِي الدُّجَاجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آپ کی سواری پر سواریوں میں اور مرغ پر مرغوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ دِيكِهِ فِي الدِّيُوكِ وَعَلَىٰ

سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے مرغ پر مرغوں میں اور آپ کے

دُلْدُلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دلدل پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

وَعَلَىٰ بَرَاقِهِ وَيَعْفُورِهِ وَقَصْوِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور آپ کے براق اور یعفور (دراز گوش) اور قصو (افشنی) پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنْشُورِهِ فِي الْمَنَاشِيرِ وَشَجَاعَتِهِ

محمد و آل محمد پر اور آپ کے منشور پر تمام منشوروں میں اور آپ کی شجاعت

فِي الشَّجْعَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پر اہل شجاعت میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سَلَاحِهِ فِي الْأَسْلِحَةِ وَجُرْبَتِهِ فِي الْحُرَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر اور آپ کے ہتھیار پر ہتھیاروں میں اور آپ کے چھوٹے نیزہ پر ایسے نیزوں میں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رُحْمِهِ فِي الرِّمَاحِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے نیزہ پر نیزوں میں

وَخَنْجَرِهِ فِي الْخَنَاجِرِ وَسَيْفِهِ فِي السُّيُوفِ وَمَعُولِهِ فِي الْبِعُولِ وَجُنَّتِهِ

اور خنجر پر خنجروں میں اور آپ کی تلوار پر تلواروں میں اور کدال پر کدالوں میں اور ڈھال پر

فِي الْجُنَانِ وَسَوْطِهِ فِي الْأَسْوَاطِ وَسَهْمِهِ فِي السَّهَامِ وَجَعْبَتِهِ فِي

ڈھالوں میں اور چھڑی پر چھڑیوں میں اور تیر پر تیروں میں اور ترکش پر

الْجَعَابِ وَنَضْلِهِ فِي النَّضُولِ وَقَوْسِهِ فِي الْأَقْوَابِ وَمُحْبَبَتِهِ فِي

ترکشوں میں اور تیر کے پھل پر پھلوں میں اور کمان پر کمانوں میں اور ٹیڑھے سرواے

الْمَحَاجِنِ وَدِرْعِهِ فِي الْأَدْرَاعِ وَبَيْضَتِهِ فِي الْبَيْضَاتِ وَلِوَالِيهِ فِي الْأُلُوبَةِ

عصا پر ایسے عصاؤں میں اور آپ کی زره پر زرهوں میں اور خود پر خودوں میں اور پرچم پر پرچموں میں

وَعَسْكَرِهِ فِي الْعَسَاكِرِ وَنَاصِحِهِ فِي النَّوَاصِحِ وَمَعْسَكْرِهِ فِي الْمَعْسَكَرَاتِ وَ

اور لشکر پر لشکروں میں اور آپ کے ہر مخلص پر مخلصوں میں اور بڑاؤ کی جگہ پر ان جگہوں میں اور

مَلْحَمَتِهِ فِي الْمَلَا حِمِّهِ وَرَاكِبِهِ فِي الرَّاكِبَانِ وَحَرْبِهِ فِي الْأَحْزَابِ وَخِيَمَتِهِ

آپ کی جنگ پر جنگوں میں اور آپ کے اونٹ سواروں پر سواروں میں اور آپ کی جماعت پر جماعتوں میں اور خیمہ

فِي الْخِيَامِ وَوَتْدِهِ فِي الْأَوْتَادِ وَدَعَامَتِهِ فِي الدَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ

پر خیموں میں اور میخ پر میخوں میں اور خیمہ کے ستون پر ستونوں میں۔ اے اللہ صلوات و





سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ طَنِيْبِهِ فِي الْأَطْنَابِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ کے خیمہ کے رسم پر رسول میں

وَعَزْوَتِهِ فِي الْغَزَوَاتِ وَسَرِيَّتِهِ فِي السَّرَايَا وَجِهَادِهِ فِي الْمَجَاهِدِيْنَ

اور آپ کے عزوہ پر غزوات میں اور سریہ پر سرایا میں اور آپ کے جہاد پر اہل جہاد میں

وَحَرْبِهِ فِي الْحُرُوبِ وَعَيْرِهِ فِي الْعَيْرَاتِ وَقَتْحِهِ فِي الْفُتُوْحِ وَمُلْكِهِ

اور حرب پر حروب میں اور قافلہ پر قافلوں میں اور فتح پر فتوحات میں اور آپ کے ملک پر

فِي الْأَمْلاَكِ وَسُلْطَنَتِهِ فِي السَّلَاطِيْنِ وَغَنِيْمَتِهِ فِي الْغَنَائِمِ وَأَسِيْرِهِ

ملکوں میں اور سلطنت پر سلطنتوں میں اور مال غنیمت پر اموال غنیمت میں اور آپ کے مسلمان قیدی

فِي الْأَسَادِي وَنَضِيْبِهِ فِي الْأَنْضِبَاءِ وَمَرْضِيْهِ فِي الْأَمْرَاضِ وَصِحَّتِهِ

پر قیدیوں میں اور آپ کے حصہ پر جملہ حصص میں اور آپ کے مرض پر امراض میں اور صحت پر

فِي الْأَصْحَاءِ وَحُمَّتِهِ فِي الْحُمِّيَّاتِ وَصَدَاعِهِ فِي النَّصْدِ وَعَيْنِ وَكَرْبِهِ

اہل صحت میں اور آپ کے تپ پر جملہ تپوں میں اور آپ کے درد سر پر تمام سر دردیوں میں اور آپ کی تکلیف پر

فِي الْكُرْبِ وَوَجْعِهِ فِي الْأَوْجَاعِ وَدَوَائِهِ فِي الْأَدْوِيَةِ وَعِلَاجِهِ

تمام تکالیف میں اور درد پر تمام دردوں میں اور آپ کی دوا پر تمام ادویات میں اور آپ کے علاج پر

فِي الْمَعَالِجَاتِ وَوَصِيَّتِهِ فِي الْوَصَايَا وَسَكْرَتِهِ فِي السَّكْرَاتِ وَ

تمام علاجوں میں اور آپ کی وصیت پر تمام وصیتوں میں اور آپ کی مدہوشی اور استغراق پر تمام مدہوشیوں میں اور

شَهَادَتِهِ فِي الشَّهَادَةِ وَمَوْتِهِ فِي الْأَمْوَاتِ وَتَعْسِيْلِهِ وَتَعْزِيَّتِهِ

آپ کی شہادت پر تمام شہیدوں میں اور آپ کے وصال پر تمام اموات میں اور آپ کے غسل دئے جانے پر اور تعزیت فرمانے

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَ لِلَّهِ مَا أَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى

پر۔ بیشک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کے لیے ہے جو اس نے دیا اور ہر چیز اس کے ہاں میں مدت

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُقَلَّبُ لِأَفْعَالِي مِنْ الْمَذْمُومَاتِ إِلَى الْمَحْمُودَاتِ

کے ساتھ ہے۔ اے اللہ تو ہی بدسننے والا ہے میرے افعال کو مذموم سے محمود کی طرف

وَأَنْتَ الْمَرْجَحُ الْمَخْتَارُ لَا زَالَ فِي الْأَزَلِ وَفِيهَا لَا يَزَالُ اخْتِيَارُكَ وَ

اور تو ہی ترجیح دینے والا مختار ہے جس کا ازل سے ابد تک اختیار قائم و دائم ہے۔ اور

أَدْخَلَ الرَّفْقَ وَالرَّأْفَةَ فِي أَعْمَالِ مَوْضُوعَةٍ فِي مَحَالِّهَا مِنْ غَيْرِ ظَلَمٍ فِي

داخل فرما نرمی اور مہربانی ان اعمال میں جو اپنے اپنے عملوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ بغیر ظلم سرزد ہوئے (مجھ سے)

حَقِّ أُمَّيْ كَوْنِ انْسِيًّا أَوْ حَيًّا أَوْ نَبِيًّا بَرِيًّا أَوْ مَا تَبِيًّا وَاجْعَلْ لَهُ فِعْلَ كُلِّ مَا

کسی بھی موجود مخلوق کے حق میں انسانی ہو یا حیوانی اور خشکی والا ہو یا پانی والا۔ اور پیدا فرما اس کے لیے فعل ہر اس امر کا

يَجْعَلُ لِنَفْسِي بِالْإِخْتِيَارِ وَالرِّضَاءِ وَأَمَّا بِالْأَقْوَالِ فَأَخْرِجْهَا مِنْ

جسے کرے میرے نفس کے لیے اپنے اختیار و رضا سے۔ لیکن اقوال پس نکال انہیں میری

لِسَانِي وَفِي مَرْضِيَّةٍ مَّحْبُوبَةٍ عِنْدَكَ وَعِنْدَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

زبان اور منہ سے اس حال میں کہ پسندیدہ و محبوب ہوں تیرے نزدیک اور تیرے نیک بندوں کے نزدیک

مُطْلَقَةً مِّنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى قُصُورٍ مِّنْ تَقْصُرُ حَقِّ كُلِّ كَوْنٍ إِلَّا فِي

اور مطلق ہوں۔ بغیر اضافت و نسبت کے طرف کوتاہی و نقص کے کسی بھی مخلوق کے حق میں مگر تیرے

أَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءِ رُسُلِكَ فَأَنْفِذْ أَقْوَالِي بِالضَّرِّ بِالنَّفْسِيِّ وَالْمَالِيِّ

اعداد اور تیرے رسل کرام کے اعداء کے حق میں۔ پس نافذ فرما میرے اقوال کو ان میں جانے اور مالی

فِيهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مَقْهُورِينَ وَمَكْسُورِينَ فَيَغْلِبُ عِبَادُكَ الْمُؤْمِنُونَ

ضرر و نقصان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مقہور و مغلوب ہو جائیں پس غالب ہو جائیں (ان پر) تیرے مومن بندے

الْبَطِيعُونَ لِأَوْامِرِكَ وَأَحْكَامِكَ وَأَمَّا بِالْأَوْهَامِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ

اور اطاعت گزار تیرے اوامر و احکام کے۔ اور لیکن اوہام و اعتقادات فاسدہ پر

فِي حَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ فَاجْعَلْ وَهْبِي وَطَبِّي غَيْرَ دَمْلِقٍ وَأَعْلِمْ لِقَلْبِي

مومن کے حق میں پس بنانا میرے وہم اور ظن کو ناہموار اور جوش میں لانا میرے دل کو

عَلَى وَجْهِ يَكُونُ عِبَادُكَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَإِنْ أَقْبَلَنِي الْعِزُّ

اس طریقہ پر کہ تیرے بندے اس طریقہ پر ہوں۔ اگرچہ مانع ہو مجھے نفس مدنی



الْمَدَنِي فِي رُوحِي وَجَنَسِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ مُطَهِّرُ الْقُلُوبِ عَنْ صَدَائِيَّاتِ

محتاج تعاون میرے روح اور اس کی جنس میں۔ لے اللہ تو دلوں کو پاک کرنے والا ہے و ہمیت کے

الْوَهْمِيَّاتِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ الْمُسْتَعَاذَاتِ مِنْهَا بِأَنْوَارِكَ الْهَادِيَةِ الْبَارَّةِ

زنگ سے اور ان اعتقادات کے زنگ سے جو پناہ طلب کرنے کے لائق ہیں ساتھ اپنے

بِحَقِّ الْبَرَّةِ الْهَادِيَةِ الْبَارَّةِ بِحَقِّ الْبَرَّةِ الْهَادِيَةِ إِجْعَلْ خَطَرَاتِ

انوار کے جو رہنما اور محسن ہیں بطفیل اپنے نیکو کاروں، رہبروں اور محسنین کے میرے دل کے خیالات کو

قَلْبِي مَبْرُورَةً عَرِيضًا إِلَى مَلَكُوتِكَ مُرْسَلًا مُلْصَقًا بِرُهْدِ الْعَبْدِ بِحُسْنِ

درست و نیک بنا دے پرواز کرتے ہوئے تیرے ملکوت کی طرف آزادی کی حالت میں درآغیا لیکر متصل ہو اس عبد کی نیکی

التَّصَوُّرَاتِ وَالْإِدْرَاكَاتِ فِي حَقِّهِمْ عَلَى وَجْهِ انِّصَافِهِمْ عَالِمًا لِمَا فِي

اچھے تصورات و علوم کے ساتھ ان کے حق میں ان کے انداز انصاف کے مطابق جانتے ہوئے ان کے

نُفُوسِهِمْ مِّنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي يَتَجَاوَبُونَ بَيْنَهُمْ وَيَتَكَلَّمُونَ بِالْأَسْرَارِ

نفوس والے اقوال کو جن کے ساتھ وہ باہم سوال و جواب کرتے ہیں اور کلام کرتے ہیں ایسے امرار کے ساتھ

الَّتِي هِيَ كَامِنَةٌ عَنْ أَعْيَانِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْجِنِّيَّةِ الْيَفَامَعَهُمْ بِالْمَحَبَّةِ

جو پوشیدہ ہیں انسانوں اور جنوں کی ذاتوں سے الفت رکھتے ہوئے ان کے ساتھ محبت

التَّامَّةِ مِنْ غَيْرِ مُصِيبٍ فِي آلَةٍ مِّنَ الْآتِي وَمِنْ غَيْرِ فَقْدِ شَخْصٍ أَرْضَى

تمام کے طور پر بغیر کسی درستگی و اصلاح کے میرے آلات میں سے کسی آلہ میں اور بغیر گم کئے کسی ارضی شخص کو

طَالِعَةً هُنَالِكَ الْجَمَالَاتِ الْقُدْسِيَّةِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْرَاقِ فَارِعًا

درآغیا لیکر طلوع کرنے والے ہوں وہاں پر جمالات قدسیہ استعراق و احاطہ کی حالت میں، درآغیا لیکر میں فارغ ہوں

عَنْ كُلِّ الْهُمُومِ فَارِحًا مَعَ الْقُدْسِيَّةِ السُّبُوحِيَّةِ بِسُحُبَاتِ النَّقَبَاءِ

تمام غموں سے۔ مہلنے والا ہوں ساتھ تسبیح خوان قدسیوں کے ساتھ تسبیحات خداوند تعالیٰ کے مقرر کردہ

الْإِلَهِيَّةِ الْعَرَشِيَّةِ بَادًا فِي حَقِّهِمْ بِالْإِعْتِقَادِ الْجَمِيلِ وَالثَّنَاءِ

عرش کے نگرانوں کے، بانٹتے ہوئے ان کے حق میں اپنے جمیل اعتقاد اور لائق ستائش ثناء کو

الْحَمِيدِ فَلَا يَمَاتُ لِي أَحَدٌ فِي الطَّاعَةِ وَالْمَشَاهِدَةِ ثُمَّ الْإِمْنُ أَرَدْتُ

پس میری برابری نہ کر سکے وہاں پر کوئی شخص اطاعت اور مشاہدہ میں مگر جس کے لیے تو ارادہ فرمائے

ذَلِكَ فَلَا يَقْرِبُنِي مَلَكٌ أَرْضِيُّ بِالْحَتْفِ وَلَا بِالْمَنْعِ بَلْ مُبَدًّا أَوْ

پس نہ قریب ہو میرے کوئی ارضی فرشتہ موت کے ساتھ اور نہ رکاوٹ کے ساتھ بلکہ امدادی کے طور پر یا

مُعَدًّا سَاكِنًا مَمْنُوعًا عَنِ الْفِعْلِ وَالتَّأْتِيرِ فِي الصَّرِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

استعداد پیدا کرتے ہوئے پرسکون حالت میں جبکہ وہ ممنوع ہو موزوں فعل و تاثیر سے۔ لے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِأُمَّتِهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب نے اُمت کو فرمایا

إِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِحُضُورِ الْمَيِّتِ وَبِدَفْنِهِ وَيَنْبَغِي

کہ تم میں سے اگر کوئی فوت ہو تو اس کے پاس حاضر ہونا اور اسے دفن کرنا تم پر لازم ہے اور لائق ہے

لِحَيِّهِمْ يَدْعُونَ اللَّهَ لَهُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ

ان میں سے زندہ کے لیے کہ اس کے لیے دعا کریں اور کہیں لے اللہ اسے بخش لے اللہ اسے بخش

وَأَرْحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرَمُ نُزْلَهُ وَأَوْسَعُ مَدْخَلَهُ وَ

اس پر رحم فرما۔ عافیت دے اور درگزر فرما اور اس کی مہمانی باعزت فرما اور اس کی قبر وسیع فرما اور

اغْسَلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبُرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطِيَا كَمَا نَقَّيْتَ

اسے دھویا پانی اور برف اور اولوں کے ساتھ اور گناہوں سے پاک فرما جیسے تو نے پاک فرمایا

التُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَنْزَلْهُ دَارَ خَيْرٍ أَمِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا

سفید کپڑے کو میل کچیل سے اور اسے اتار دنیوی مکان سے بہتر مکان میں اور بہتر قریبی

خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدْ لَهُ

عطا فرما دنیوی قریبیوں سے اور بیوی جو بہتر ہو دنیوی بیوی سے اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے

مِنْ عَذَابِ الْقُبُورِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ مِنْهَا خَلَقْتُمْ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ

عذاب قبر سے اور عذاب دوزخ سے بچا " اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں لوٹائیں گے

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ

اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے " اللہ کے نام کی برکت سے اور اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ

رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ

کی ملت پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ وحدہ لا شریک لہ اور میں گواہی دیتا ہوں

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أُمَّتِهِ وَ

کہ محمد اس کے عبد خاص اور رسول برحق ہیں اور یہ کہ عیسیٰ اللہ کے عبد، اس کی باندی کے بیٹے اور

كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ

کلمتہ اللہ ہیں جسے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی پیدا کردہ مخصوص روح ہیں اور جنت برحق اور دوزخ

وَعِنْدَ الْمَرِيضِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ اِشْفِهِ فَأَنْتَ الشَّافِي لَا

برحق ہے اور مریض کے پاس رکھیں اسے جا اس کی بیماری اور شدت کو لے رب انسانوں کے، اسے شفا بخش پس تو ہی شفا دینے والا

شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِبَصَرِي وَاجْعَلْهُ

ہے نہیں ہے شفا مگر صرف تیری شفا، ایسی شفا ہے جو نہ چھوڑے کسی طرح کی بیماری کو۔ اے اللہ مجھے نفع اندوز فرما میری بصارت کے ساتھ

الْوَارِثَ مِنِّي وَأَرْبِنِي فِي الْعُدُوِّ تَارِيحًا وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي بِسْمِ

اور بنا اسے میرا وارث۔ اور دکھلا مجھے میرے دشمن میں ہلاکت و نواخذہ اور میری مدد فرما مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف۔

اللَّهِ الْكَبِيرِ نَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرَقٍ تَعَارَوْهُ مِنْ شَرِّ حَرِّ

اللہ کبیر کے نام کی برکت سے۔ ہم اللہ عظیم کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر پھٹکنے والی رگ کے شر سے اور آگ کی حرارت

النَّارِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ

کے شر سے۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو اور وفات دینا جب

الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا يَشْفِي بَهَا

وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے نام کی برکت سے ہماری زمین کی ٹٹی جو ملی ہوئی ہے اہلکے بعض کے لعاب دہن کے ساتھ شفا پاتا ہے اس

سَقِيمِنَا بِأَذْنِ رَبِّنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقَدَّرْتَهُ مِنْ شَرِّ مَا أَجْدُ وَأَحْذَرُ

کے ساتھ ہمارا بیمار ہمارے رب کی اذن سے میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی اور اس کی قدرت کی ہر اس شئی کے شر سے جو باہنا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آپ

مَرْقَدِهِ فِي الْمَرَاقِدِ وَلِحَدِيثِهِ فِي الدُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کے مرقد پر مرقدوں میں اور الحد پر الحدوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَقَّارِهِ فِي الْحَقَّارِينَ وَعَلَى صَلَوةِ

محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی قبر انور کھودنے والے پر قبریں کھودنے والوں میں اور آپ کی صلوات

جَنَازَتِهِ فِي الصَّلَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جنازہ پر ان صلوات میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لَبَنَتِهِ فِي اللَّيْنَاتِ وَعَلَى تُرَابِهِ فِي التُّرَبَانِ اللَّهُمَّ

کی آل پر اور آپ کی قبر کی کچی اینٹوں پر ان اینٹوں میں اور آپ کی تراب و خاک پر خاکوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَقْبَرَتِهِ فِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کے مقبرہ پر

الْمَقَابِرِ وَمَدْفِنَتِهِ فِي الْمَدَائِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مقابر میں اور دفن کی جگہ پر ان جگہوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَزَارِهِ فِي الْمَزَارَاتِ وَقَبْرَتِهِ فِي الْقُبُورَاتِ

و آل محمد پر اور آپ کے مزار شریف پر مزارات میں اور قبور مقدسہ پر قبورجات میں

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَأَعْقِبِي مِنْهُ عَقِبَةٌ حَسَنَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اے اللہ مجھے بخش اور میرے متوفی کو بخش اور مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَشْهَدِهِ فِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے وجود اقدس والی جگہ پر جگہ

الْمَشَاهِدِ وَعَلَى رَوْضَتِهِ فِي الرُّوَضَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مشاہد میں اور آپ کے روضہ اقدس پر تمام روضہ جات میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ قَتْدِيلِهِ فِي الْقَنَادِيلِ وَزِيَارَتِهِ

محمد و آل محمد پر اور آپ کے روضہ اقدس کی نورانی مشعل پر تمام قندیلوں میں اور آپ کی زیارت

فِي الرَّائِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پر تمام اہل زیارت میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ زَائِرِهِ فِي الرَّؤَايَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور آپ کے زیارت کرنے والے پر زائرین میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ بَعْتِهِ فِي الْبُعُوثِ وَلِوَاوِيئِهِ فِي الْأَلْوِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آپ کے لشکر پر شکروں میں اور آپ کے پرچم پر پرچموں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَفَاعَتِهِ الْعُظْمَىٰ فِي

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اور آپ کی شفاعت عظمیٰ پر تمام شفاعت

الشَّفَاعَاتِ وَمَقَامِهِ الْمَحْمُودِ فِي الْمَقَامَاتِ اللَّهُمَّ افسَحْ لَهُ فِي عَدْنِكَ

میں اور آپ کے مقام محمود پر جملہ مقامات میں۔ اے اللہ فرامی و کشادگی فرما ان کیلئے اپنی جنت عدن

وَاجْزِهِ مَضَاعِقَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مَهْنَاتٍ لَهُ غَيْرِ مَكْدَرَاتٍ

میں اور جزاء دے کئی گنا خیرات کی اپنے فضل سے جو خوشگوار ہوں ان کے لیے نہ مکدر

مِنْ قُوْرٍ ثَوَابِكَ الْمَحْلُولِ وَجَزِيلِ عَطَائِكَ الْمَعْلُولِ وَأَنْ تُعْطِيَهُ

اپنے فوری ثواب سے جو واجب کیا ہوا ہے (از روئے تیرے فضل کے) اور اپنے عظیم عطا سے جو بار بار دی جانے

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْحَوْضَ الْمُرْوُودَ وَ

والی ہے اور عطا کرے انہیں مقام وسیلہ و فضیلت اور بلند درجہ اور حوض کوثر جس پر بکثرت وارد ہونے والے ہوں

الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَالْعِزَّ الْمُرْوُودَ وَأَنْ تُعْظِمَ بَرَهَانَهُ وَأَنْ تُشْرِفَ

اور مقام محمود اور بہت وسیع عزت اور عظیم فرمائے ان کے برہان کو اور شرف بخشے ان کی

بُنْيَانَهُ وَأَنْ تَرْفَعَ مَكَانَهُ اللَّهُمَّ اَعْلِ عَلَىٰ بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءً لَا وَ

بنیادوں کو اور بلند فرمائے ان کے مکان کو۔ اے اللہ بلند فرما لوگوں کی بناؤں پر ان کی بناء کو اور

اَكْرَمَ مَثْوَاكَ لَدَيْكَ وَنَزَلَهُ وَأَتَيْمٌ لَهُ تُوْرَةٌ وَأَجْرَةٌ مِنْ ابْتِعَاثِكَ

عزت و کرامت والا بنا ٹھکانا ان کا اپنے ہاں اور مہمانی ان کی اور کامل فرما ان کا نور اور جزا دے انہیں سموت فرمے کی

لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضَى الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَخُطَّةٍ

انہیں اس حال میں کہ ان کی شہادت مقبول ہے اور قول پسندیدہ۔ سراسر عدل والی گفتگو اور واضح

فَضِيلٍ وَبُرْهَانَ عَظِيمٍ اللَّهُمَّ اعْطِ مُحَمَّدَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ

عادات اور عظیم برہان والے ہیں۔ اے اللہ عطا فرما محمد کریم کو مقام وسیلہ و فضیلت

وَالشَّرْفَ وَالذَّرَجَةَ الْكَبِيْرَةَ اللَّهُمَّ اَبْلِغْ رُوْحَ مُحَمَّدٍ مَبِيْتِي تَحِيَّةً

اور شرف اور بہت بڑا درجہ۔ اے اللہ پہنچا محمد کریم کی روح اقدس کو میری طرف سے تحفہ

وَسَلَامًا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكَبِيْرِي وَاَرْفَعْ دَرَجَتَهُ

اور سلام۔ اے اللہ قبول فرما محمد کریم کی شفاعت کبریٰ اور بلند فرما ان کا درجہ عالیہ

الْعُلِيَّا وَاْتِهِ سُوْلَةٌ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلَى كَمَا اْتَيْتَ سَيِّدَنَا مُوسَى

اور عطا فرما انہیں ان کا مطلوب آخرت اور دنیا میں جیسے عطا کیا سیدنا موسیٰ کو

وَسَيِّدَنَا اِبْرَاهِيْمَ اللَّهُمَّ اَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغِيْبُطُهُ فِيْهِ

اور سیدنا ابراہیم کو۔ اے اللہ پہنچا انہیں مقام محمود پر کہ رشک کریں ان سے اس مقام

الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ اللَّهُمَّ عَظِّمُهُ فِي الدُّنْيَا بِاَعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَ

میں تمام اولین و آخرین۔ اے اللہ عظمت بخش انہیں دنیا میں ان کا ذکر بلند کر کے اور

اِظْهَارِ دِيْنِهِ وَاِبْقَاءِ شَرِيْعَتِهِ وَفِي الْاٰخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِي اُمَّتِهِ

دین غالب کر کے اور شریعت کو بقا و دوام دے کر اور آخرت میں اپنی اُمت میں حق شفاعت

وَأَجْزَلِ اجْرَةٍ وَمَثْوِيْتِهِ وَاَبْدُ فَضْلَهُ لِلْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ بِالْمَقَامِ

دے کر اور عظیم فرما ان کا اجر و ثواب اور ابدی بنا دے ان کے فضل کو اولین و آخرین کے لیے مقام

الْمَحْمُوْدِ وَتَقْدِيْمِهِ عَلٰى كَافَّةِ الْمُقْرَبِيْنَ بِالشُّهُودِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ

محمود کے ذریعے اور انہیں مقدم فرما کر تمام مقربین پر اپنے مشاہدہ ذات کے ساتھ۔ اے اللہ انہیں بنا



مَنْ أَكْرَمَ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً وَمِنْ أَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ

اپنے تمام بندوں سے مکرم ترین اپنے ہاں از روئے شرف و کرامت کے اور ان سے بلند تر اپنے ہاں

دَرَجَةً وَمِنْ أَعْظَمِهِمْ عِنْدَكَ خَطَرًا وَمِنْ أَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً

از روئے درجہ کے اور ان سے عظیم تر از روئے اہمیت اور ان سے بلند مرتبت اپنے ہاں از روئے شفاعت کے۔

اللَّهُمَّ عَظْمُ شَانِهِ وَيَبِينُ بَرُهَانَهُ وَأَبْدَجُ حُجَّتِهِ وَأَبْلَغُهُ مَا مَوْلَاهُ

اے اللہ ان کی شان کو عظیم بنا اور برہان کو واضح فرما اور حجت کو روشن فرما اور انہیں ان کی امید و آرزو تک پہنچا

فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ آتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

ان کے اہل بیت اور ذریت میں۔ اے اللہ انہیں وسیلہ و فضیلت اور درجہ عالیہ

الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَاللِّوَاءَ الْمَعْقُودَ وَالْحَوْضَ

و رفیع عطا فرما اور انہیں پہنچا مقام محمود تک اور تیار پرچم اور حوض

الْمُورُودِ اللَّهُمَّ جَدِّدْ وَجَدِّدْ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ

مورود تک۔ اے اللہ تجدید و تجدید فرما اس وقت میں اور اس ساعت میں

مِنْ صَلَوَاتِكَ التَّامَّاتِ وَتَحِيَّاتِكَ الزَّاكِيَّاتِ وَرِضْوَانِكَ الْأَكْبَرِ

اپنی کامل صلوات اور پاکیزہ تحیات کی اور اپنی رضوان اکبر

الَّتِي أَتَتْهَا أَدْوَمٌ إِلَى أَكْمَلِ عِبْدِكَ فِي هَذَا الْعَالَمِ مِنْ بَنِي آدَمَ

و اتم و دائمی کی اپنے کامل ترین عید کے لیے اس جہان میں بنی آدم میں سے

اللَّهُمَّ بَلِّغْ سَلَامَ عَبْدِكَ هَذَا إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ مِنْكَ الْآنَ عَنْ عَبْدِكَ

اے اللہ پہنچا اپنے اس بندے کا سلام ان کی بارگاہ میں پس ان پر ہوتیری طرف اور تیرے اس عید

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَشْرَفُ التَّسْلِيمِ وَأَزْكَى التَّحِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کی طرف سے افضل ترین صلوات اور بزرگترین سلام اور پاکیزہ ترین تحیہ و تحفہ۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَسَيْلَتِهِ فِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور آپ کے وسیلہ پر

الْوَسَائِلِ وَحَدِيقَتِهِ فِي الْحَدَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وسائل میں اور آپ کے باغیچہ پر باغات میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَنَّتِهِ فِي الْجَنَّاتِ وَفِرْدَوْسِهِ فِي

اور آپ کی آل پر اور آپ کی جنت پر جنات میں اور آپ کے فردوس پر

الْفِرَادِيسِ وَحَوْضِهِ فِي الْحَيَاضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فردوسوں میں اور حوض پر حوضوں میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى زَاوِيَتِهِ فِي الزَّوَايَا وَكُوْبِنِ حَوْضِهِ فِي

اور آل محمد پر اور آپ کے زاویہ و گوشہ پر گوشوں میں اور آپ کے حوض کے ہر پیالہ پر

الْكِيْزَانِ وَنَهْرِهِ فِي الْأَنْهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پیالوں میں اور آپ کی نہر پر نہروں میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُلَامِهِ فِي الْعُلَمَاءِ وَوَلِيدِهِ فِي الْوُلْدَانِ

آپ کی آل محمد پر اور ان کے ہر غلام پر غلاموں میں اور آپ کے ہر جنتی خادم بچے پر جنتی نابالغ بچوں میں

وَحُورِ أَيْدِهِ فِي الْحُورِ وَعَيْنَاتِهِ فِي الْعَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور سفید روشن رنگت والی جنتی عورت پر حوروں میں اور موئی آنکھ والی جنتی عورت پر ایسے عورتوں میں - اے اللہ صلوٰۃ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فَاكِهَتِهِ فِي الْفَوَاكِهِ وَكَأْسِهِ فِي

صلوٰۃ سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کے میوہ پر میوہ جات میں اور پیالہ پر

الْكُؤُوسِ وَأَبْرِيْقِهِ فِي الْأَبَارِيْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پیالوں میں اور لوٹے پر لوٹوں میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خُرْطُومِ إِبْرِيْقِهِ فِي الْخَرَاطِيمِ وَكُوْبِهِ

اور آپ کی آل پر اور آپ کے لوٹے کی ٹونٹی پر ٹونٹیوں میں اور گلاس پر

فِي الْأَكْوَابِ وَفَرَاشِهِ فِي الْفُرُشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گلاسوں میں اور آپ کے بچھونے پر بچھونوں میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَرْبَابِكُمْ فِي الْأَرْبَابِ وَنَزَارُ بَيْتِهِ فِي الزَّرَابِ

اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی آرام کرسی پر آرام کرسیوں میں۔ اور آپ کی مسند ناز پر مسندوں میں

وَنَبْرَقَتِهِ فِي التَّمَارِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور گدیوں پر گدیوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مِعْرَاجِهِ فِي الْمَعَارِجِ وَرُؤْيَتِهِ فِي الزَّائِنِ وَخُلُودِهِ

محمد کی آل پر اور آپ کے معراج پر معراجوں میں اور دیدار پر اہل رؤیت میں اور آپ کے خلود و دوام پر

فِي الْخُلُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اہل خلود میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ رُئِيسِ الْجَنَّةِ وَالشَّافِعِ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو کہ اہل جنت کے سردار ہیں اور شفیع ہیں آتشخانے دوزخ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَاحَ جَمَالُهُ فِي

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کا جمال نمایاں ہوا

الْقِدَامِ وَأَشْرَقَ نُورُهُ إِلَى الْوُجُودِ بِلَا الْعُدَامِ وَتُورِكَ الْأَتَمِّ

قدیم ترین دور میں۔ اور چمکا ان کا نور ابد تک کے لیے موجودات پر اور اپنے نور اتم

وَفَضْلِكَ الْأَعْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور فضل اعم پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقَامَ الْحَقَّ وَأَذَلَّ الطَّاغُوتَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل اطہار پر جس نے حق کو قائم کیا اور طاغوت و شیطان کو ذلیل کیا۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الْأَقْطَابِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب اقطاب کے قطب

وَمَلَاذِ الْأَحْبَابِ الدَّاخِلِ إِلَيْكَ مِنَ الْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تمام احباب کی جائے پناہ ہیں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں تیرے کریم ناز کے دروازے سے۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِأَبِ الْخَيْرَاتِ وَمِفْتَاحِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطهار پر جو خیرات کا دروازہ اور برکات کی چابی

الْبَرَكَاتِ وَشَمْسِ الْمَعَارِفِ الزَّاهِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور معارف کا روشن سورج ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَمْ يَغِبْ عَنْ حَضْرَتِكَ طَرْفَةٌ عَيْنٍ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب نہ غائب ہوئے تیری بارگاہ سے پلک جھپکنے کی دیر

وَلَمْ يَعْرِفْ غَيْرَكَ مِنَ الزَّمَانِ وَالْأَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور نہ جانا تیرے غیر کو زمان و مکان میں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْمُتَوَصِّلِينَ إِلَيْكَ وَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب چشم بینا ہیں تیری ذات تک واصل ہونے والوں کی اور

نُورِ بَهْجَةِ أَسْرَارِ الْعَالَمِ بِكَشْفِ الْأُستَارِ مِنْ وَصْفِكَ اللَّهُمَّ

اسرار عالم کی رونق کا نور ہیں بسبب کھولنے پر دوں اور حجابات کے تیرے وصف و ثناء سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغُفُورِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بہت بخشنے والے

السَّتَّارِ وَمُظْهِرِكَ التَّامِّ وَعَيْنِ جُودِكَ الْعَامِرِ وَتُورِكَ الْأَفْضَلِ

پردہ پوش اور تیرے منظر کامل اور تیرا مجسم جو دعام اور نور افضل ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَائِمِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب دائمی

النُّورِ وَوَاضِحِ الظُّهُورِ وَحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ وَذِي الْبَرَاهِينِ السَّاطِعَةِ

نور والے اور واضح ظہور والے اور مشکوک و شہادت کو قطع کرنے والے مجسم حجت اور غالب برہانوں والے ہیں

اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى أَنْ تَحَقِّقَنَا ذَاتًا

اے اللہ قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام والے محبوب کے طفیل ہمیں ثابت و پائیدار بنا از روئے ذات

وَصِفَاتًا وَأَسْمَاءً وَأَفْعَالًا وَأَثَارًا حَتَّى لَا تَرَى وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَحْسَسُ

وصفات اور اسماء و افعال اور آثار کے تاکہ ہم نہ دیکھیں اور نہ سنیں اور نہ محسوس کریں

وَلَا نَجِدُ إِلَّا إِلَٰهَكَ الْهَيُّ وَسَيِّدِي بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ

اور نہ پائیں مگر تجھی کو۔ اے میرے الہ اور میرے آقا بظہیر اپنے فضل و رحمت کے بنادے

هُوَ يَتَنَا عَيْنٌ هُوَ يَتَنَا فِي أَوَائِلِهِ وَنَهَائِيَّتِهِ وَيُودِّ خُلَّتِيهِ وَصَفَاءِ

ہمارے وجود و تشخص کو عین اپنے محبوب کے وجود و تشخص کا ابتداء و انتہاء میں بظہیر ان کی مودت و خلعت کے اور صفاء

مَحَبَّتِيهِ وَفَوَائِحِ أَنْوَارِ بَصِيرَتِهِ وَجَوَامِعِ أَسْرَارِ سِرِّيَّتِهِ وَ

محبت کے اور ان کی بصیرت کے انوار کا شفق اور سریریت و باطن کے اسرار جامع کے اور

رَحِيمِ رُحَمَائِهِ وَنَعِيمِ نِعَمَائِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ

تمام رحیموں سے رحیم تر اور تمام نعمتوں سے عظیم تر نعمت کے۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تیرے نبی

وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْفِرَةَ وَالرِّضَى وَ

و رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عز و جہاد کے طفیل مغفرت و رضا مندی اور

الْقَبُولَ قَبُولًا تَامًّا لَا تَكُنْ فِيهِ إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةٌ عَيْنٌ يَا نَعْمَ

قبولیت تمام کا نہ سوئپ ہیں اس بارے میں ہمارے نفوس کی طرف پلک بھینکنے کی ڈیر۔ اے بہتر

الْمُجِيبُ فَقَدْ دَخَلَ الدَّخِيلُ يَا مَوْلَانِي بِجَاهِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى

قبول فرمانے والے پس داخل ہو چکا و سادس ہم میں۔ اے میرے مولیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا فَإِنَّ غُفْرَانَ ذُنُوبِ الْخَلْقِ

و سلم کے طفیل ہمارے گناہ بخش کیونکہ تمام مخلوق اول و

بِأَجْمَعِهِمْ أَوْ لِهِمْ وَأَخْرَهُمْ بَرِّهِمْ وَفَاجَرَهُمْ كَفْطَرَةٍ فِي بَحْرِ

آخر۔ نیوں اور فاجروں کے گناہوں کی بخشش مانند ایک قطرہ کے ہے تیرے

جُودِكَ الْوَاسِعِ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ وَلَا غَايَةَ لَهُ فَقَدْ قُلْتَ وَقَوْلِكَ

وسیع جود کے سمندر میں جس کا کوئی ساحل اور کنارہ نہیں ہے۔ تحقیق تو نے فرمایا اور تیرا قول واضح

الْحَقُّ الْبَيِّنُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حق ہے " اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر عالمین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم

وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ

و علی آلہ و صحبہ اجمعین - اے میرے پروردگار میری ہر ہڈی کمزور ہو چکی اور سر مانند

الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا رَبِّ إِنِّي مَسْنِي الصُّرُ

آتش سفید ہو چکا بڑھاپے کی وجہ سے اور نہیں رہا میں تجھ سے طلب مدعا میں ناکام و بے مراد۔ اے میرے پروردگار مجھے سخت تکلیف پہنچ

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ يَا

چکی اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب بیشک میں تیری نازل کی ہوئی خیر کی طرف سے فقیر و محتاج ہوں۔ اے

عَوْنَ الصُّعْفَاءِ يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَا مُنْقِذَ الْغُرَقَىٰ يَا مُنْجِيَ الْهَلَكَىٰ يَا

نا توانوں کی عون سراسر۔ اے عظیم جانے امید و رجاء۔ اے پہلے والے غرق ہونے والوں کے۔ اے نجات دہندہ اہل ہلاکت کے اے

نِعْمَ الْمَوْلَىٰ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ أَمِنِّي مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

بہترین مددگار۔ اے اہل خوف کی امان مجھے امن عطا فرما دینا و آخرت کے شر سے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ فِي

بطفیل اپنی رحمت کے۔ اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں توکل نصیب فرما اپنی ذات پر

جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَرُؤْيَا غَيْرِكَ بَعَيْنِ الْعِجْزِ وَأَتْنَانِي الدُّنْيَا

تمام احوال میں اور دیکھنا تیرے ماسوا کو عجز و ناتوانی کی آنکھ سے۔ اور عطا فرما ہمیں دنیا میں

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اللَّهُمَّ اعْطِنَا

اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی و نیکی اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما

خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَقِنَا شَرَّهُ وَهَكَذَا جَمِيعَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ آمِينَ ۝

اس دن کی خیر اور بچا ہمیں اس کے شر سے اور ایسے ہی تمام راتوں اور دنوں (کے شر سے) آمین۔

اللَّهُمَّ قَوِّنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَأَهْوِيَّتِنَا وَشَيَاطِينِنَا وَاجْعَلْنَا فِي حَزْبِكَ

اے اللہ ہمیں قوت بخش ایسے نفوس اور ان کی خواہشات پر اور اپنے شیاطین پر اور بنا ہمیں اپنی جماعت میں

وَمِنْ حَزْبِكَ وَقَرَّبَ قُلُوبَنَا إِلَيْكَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَارْتُقْنَا لِلِقَاءِ

اور اپنی جماعت سے اور قریب فرما ہمارے دلوں کو اپنی طرف موت سے قبل اور ہمیں نصیب فرما مخصوص ملاقات و دیدار

الْخَاصِّ قَبْلَ اللِّقَاءِ أَمِينَ اللَّهُمَّ أَيْقِظْ قُلُوبَنَا لَكَ وَنَبِّهْنَا عَنِ

موت والی ملاقات سے قبل آمین۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو بیداری بخش اپنی ذات کیلئے اور جگا ہمیں اپنی

الْعَقْلَاتِ عَنْكَ اللَّهُمَّ اهْدِ كُلَّ ضَالٍّ وَتُبْ عَلَيَّ كُلَّ عَاصٍ وَصَبِّرْ

خصوصی توجہ سے عقالتوں کی نیند سے۔ اے اللہ ہدایت دے ہر گمراہ کو اور نظر رحمت فرما ہر عاصی پر اور صبر کی توفیق دے

عَلَى الْبَلَاءِ كُلِّ مُبْتَلًى وَوَفِّقِ الشُّكْرَ كُلَّ مُعَاذٍ أَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا

بلیات پر ہر مبتلا کو۔ اور شکر کی توفیق دے ہر عافیت والے کو آمین۔ اے اللہ بنا ہمیں

الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَضْرِحِينَ بَيْنَ يَدَيْ قُدْرَتِكَ اللَّهُمَّ

اطاعت گزار۔ اہل تسلیم و رضا اور اپنے آپ کو گرانے والے تیری قدرت کے آگے۔ اے اللہ

رَضِيئِي بِقَضَائِكَ وَصَبِّرْ نِي عَلَى بَلَائِكَ وَأَوْزِنْ عَنِّي شُكْرَ

مجھے راضی فرما اپنی قضا پر۔ صبر کی توفیق دے اپنی بلیات پر اور نصیب فرما میرے اپنا

نِعْمَائِكَ نَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ وَدَوَامَ الْعَافِيَةِ وَالشُّبَاتِ عَلَى

شکر نعمت۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کامل نعمت، دائمی عافیت اور محبت پر ثبات

الْمُحِبَّةِ اللَّهُمَّ ارْتُقْنَا حَسَنَ مَعَامَلَتِكَ وَطَيِّبْ لَنَا خِدْمَتَكَ وَ

قدمی کا۔ اے اللہ ہمارے نصیب فرما حسن معاملہ اپنا۔ اور پسندیدہ ٹھہرا ہمارے لیے اپنی خدمت و عبادت

الْوُقُوفَ عَلَى بَابِكَ مَعَ جَمَلَةٍ خَدَمِكَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا وَ

اور اپنے اوپر ٹھہرنا۔ مع اپنے تمام خدام کے۔ اے اللہ ثبات رکھ ہمارے قلوب اور

جَوَارِحَنَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَارْتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

اعضاد کو اس دن میں اور عطا فرما نا ہمیں دنیا میں بھی اچھان اور آخرت میں بھی اور

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ يَا حَائِلًا بَيْنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ وَالْعَذَابِ حُلِّ

بہانا عذاب دوزخ سے۔ اے اللہ اے حجاب پیدا کرنے والے کھاری اور شیریں پانیوں کے درمیان حائل ہونا



بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَخَطِكَ وَبَيْنَ الْمُنَازَعَةِ لَكَ فِي أَقْدَارِكَ وَحُلِّ بَيْنَنَا

درمیان ہمارے اور اپنی ناراضگی کے اور درمیان نزاع کرنے کے تیرے ساتھ تیری تقدیرات میں اور حائل ہونا

وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ بِبِرِّ نَجْمٍ مِّنْ رَّحْمَتِكَ اللَّهُمَّ يَا خَالِقَ الْخَلْقِ وَ

درمیان ہمارے اور درمیان گناہوں کے اپنی رحمت کے بزرگ کے ذریعے۔ اے اللہ اے مخلوق کے خالق،

يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ خَلِّصْنَا مِنْ قَيْدِ الشِّرْكِ بِخَلْقِكَ وَأَسْبَابِكَ

اے مسبب الاسباب ہمیں خلاصی بخش شرک کی قید سے جو تیری مخلوق اور اسباب کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا

اللَّهُمَّ حَقِّقْ لِي هَذَا وَتَبَتُّهُ وَتَبَتُّنِي عَلَيْهِ اجْعَلْهُ مَوْهَبَةً لَا

اے اللہ اسے میرے لیے محقق و ثابت فرما اور مجھے اس پر ثابت رکھ۔ بنا اسے میرے لیے ہمہ نہ کہ

عَارِيَةً إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي حِبَالِ دِينِكَ وَإِرَادَتِكَ أَنِّي

عاریت (مانگی ہوئی شئی) بیشک تو جانتا ہے کہ میں قتل کرتا ہوں (اپنے نفس کو تیرے دین اور ارادہ کے رسول میں تیرے

خَادِمٌ لِلْخَادِمِينَ لَكَ الرَّاهِدِينَ فِيمَا سَوَاكَ طَلِبًا لِمَرْضَاتِكَ

خادموں کا خادم ہوں جو بے نیاز ہیں تیرے ماسوا سے تیری رضامندیوں کی طلب میں۔

وَيُحَكِّكَ يَا غَنِيَّ الدُّنْيَا لَا تَطْنُنْ أَنْ أَشْكُرَ الْغَنَى بِأَنْ تَقُولَ الْحَمْدُ

افسوس ہے تیرے لیے اے دنیا دار برہنگان نہ کرنا کہ میں دنیا دار کا شکر گزار بنوں گا بسبب اس کے کہ ہم کہتے ہیں سب تعریفیں

لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا زَاهِدِينَ فِيمَا سَوَاكَ رَاغِبِينَ

اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ بنا دے ہمیں مستغنی اپنے ماسوا سے اور راغب

فِيكَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَأَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

اپنی ذات میں تمام احوال کے اندر عطا فرما ہمیں دنیا میں اچھائی اور آخرت میں ایمان

وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ اذْرُنَا تَحْقِيقَ عِبُودِيَّتِكَ وَالصَّدْقَ

اور بچا ہمیں عذاب دوزخ سے۔ اے اللہ ہمیں نصیب فرما اپنی حقیقی عبودیت اور صدق و اخلاص

فِي طَلِبِكَ اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي فِيمَا يُرْضِيكَ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الَّذِي

اپنی طلب میں۔ اے اللہ مجھے عمل پیرا فرما اپنے موجب رضا امور میں۔ پاک ہے بے نیاز جو





لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ يَرْزُقُ وَلَا يَرْزُقُ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ الصَّمَدُ

نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے جو رزق دیتا ہے مگر اسے رزق نہیں دیا جاسکتا۔ جو کھلاتا ہے مگر کھلایا نہیں جاسکتا۔ وہ

الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَنَامُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا

بے نیاز کہ اس کا پیٹ ہی نہیں۔ نہیں کھاتا اور نہ پیتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بنا دے

مُطْمَئِنِّينَ رَاضِينَ مُوَافِقِينَ مُسْلِمِينَ مُسْتَسْلِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا

اصحاب اطمینان و رضا اور موافق و سازگار اور اطاعت گزار اور ارباب تسلیم۔ اے اللہ ہم

نَعُوذُ بِكَ مِنْ مُشَاجَرَةٍ مُخَاطَرَةٍ الْغَيْرِيَّةِ مِنْ مُشَاوَرَةٍ مُوَامِرَةٍ

پناہ طلب کرتے ہیں تجھ سے باہمی نزاع سے جو غیریت کی وجہ سے سوجھتا ہے۔ اور اس مشاورت و صلح

الْمُجَاوَرَةِ الْمُسْتَعَانَةِ إِلَى مَصَالِحِ الْمَوَاعِدَةِ الْمُعَاوَدَةِ الْمُرَاجَعَةِ

کاری سے جس سے پناہ و استعانت طلب کی جاتی ہے طرف ان مصالح کے جن کا باہم ہمدردی اور تائید و تقویت کی گئی ہے جن کی طرف رجوع کیا

بِمَحَادَثَةِ الْمَخَافَةِ الْمَصَالِحَةِ الْمُصَاهَرَةِ الْمُسَاطَرَةِ الْمَشَاعَرَةِ

جاتا ہے بسبب پیدا ہونے خوف کے جن پر باہم صلح اور رشتہ و بیوند اور ستر و پردہ داری اور

الْوَصَالَةِ الْإِصَالَةِ اللَّهُمَّ قَرِّبْنَا عَلَى مَجَاهِدَاتِ أَنْفُسِنَا وَأَرْزُقْنَا

وصل و اصالت کا شعور ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ ایسے نفوس کے ساتھ جہاد پر اور ہمیں رزق

وَاهِدِنَا لِلنَّاسِ وَتَوَسَّرْ قُلُوبَنَا وَاجْعَلْنَا نَوْراً يُسْتَضَىٰ بِنَا النَّاسُ

دے اور ہادی بنا لوگوں کے لیے ہمارے قلوب کو متوسر فرما اور ہمیں نورانی بنانا کہ لوگ ہم سے نور و ضیاء حاصل کریں

وَأَسْقِنَا شَرَابَ النَّاسِ حَتَّىٰ نَرْتَوِي بِهِ وَيَرْتَوِي بِنَا كُلُّ ظَمَانٍ

اور ہمیں اپنا شراب انس و مجنت پلا ستنی کہ ہم خود سیراب ہوں اور ہمارے ذریعے ہر پیاسا سیراب ہو سکے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّنْوِيرَ وَالتَّيْسِيرَ وَالمَعُونَةَ وَالتَّقْرِيرَ وَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے نورانیت اور سہولت و اعانت کا اور تقریر و

الْحِفْظَ وَالفَوْزَ وَالرَّعَايَةَ وَالسُّتْرَ وَالتَّكْمِيلَ وَطَيْبَ أَمْرهَا السَّارِي

حفظ کا کامیابی دینے اور نگہبانی فرمانے اور پردہ پوشی و تکمیل اور ان قلوب کے جاری و جاری امر کی پاکیزگی کا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوَّجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد کے توسل سے۔ اے محمد

إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضَىٰ اللَّهُمَّ شَفَعَهُ

میں نے توجہ کی آپ کے توسل سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں تاکہ لوری کی جائے۔ اے اللہ انہیں میرا شفیع بنا۔

فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَيْتَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت دی درپیش بلیات سے اور فضیلت دی مجھے

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْ لِي

بہتیری مخلوق پر کامل فضیلت۔ اے اللہ مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما اور میری کوتاہیاں دور فرما

وَأَرْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي اللَّهُمَّ الْكَفْرِي بِحَلَالِكَ عَنْ

اور رزق دے۔ ہدایت عطا فرما اور عافیت بخش۔ اے اللہ میری کفایت فرما اپنے حلال کے ذریعے

حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ اقْضِ لِي فِي

اپنے حرام سے اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ غنی فرما اپنے ماسوا سے۔ اے اللہ میرے دل میں

قَلْبِي رَاجًا نَكَ وَأَقْطَعْ رَاجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ الْكَفْرِي

اپنی امید ورجاء ڈال دے اور میری امیدیں غیر سے منقطع فرما دے۔ اے اللہ میری کفایت فرما

مِنْ كُلِّ مِهْمَةٍ مِنْ حَيْثُ شِدَّتْ وَمِنْ أَيْنَ شِدَّتْ لِديني

ہر غم و اندوہ میں ڈالنے والے امر سے جہاں سے اور جس طرح پر جا ہے میرے دین کے لیے

وَلِمَا أَهَمَّتْنِي وَلِمَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ وَلِمَنْ حَسَدَنِي وَلِمَنْ

اور مجھے غم و اندوہ میں ڈالنے والے امور کے لیے اور مجھ پر بغاوت اور حسد کرنے والوں اور میرے ساتھ

كَادَنِي بِسُوءٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَعِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعِنْدَ

براہم کرنے والے کے لیے بوقت موت، قبر میں سوال کے وقت، میزان اعمال کے

الْمِيزَانِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ وَعِنْدَ الْحِسَابِ وَعِنْدَ الْآخِرَةِ

پاس اور پل صراط کے پاس حساب کے وقت اور آخرت میں۔

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِنْدِي نِعْمَةً أَكْفِيهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا

اے اللہ نہ بنا کسی فاجر کے لیے میرے ہاں نعمت کہ مجھے بدلہ دینا پڑے اس کا دنیا

وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَكَأَنَّكَ رَأَيْتِي مِنَ النَّارِ

و آخرت میں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اپنی گردن کی خلاص کا آتش دوزخ سے

وَمِنَ الْقَسْوَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمُسْكَنَةِ وَالْكَفْرِ

سنگدلی - محتاجی اور ذلت و سکت اور کفر

وَالْفُسُوقِ وَالْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ وَالشَّقَاقِ وَالسُّمُوعَةِ وَ

و فسق اور کبائر و صغائر اور بدبختی، شرت اور

الرِّيَاءِ وَمِنَ الصُّمِّ وَالْبُكْمِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

ریا کاری سے اور بہرہ پن۔ گونگاپن اور قرض کے دباؤ اور گرانباری سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا

بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ العَدُوِّ وَشِمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

ہوں قرض اور دشمن کے غلبہ سے اور دشمنوں کی شادمانی سے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطِيئَتِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ

اے اللہ میری خطا معاف فرما اور امور میں حد سے تجاوز اور ہر امر جسے تو مجھ سے بہتر

بِهِ مِنِّي فَاغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي

جانتا ہے پس بخش میرے سنجیدگی اور مزاح کو اور خطا و عمد کو

وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا

اور ان میں سے ہر امر میرے اندر موجود ہے۔ اے اللہ مجھے بخش جو میں نے پہلے کیا اور جو

أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

بعد میں کرنا ہے اور جو چھپایا اور جو ظاہر کیا اور جسے تو مجھ سے بہتر

مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي

جانتا ہے تو ہی ہے مقدم کرنے والا اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے۔ اے اللہ میرے لیے اصلاح فرما

دِينِي الَّذِي هُوَ عَصْمَةٌ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي

میرے دین کی جو میرے امور کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور درست فرما میرے لیے میری دنیا جس میں

فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي وَ

میری گزران ہے اور درست فرما میرے لیے میری آخرت جس کی طرف میری بازگشت ہے اور

اجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ

بنائندگی کو میری خیر و بھلائی میں اضافہ کا موجب۔ اور بنا میرے لیے موت کو

رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي

ہر شر سے راحت کا موجب۔ اے اللہ مجھے نفع دے ساتھ اس علم کے جو عطا کیا

وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَبَرِّدْ نِي عِلْمًا هِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

اور سکھلا مجھے جو نفع دے اور میرے علم میں ترقی دے۔ حمد ہے اللہ کے لیے

عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ

ہر حال میں اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اہل نار کے حال سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ

اور میں پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شئی کے شر سے جس سے پناہ طلب کی تیرے عبد خاص اور نیرے نبی نے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے جنت کا اور جو قریب کرے اس کی طرف

قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ

قول و فعل سے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ ہر قضاء جس کا فیصلہ میرے لیے کیا ہے

لِي خَيْرًا وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَ

اسے سراسر خیر بنائے۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا دین و دنیا اور

أَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْرِعْ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي

اہل و مال میں۔ اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال۔ اور خوفناک امور سے امن عطا فرما



وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ

اور مجھے محفوظ فرما آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں و

شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ

بائیں سے اور اوپر اور نیچے اسے۔ اور میں تیری عظمت کے طفیل پناہ طلب کرتا ہوں

تَحْتِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نُرْوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ

نیچے سے ہلاک کئے جانے سے۔ اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے اور عافیت کے

وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي

بدل جانے سے اور اچانک انتقام کا نشانہ بننے سے اور ہر قسم کی ناراضگی سے۔ اے اللہ مجھے حلال و پاکیزہ

رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا عَلَى الدَّوَامِ وَاصِلًا مِنْكَ إِلَى

رزق عطا فرما ہمیشہ کے لیے جو پہنچنے والا ہو تجھ سے تیرے اس

عَبْدِكَ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ عَابِرًا مِنْ

عبد تک مخصوص اور عام طریقہ پر در آنا لیکہ خالی ہو

الْكَلْفِ وَالْمَحَنِ خَالِيًا عَنْ بَوَاقِيقِ الدَّهْرِ وَ

تکلیف و محنت سے اور دور ہو زمانے کی ہلاکتوں اور

شِدَائِدِ الْفِتَنِ نَافِعًا فِي الدِّينِ وَالْبَدَنِ يَا مَنْ

فتنوں کی شدتوں سے نافع ہو دین میں اور بدن میں بھی اے کہ جس کا

فَضْلُهُ عَظِيمٌ وَلُطْفُهُ عَمِيمٌ وَإِحْسَانُهُ قَدِيمٌ

فضل عظیم ہے اور لطف عام ہے اور اس کا احسان قدیم ہے

وَنَفْسُهُ كَرِيمٌ وَرَسُولُهُ رَحِيمٌ وَهُوَ قَادِرٌ

اور اس کی ذات کریم ہے اور اس کا رسول رحیم ہے اور وہ قادر و

عَلِيمٌ وَرَبُّ حَلِيمٌ أَسْأَلُكَ فَتَحَ بَابِ الْمُنَاجَاتِ

علیم اور رب حلیم ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مناجات

فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ بِالْجَهْرِ وَالْخَفِيَّاتِ

و دُعا کا دروازہ کھولنے کا تمام عبادات و طاعات میں علانیہ میں اور اہم خفیہ

الْخَفِيَّاتِ اللَّهُ حَاضِرِي اللَّهُ نَاطِرِي اللَّهُ قَادِرِي اللَّهُ

امور میں۔ اللہ میرے پاس حاضر ہے۔ اللہ میرا ناظر ہے اللہ مجھ پر قادر ہے اللہ

مَعِيَ اللَّهُ صَلِّ عَلَيَّ وَحَيْدُ صَلَاةٍ

میرے ساتھ ہے۔ لے اللہ صلواتِ کاملہ نازل فرما اپنے یکتا رسول پر جس صلوات کے طفیل

تُوْحِدُنَا بِهَا وَتُحَيِّدُنَا بِهَا بِتَوْحِيدٍ

ہیں یکتا بنا دے اور الگ تھک کر دے بظنیل ان کی یکتا

وَحَيْدٍ وَحَدَايَتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ

وحدانیت کی توحید اور وحدانیت

وَوَحْدَةِ أَحَدِيَّتِهِ وَوَحْدِيَّةِ

اور وحدت و احدیت کے اور وحدیت

وَّوَأَحَدِيَّةِ وَاللَّهُمَّ إِلَهًا

و واحدیت کے اور الہ تمہارا الہ

وَإِحْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

واحد ہے نہیں معبود برحق مگر وہی

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

رحمن و رحیم۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ

فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ

يُولَدُ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

جنا گیا اور نہیں اس کا کوئی مثیل و مشابہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَكْبَرُ  
که دین مانعت از قرآن افضل

ایز و نشان تحفه عجایب و هدیه غرائب الی اللہ  
مقبول بارگاہ شاکستین حضرت محمد ﷺ  
مُسَمَّیْ بِهٖ

# صَّحْبَةُ الرَّسُولِ

الجزء الحادی والعشرون ۲۱

فِي عِلْمِهِ وَعِلْمِ غَيْبِهِ ﷺ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

حضرت خواجہ نواز محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِعِلْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِلْمِ بِسْمِ

اے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِفِہُومِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرحیم کے علوم کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فہم اور دانشوں کے طفیل

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِكِ یَوْمِ

تمام حمد و ثنا اللہ کے ساتھ محض ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان، رحم فرمانے والا جزا کے دن

الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

مالک ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں چلا راہ

المُسْتَقِیْمِ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ

راست پر۔ ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ان کی جن پر غضب کیا گیا

عَلِیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ

اور نہ ہی گمراہوں کی۔ پاک ہے تو نہیں ہے کچھ بھی علم ہمیں مگر جس کی تو نے تعلیم دی۔ بیشک تو

اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ اللّٰهُمَّ عَلِّمْنِیْ عِلْمًا کَامِلًا نَافِعًا جَارِیًا

ہی دائمی علم و حکمت والا ہے۔ اے اللہ مجھے تعلیم دے علم کامل و نافع کی جو جاری ہو تیرے

مَنْ عَلِمَكَ الدِّیْنِ وَالْاٰلِہَا مِیْ ظَاہِرًا وَّبَاطِنًا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

علم لدنی و العالی سے از روئے ظاہر و باطن کے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَقْلِ الْاَوَّلِ الْاَكْمَلِ وَالْعِلْمِ بِالْاَعْمَالِ

سیدنا محمد پر جو مالک ہیں عقل اول و اکمل اور اعمال کے

الْاَفْضَلِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِیْنَةِ الْعِلْمِ وَمَرْکَزِ الْجِلْمِ

افضل علم کے اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو شہر علم اور مرکز حلم و بردباری



وَالْحَكِيمَ وَرَسُولَ الْكَرِيمِ وَشَفِيعَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور حکمتوں کے مرکز، مجسم کرم رسول اور خاص و عام کے شفیع ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِصِفَةِ مَوْتِ مَنْ يَمُوتُ مِنْ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کیفیت موت کی اپنے صحابہ کرام میں سے فوت

أَصْحَابِهِ وَمَنْ مَاتَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَعَى

ہونے والوں کی اور جو فوت ہو چکے تھے۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

النَّجَاشِيِّ يَوْمَ وَفَاتِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

نجاشی کی خبر وفات دی جس دن وہ فوت ہوئے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حضرت

عَمَّارًا بِأَنْ تَقْتُلَهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ فَمَاتَ فِي حَرْبٍ عَلَى وَ

عمار کو خبر دی کہ انہیں باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کی وفات ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور

مُعَاوِيَةَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمَّارًا قَبْلَ

حضرت معاویہ کی جنگ صفین میں اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی حضرت عمار کو

حُلُولِ الْفَتَنِ أَنْ أُخْرِزَ زَادَةٌ مِنَ الدُّنْيَا شَرْبَةً مِّنَ الْبِنِّ وَصَلَّ

فتنوں کے درپیش ہونے سے قبل کہ ان کا دنیا سے آخری زاد اور طعام دودھ کا ایک کھونٹ ہوگا۔ اور رحمت کاملہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ حَرَامَ بِمَوْتِهَا عَلَى الشَّهَادَةِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی ام حرام کو موت شہادت کی

فَكَانَ مَا أَخْبَرَهَا بِهِ وَأَشَارَهَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

تو جس طرح آپ نے خبر دی اور اشارہ فرمایا اسی طرح ہوا۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ الرَّبِيعُ وَهُوَ مُصَاهِرَةٌ أُمَّةٌ يُقَاتِلُ عَلَيْهَا وَيُحَاصِرُهَا وَصَلَّ

خبر دی حضرت ربیعہ کو جو کہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرب و قتال کریں گے اور صلوٰۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ عَائِشَةَ تَنْفِرُ إِلَى قِتَالِ عَلِيٍّ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کفر کریں گی حضرت علی کے مقام جنگ کی طرف

وَتَسِيرُ وَيَسُوتُ حَوْلَهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ الَّذِي

اور روانہ ہوں گی اور ان کے گرد مے کی بہت سی مخلوق۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ بَعْضَ صَحَابَتِهِ بِعَلَامَةِ أُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ وَشَفَاعَتِهِ وَصَلَّ

خبر دی اپنے بعض صحابہ کرام کو اویس قرنی کی علامت مخصوصہ اور شفاعت کے متعلق اور رحمت کاملہ نازل فرما

عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ الَّذِي أَخْبَرَ السَّيِّدِينَ أَنَّ أَشْهَلَ الْعَيْنِينَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کہ کہ اویس سرنجی مائل سیاہ آنکھوں والا

بَعِيدًا مَا بَيْنَ الْمُنْكَبَيْنِ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ الَّذِي أَخْبَرَ

اور چوڑے کندھوں والا ہے اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ مَعْتَدِلَ الْقَامَةِ شَدِيدُ الْأُدْمَةِ ذُرَافَةٌ وَرَحْمَةٌ يَشْفَعُ

کہ وہ میانہ قد بہت گندم گوں، رحمت و رأفت والا ہے۔ شفاعت کرے گا۔

فِي كَثِيرٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ الَّذِي أَخْبَرَ

اس اُمت کے بہت سے لوگوں کے حق میں اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا

فِي صَرِيحٍ خَبَرَهُ أَنَّ ضَارِبَ يَدَا قَتَبِهِ إِلَى صَدْرِهِ وَصَلَّ عَلَيَّ

صریح خبر میں کہ اویس کی ٹھوڑی سینے کے ساتھ لگی ہو گی اور رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ الَّذِي أَخْبَرَ فِي صَحِيحِهِ أَقْوَالَهُ أَنَّ رَامَ بَصْرَةَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی اپنے صحیح اقوال میں کہ وہ اپنی نظر کو

إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَصَلَّ عَلَيَّ

سجدہ گاہ میں مرکوز رکھنے والے اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے والے ہیں۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ الَّذِي أَخْبَرَ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَهْرًا أَنَّهُ يُقْتَلُ صَبْرًا

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابن زبیر کو علانیہ طور پر کہ وہ قتل کیے جائیں گے جس و محاصرہ کی حالت میں۔

وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ وَالتَّيْنِ وَ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ جس نے قرأت کی سورہ والتین ر

الزَيْتُونِ جَلَبَتْ لَهُ رِزْقًا وَيُسْرًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

الزیتون کی تو پھینچ لائے گی اس کے لیے رزق اور سہولت اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَرَفَهُ بِالَّذِي أَخَذَ لَهُ الطَّعَامُ مِنَ الْعُرْفَةِ وَصَلَّ

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اور انہیں پہچان کر اسی کی جس کے لیے کھانا لیا گیا تھا بالا خانہ سے اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ بِمَا أَسْرَأَ ابْنُ أَبِي

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو جو خفیہ منصوب بنا یا ابن ابی منافق نے

لِأَصْحَابِهِ بِتَبُوكَ وَهُوَ سَائِرٌ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

آپ کے صحابہ کے لیے تبوک میں جبکہ آپ جا رہے تھے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ فِي حَيَاتِهِ بِنَبَاحِ كَلَابِ جَوْءِ بٍ عَلَى بَعْضِ

خبر دی اپنے صحابہ کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں موب میں کتوں کے بھونکنے کی بعض انواع

زَوْجَانِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ قُرَيْشًا وَالْأَحْزَابَ

نبی پر اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ قریش اور ان کے لشکر

لَا يَعُودُونَ لَهُ بِغَزْوٍ وَلَا حِرَابٍ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کبھی آج کے بعد ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ فِي خَبْرَةِ الْكَرِيمِ أَنَّ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ

خبر دی اپنی حدیث کریم میں کہ عرش کے پایوں میں سے دو پایوں کے درمیان

خَفَقَانُ الطَّائِرِ الْمُسْرِعِ أَلْفَ عَامٍ بِلَا امْتِرَاءٍ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

تیز پرواز پرندے کی ہزار سال کی پرواز ہے بلا شہ - اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ لِعَمْرٍ فِي وَصِيَّتِهِ الْآثِيرَةَ أَنَّ قَاتِلَهُ غُلَامٌ

پر جنہوں نے بتلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی روشن وصیت میں کہ ان کو شہید کرنے والا

لِلْمَغِيرَةِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ الْمُقْدَادُ بْنُ أَسْوَدَ

مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہو گا اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے مقداد بن اسود کو خبر دی

بِالَّذِي أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ شَرَابِهِ الَّذِي خَبَأَ عِنْدَهُ وَتَزَوَّدَ

اس کی جس نے ارادہ کیا تھا ان کے پانی سے پینے کا جو آپ نے محفوظ رکھا ہوا تھا اور زادراہ بنایا ہوا تھا

وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ جَهْرًا أَنَّهُ يَمُوتُ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی ابو ہریرہ کو علانیہ کہ وہ فوت ہوں گے

بِأَرْضِ قَفْرٍ وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا ذَرٍّ بَعْدَ الصَّلَاةِ

ویران علاقہ میں اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حضرت ابو ذر کو خبر دی نماز کے بعد

أَنَّهُ يَمُوتُ بِأَرْضِ فَلَاحٍ وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

کہ وہ وفات پائیں گے بے آب و گیاہ زمین میں اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے سچی خبر دی

أَبَا أَيُّوبَ بِأَرْضِ الرُّومِ حَقًّا فَكَانَ يُدْعَى بِقَبْرِهِ هُنَاكَ وَ

حضرت ابو ایوب کو روم کے علاقہ میں شہید ہونے کی تو وہاں پر آپ کی قبر کے پاس دعا مانگی جاتی ہے اور

يُسْتَسْقَى وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فَاطِمَةَ بِصَرِيحٍ

بارش طلب کی جاتی ہے۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو صریح

قَوْلِهِ بِحُضُورِهِ أَجْلِهِ وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فَاطِمَةَ

انداز میں قرب وصال کی خبر دی اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ کو خبر دی

بِأَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ أَهْلِ بَيْتِهِ بِهِ لِحُوقِ فَكَانَ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ

کہ وہ اہل بیت رسول میں سے پہلی ہوں گی آپ کے ساتھ لاحق ہونے میں تو جیسے خبر دی ویسے ہی ہوا

تَحْقِيقًا وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِمَوْتِ أَهْلِ

واقع میں اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی اپنے صحابہ کرام کو

بِئْرِ مَعُونَةَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ أَنْ يُدْرِكُونَهُ وَصَلَّى عَلَيَّ سَيِّدِنَا

بئر معونہ والے حضرات کی شہادت کی قبل اس کے کہ وہ جانیں اپنے شہادت پانے کو اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ أَهْلِ بَيْرِ مَعُونَةَ وَأَعْتَجَبَ أَنَّهُمْ حُمِلُوا إِلَى الْجَنَّةِ

محمد پر جنہوں نے خبر دی بئر معونہ کے شہداء کی اور تعجب فرمایا اس پر کہ انہیں اٹھا یا گیا جنت کی طرف

عَلَى اسْرَةِ الذَّهَبِ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَوْتِ ابْنِ

سوسنے کے تختوں پر اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے عبد اللہ بن

رَوَاحَةَ الشَّهِيدِ وَبِأَخْذِ رَأْيَيْهِ خَالِدُ بْنُ وَلِيدٍ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا

رواحہ رضی اللہ عنہ کی خبر شہادت دی اور پرچم کو خالد بن ولید کے ہاتھ میں لینے کی اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّ خَالِدًا أَخَذَ الرَّأْيَةَ مِنْ

محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہے کہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے

غَيْرَ أَمْرِهِ فَفَتَحَ عَلَيْهِ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

بغیر آپ کے انہیں امیر بنانے کے پس اللہ نے ان کو فتح دی ہے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ

جَعْفَرًا يُطِيرُ فِي السَّمَاءِ بِجَنَاحَيْنِ مُضْرَجَيْنِ بِالِدَّمَاءِ وَصَلَ

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آسمان میں چھ پرواز میں دو نعلوں آلود پرووں کے ساتھ۔ اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَا أَخْفَى الْكُفَّارُ مِنَ الْكَلَامِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کفار کی خفیہ گفتگو کے متعلق جو سچی آپ کے (علاموں پر)

فِي فَتْحِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلشَّامِ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

شام کے فتح ہو جانے کے (شردہ سے) متعلق۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ بِمَقَالَةِ ابْنِ سُلُوفٍ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ وَ

خبر دی ابن سلوف کے قول کی قبل اس کے سننے کے اس سے۔ اور

صَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ الْمَكْرَمِينَ أَنَّ قَرْمَانَ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی اپنے اصحاب کرام کو کہ قزمان

يَقْتُلُ نَفْسَهُ بِالسَّكِينِ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

اپنے آپ کو قتل کرے گا سحجر کے ساتھ۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ

أَنَّ أَبَا مَطْعُونٍ فِي عِدَدِ الْأَمْوَاتِ فَمَا بَلَغَ مَنْزِلَهُ حَتَّى مَاتَ

ابو مطعون اموات کی گنتی و شمار میں ہے تو وہ اپنے گھر پر نہیں پہنچے تھے کہ فوت ہو گئے

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَسْرَتِهِ إِدَا شَعَثَ ابْنُ

اور صلوة کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی اشعث بن قیس کے مرتد ہو

قَيْسٍ وَمَا أَلْقَى إِلَيْهِ اللَّعِينُ الْإِبْلِيسُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

جانے کی اور جو سو سے ابلیس لعین نے ڈالا تھا۔ اور صلوة کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَمْرَةَ يُحْرَقُ بِالنَّارِ فَمَاتَ فِيهَا مِنْ

محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ حضرت سمرہ آگ میں جل کر مرے گی تو وہ مرے اسی میں

غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا اخْتِيَارٍ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بغیر اپنے قصد و ارادہ کے۔ اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ يُحْشَرُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

خبر دی کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن

فَاسْتَشْهَدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

تو وہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ

ضَرْسٌ بَعْضُ جُلَسَائِهِ فِي النَّارِ كَجَبَلٍ أَحَدٌ فَكَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَارْتَدَّ

کہ آپ کے بعض ہم نشینوں کی ڈاڑھ آتش دوزخ میں جبل احد کی مانند ہوگی تو وہ اس کے بعد کافر و مرتد ہو گیا

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الرِّيحَ هَاجَتْ لِمَوْتِ

اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ یہ آندھی منافق کے مرجانے پر چلی

مُنَافِقٍ فَصَدَقَ خَيْرُهُ الصَّادِقُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ہے تو آپ کی یہ خبر صادق سچی نکلی۔ اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی

أَخْبَرَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ فِي الدَّارِ أَنَّ قَاتِلَهُ يَدْجُ فِي النَّارِ وَصَلَّى عَلَى

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جبکہ وہ گھر میں موجود تھے کہ ان کا قاتل نار جہنم میں داخل ہوگا۔ اور صلوة نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ حُدَيْفَةَ ابْنَ يَمَانَ بِمَا يَكُونُ فِي آخِرِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلادیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو جو کچھ بعد والے زمانہ میں ہونے والا تھا

الزَّمانَ فَكانَ وَصَلَ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ أَخْبَرَ عَنِ الْحَسَنِ

ترودہ اسی طرح ہوا۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق

بِالتَّعْیِیْنِ أَنَّ اللّٰهَ یُصَلِّحُ بِهِ بَیْنَ فِئْتَيْنِ عَظِیْمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

خصوصی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ صلح کراوے گا ان کی بدولت اہل اسلام کے دو عظیم گروہوں میں

وَصَلَ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ أَخْبَرَ بِقُدُومِ الْعِیْرِ قَبْلَ مُجِئِهِ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دے دی قافلہ قریش کی آمد کی خوشخبری سنانے والے کی

الْبَشِیْرِ وَصَلَ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ أَخْبَرَ یَوْمَ بَدْرٍ بِمَصَارِعِ

آمد سے پہلے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی بدر کے میدان میں کفار کی

الْكُفَّارِ فَكانَتْ حُفْرَ الْقَرَارِ لَهْمَ فِي النَّارِ وَصَلَ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قتل گاہوں کی تو وہ مقامات ہو گئے ان کے لیے دوزخ میں استقرار پانے والے گڑھے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِیْ أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ الْكُبْرَى بِفَتْحِ أَمْرِ الْقُرَى وَصَلَ عَلَی سَیِّدِنَا

جنہوں نے خبر دی اپنے بزرگ صحابہ کو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِیْ أَخْبَرَ حَذِیْمَ بْنَ یَعْلَانَ بِمَا أَخْبَرَتْهُ عَنْهُ الْجَنُّ لَیلاً

محمد پر جنہوں نے خبر دی حذیم بن یعلانی کو جو کچھ بتلایا تھا اسے جن نے آپ کے متعلق رات کو۔

وَصَلَ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ أَخْبَرَ رَافِعَ بْنَ عَمِیرٍ بِمَا

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی رافع بن عمیر کو جو

رَأَى فِي مَنَامِهِ فَكانَ سَبَبَ إِسْلامِهِ وَصَلَ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دیکھا انہوں نے خواب میں اور ان کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِیْ أَخْبَرَ یَاسِمَ وَهَیْبَ بْنَ السَّمَاعِ وَقَدُومِهِ عَلَیْهِ قَبْلَ

جنہوں نے خبر دے دی وہیب بن سماع کے نام کی اور اس کی آمد کی اس کے

وَصُولِهِ إِلَیْهِ وَصَلَ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ أَخْبَرَ بِالَّذِیْ

پہنچنے سے قبل۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی اس کافر کے متعلق جس نے

خَبَأَ نَفْسَهُ مِنَ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَرَاهُ حِينَ يُخْطَبُ وَيَسْمَعَهُ

اپنے آپ کو جمع کے دن پوشیدہ رکھا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے وقت دیکھے اور سنے

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَعْضَ حُقَاتِ الْبُؤَادِي أَنَّ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر کہ جنہوں نے خبر دی بعض باویر نشین برہنہ پا کو کہ

نَاقَتَهُ ذَاهِبَةٌ بِبَطْنِ الْوَادِي وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

اس کی اونٹنی فلاں وادی کے درمیان میں جا رہی ہے۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے اطلاع دیدی

بِكِتَابِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَيَسْمَعَهُ وَصَلَّى

حاطب بن ابی بلتعہ کے خط کی قبل اس کے کہ اسے دیکھیں اور سنیں اور صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِإِشَارَةِ أَبِي لُبَابَةَ حِينَ حَدَّثَ

سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے خبر دی ابولبابہ کے اشارہ سے متفق جبکہ انہوں نے ڈرایا تھا

أَصْحَابَهُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ

اپنے ساتھیوں کو۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے خبر دی اپنے منکر کار

الْأَبْرَارِ بِمَا بَيَّنَّتْهُ الْكُفَّارُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَيْمَانَ

اصحاب کو اس کی جو مشورہ کیارات میں کفار نے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے خبر دی

الْمُنَافِقِينَ قَبْلَ الْحَلْفِ وَالْيَمِينِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

منافقین کی قسموں کی ان کی یمن اور حلف سے پہلے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَيِّدُمُ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ

محمدؐ پر جنہوں نے خبر دی کہ عنقریب ان کے پاس آئے گا وہ مرد کہ جو شیطان کی زبان سے

شَيْطَانٍ فَظَهَرَ مِنْ حِينِهِ وَاسْتَبَانَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بوتہ ہے تو وہ اسی وقت ظاہر ہوا اور نمودار ہو گیا اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر

الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ لَهُ وَعَلَى

جنہوں نے خبر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے کہ اللہ انہیں اور ان کے ہاتھوں پر



يَدَايِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى سِرِّيرَ أَصْحَابِهِ مِنْ مَسِيرَةِ

فتح دسے گا اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے دیکھ لی اصمہ نجاشی کی میت کی چارپائی

شَهْرَيْنِ بِحَدِّ قَاتِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمَّارًا

دو ماہ کی مسافت سے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے صبر دی عمار کو

بِأَن تَقْتُلَهُ الْفِئَةُ الْبَاعِغِيَّةُ فَمَاتَ فِي حَرْبٍ عَلِيٍّ وَمَعَاوِيَةَ

کہ انہیں باغی جماعت قتل کرے گی تو وہ شہید ہوئے حضرت علیؑ و حضرت معاویہؓ کی جنگ صفین میں

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَوْتِ أَبِي أَيُّوبَ بَارِضِ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے سچی خبر دی ابویوب انصاری کے ارضی روم میں

الرُّومِ حَقًّا فَكَانَ يُدْعَى بِقَبْرِهِ هُنَاكَ وَيَسْتَسْقَى وَصَلَّ عَلَى

وفات پانے کی تو وہاں ہی ان کی فرار بردعا مانگی جاتی تھی اور بارش طلب کی جاتی تھی۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَوْلًا وَآخِرًا بِمَوْتِ مَنْ يَمُوتُ مِنْ

سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے تہلہ دیا اول سے آخر تک ان کی موت کے متعلق جو مرے گا

الْمُسْلِمِينَ كَافِرًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَانَهُ كُلَّمَا

اہل اسلام میں سے کافر ہو کر۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے خبر دی کہ انہوں نے جب بھی

سَأَلَ رَبَّهُ أَعْطَاهُ وَبَلَغَهُ فِي ذَلِكَ سُؤْلَهُ وَرِضَاهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنے رب سے سوال کیا تو اس نے عطا فرمایا اور انہیں پہنچا اپنے مطلوب و محبوب امر تک اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَانَهُ كُلَّمَا سَأَلَ رَبَّهُ بِمَا سَأَلَ الْمُحِبُّ عَنِ حُبِّهِ بَلَغَهُ

محمدؐ پر جنہوں نے تہلہ باکہ انہوں نے جب بھی اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیا جو طلب کرتا ہے محب اپنے محبوب تو اللہ نے پہنچایا

اللَّهُ فِي ذَلِكَ غَايَةَ مَطْلُوبِهِ وَمَحْبُوبِهِ وَأَخْبَرَ قَرِيشًا بِالَّذِي

انہیں اس معاملہ میں غایت مطلوب و مقصود تک۔ اور خبر دی قریش کو اس شخص کی کہ

شَرَدَلَهُ مِنْ عَيْرِهِمُ الْبَعِيرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بھاگ گیا اس کا اونٹ قافلہ سے (شب معراج)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ قُرَيْشًا أَنَّ الْقَافِلَةَ يَقْدُمُ مَهُمُ

و آل محمد پر جنہوں نے خبر دی قریش کو کہ قافلہ آئے گا اس حال میں کہ سب سے پہلے

بِيعِيرٍ أبيضٍ وَفُلَانٍ عَلَيْهِ رَاكِبٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سفید اونٹ ہوگا اور فلاں شخص اس پر سوار ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِرُؤْيَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے بتلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کا خواب

وَ أَخْبَرَ أَبِي بَكْرٍ بِمَا أَوَّلَ الرَّاهِبِ رُؤْيَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور بتلایا انہیں جو تعبیر کی تھی ان کے خواب کی راہب نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبِي بَكْرٍ بِمَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی ابو بکر صدیق کو جو انہیں

قَالَ لَهُ الْكَاهِنُ إِنَّ رُؤْيَاكَ أَضْغَاثُ أَحْلَامِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہا تھا کہ اس نے کہ تیرا خواب بے حقیقت ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

التَّقْفِيَّ وَالْأَنْصَارِيَّ بِالْمَرَامِ وَأَخْبَرَ بِالْحَوَادِثِ الَّتِي لَحِقَتْ

تقفی اور انصاری کو ان کے مقصد کی اور خبر دی ان حادثات کی جو لاحق ہوں گے

بِأَهْلِ بَيْتِهِ الْعِظَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

آپ کے اہل بیت عظام کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ هَلَاكَ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيَّ

آل محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں کے

عِلْمَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ شِدَّتْ أَسْبَابَ بَنِي فُلَانٍ

ہاتھوں پر ہوگی اور فرمایا ابو ہریرہ نے اگر میں چاہوں تو ان کا نام لے کر بتلا دوں کہ وہ فلاں

وَبَنِي فَلَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

فلاں کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَنْ يُفْتَحَ لِحَيْشٍ يَكُونُ فِيهِمْ وَاحِدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ

پر جنہوں نے خبر دی کہ فتح دی جائے گی ہر اس لشکر اسلام کو جس میں ایک صحابی بھی ہو گا

وَأَخْبَرَ صَفِيَّةَ بِمَا رَأَتْ فِي السَّنَامِ أَنَّ فِي حُجْرِهَا الْقَمَرَ اللَّهُمَّ

اور خبر دی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو جو اس نے خواب میں دیکھا کہ ان کی گود میں چاند ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ يُرْمَى بِسَجِينِي وَأَخْبَرَ هَوْلَاءَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ طَرَحُوا

بیت اللہ الحرام پر پتھر پھینکے جائیں گے منجیق کے ساتھ اور یہود خیمبر کو بتلایا کہ انہوں نے

فِي الشَّاتَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

س جنتی ہوئی بجزی میں زہر ملائی ہوئی ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَا رَأَى مُعَاوِيَةَ بْنَ سَفْيَانَ وَأَخْبَرَ الْيَهُودَ

پر جنہوں نے خبر دی حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے امیر المسلمین بننے کی اور خبر دی ان یہودیوں کو

الَّتِي طَرَحُوا السَّمَّ فِي الشَّاتَةِ أَنَّ أَبَاكُمْ فَلَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جنہوں نے بجزی کو زہر آلود کیا تھا کہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْمَقْتُولَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ مقتول

فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْقَاتِلِ يَعْنِي عِكْرَمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جنت میں ہو گا اپنے قاتل کے ساتھ یعنی حضرت عکرمہ بن ابی جہل۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَلْمَةَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

حِينَ أَهْدَى لِلتَّجَاشِي أَوَاقِي مِنَ الْمَسِكِ أَنْ التَّجَاشِي يَمُوتُ وَ

کو جب بطور ہدیہ نجاشی کی طرف کستوری کے کئی اوقیے بھیجے کہ نجاشی فوت ہو جائے گا اور

تُرَدُّ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

یہ ہدیہ واپس کر دیا جائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ قَتْلِ نَزِيدٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ وَجَعْفَرَ

کی آل پر جنہوں نے خیر دیدی حضرت زید۔ حضرت ابن رواحہ اور حضرت جعفر کے شہید ہو جانے

وَإَخْبَرَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي قَتَلُوا فِيهَا قَبْلَ إِتْيَانِ الْخَبَرِ اللَّهُمَّ

کی اور خبر دی اس گھڑی کی جس میں شہید کئے گئے ان کی خبر آنے سے قبل۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

حُذَيْفَةَ بِمَا أَسْرَفِي نَفْسَهُ مِنْ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ أَمْرِي أَيْةَ اللَّهُمَّ

حضرت حذیفہ کو اس قول کی جو انہوں نے چھپا رکھا تھا کہ اے اللہ مجھے آیت و نشانی دکھلا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

تَيْمِيمَ الدَّارِيِّ بِقِصَّتِهِ وَأَخْبَرَ أَبَا قَتَادَةَ بِأَنْ تَكُونَ مُعْجَزَةً فِي بَيْضَائِهِ

تیمیم داری کو انہیں بیڑا آنے والے واقعہ کی اور خبر دی حضرت ابوقتادہ کو کہ ان کے پاس موجود آپ کے وضو کے برتن کی وجہ معجزہ ظاہر ہوگا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

أَخْبَرَ عَمِيرًا بِقَتْلِهِ عَصْمَاءَ بِنْتِ مَرْوَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

حضرت عمیر کو ان کے عصماء بنت مروان گستاخ نبی کے قتل کرنے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مُنَافِقًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ ایک منافق نے

قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا أَيْزَعُكُمْ أَنَّهُ نَبِيُّ يُخْبِرُ عَنِ السَّمَاءِ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ

کہا ہے کہ محمد کا دعویٰ نبی ہونے کا ہے جو آسمانی خبریں دیتا ہے حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ کہاں ہے

نَاقَتُهُ عَلَى الْأَرْضِ الْآنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کی اونٹنی اس وقت زمین کے قطعات میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالشَّهَادَةِ لِنُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو شہادت کی

وَأَخْبَرَ فَضَالَهٖ بِمَا زَادَ مِنْ قَبْلِهِ لَطَوَافِ الْكُعبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور خبر دی فضالہ کو جو اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تھا طواف کعبہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ مُعَاذَ بْنَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حضرت معاذ بن جبل

جَبَلٍ بِالْأَسِيرِ وَأَخْبَرَ شَرِيْدَ بْنَ أَرْقَمَ بِالْعَمَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

رضی اللہ عنہ کو قیدی کی اور خبر دی حضرت زید بن ارقم کو نابینا ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالذَّهَبِ عَمَّهٗ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اپنے چچے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے چھپائے

الْعَبَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہوئے سونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِأَن يُّظْهَرَ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ وَأَخْبَرَ أَبَا أَيُّوبَ

جنہوں نے خبر دی کہ ظاہر ہوگا قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب (مختار) اور دوسرا ظالم (حجاج) اور خبر دی حضرت ابوالیوب کو

بِالْأَسِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

قیدی کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ بِظُهُورِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ

پر جنہوں نے خبر دی حضرت سعد بن ابی وقاص سے اعمال صالحہ کے ظاہر ہونے کی

مِنْهُ وَإِصَابَةٌ نَفَعَهُ قَوْمًا وَضُرٌّ بِرَأْسِ الْآخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور ان کی طرف سے ایک قوم کو نفع پہنچنے کی اور دوسرے فریق کو نقصان و ضرر پہنچنے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِقَتْلِ كِسْرَى

فرما سیدنا محمد پر و آل محمد پر جنہوں نے خبر دی کسریٰ (شاہ فارس) کے قتل ہو جانے کی

وَأَخْبَرَ بِمَا أَسْرَأَ إِلَيْهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور خبر دی اس کی جو ابن زبیر نے بطور راز اسے کہا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْقَتْلِ مِنْ بَيْرِ بْنِ

محمد و آل محمد پر جنہوں نے خبر دی قتل ہو جانے کی حضرت زبیر بن

الْعَوَامِ وَأَخْبَرَ بِالْمَرَامِ وَإِبْصَةَ بَنِ مَعْبِدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

العوام کو اور خبر دی و اِْبصہ بن معبد کو ان کے قلبی مقصود کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ فَتْحِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی جنگ

غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

خندق میں فتح کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ هَذَا السَّحَابَ يُطْرُقُ وَإِذَا فِي الْيَمِينِ

محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ یہ بادل بارش برسائے گائیں گی ایک وادی میں

وَأَخْبَرَ بِأَنَّ تَقْسِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُنُوزٌ كِسْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور خبر دی کہ اللہ کی راہ میں تقسیم ہوں گے کسریٰ کے خزانے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ أُمَّتِي

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ میری امت کے لیے

سَتَكُونُ لَهُمْ أَنْبَاطٌ يَعْدُو وَوَأَحَدُهُمْ فِي حُلَّةٍ وَيُرْوَحُ فِي أُخْرَى

پڑنے والے ہوں گے ان کے درو دیوار پر۔ ان میں ایک شخص صبح کرے گا ایک پر شاک میں اور شام کرے گا دوسری میں

وَتَوَضَّعُ بَيْنَ يَدَيْهِ صُحْفَةً وَتَرْفَعُ أُخْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور رکھائے گا اس کے سامنے ایک پیالہ اور اٹھایا جائے گا دوسرا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالَّذِي غَلَّ خُرْزَالِيَهُودُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی اس شخص کے متعلق جس نے بطور نجات لے لیے تھے

بِخَيْرٍ وَأَخْبَرَ بِمَا رَامَ الْأَعْرَابِيُّ لِقَتْلِ ابْنِ أَبِي سَفْيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ

خُرْزَالِيَهُودِ خَيْبَرِمْ - اور خبر دی اعرابی کے ابوسفیان کو قتل کرنے کے عزم و ارادہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْقَتْلِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے شہادت کی خبر دی عمار بن یاسر

عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَأَخْبَرَ أَنَّ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ شَرُّ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ

رضی اللہ عنہ کو اور بتلایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا شرم ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِفَتْحِ مِصْرَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے مصر فتح ہونے کی خبر دی

وَأَخْبَرَ أَنَّ قُرْمَانَ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور قزمان کے دوزخی ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِحُدُوثِ أَمْرِ فِي خُرَاعَةَ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی بنی خزاعہ میں حادثہ رونما ہونے کی

وَأَخْبَرَ سَبِيْعًا أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَكْلَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اور خبر دی سبیع کو کہ اسے اکلہ (اعضاء کا گوشت کھانے والی بیماری) گرفت میں لے گی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنَّا وَقَوَّعَ الْفِتْنَةَ خِلَالَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی فتنہ کے واقع ہونے کی مدینہ منورہ کے

بُيُوتِ الْمَدِينَةِ كَوَقْعِ الْمَطَرِ وَأَخْبَرَ عَنَّا غُسْلَ الْمَلَائِكَةِ حِظْلَةَ اللَّهُمَّ

گھروں میں مانند گرنے بارش کے قطرات کے اور خبر دی ملائکہ کے حضرت حظلہ کو غسل دینے کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

بِفَتْحِ يَوْمِ الْفُرْقَانِ وَأَخْبَرَ بِأَسْبَاءِ مَنْ مَاتَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنَ الْأَعْدَاءِ

فتح کی بدر کے دن اور خبر دی بدر کے دن مرنے والے اعداء کے ناموں کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَنْ يَظْفِرُ وَعَلى رَأْسِ بَيْرٍ وَكَذَا

خبر دی اپنے بعض صحابہ کرام کو بدر کے دن کہ وہ غالب آئیں گے کنوئیں کے اوپر اور ایسے ہی

بِخَبْرِ الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دشمنوں کے متعلق اطلاع دی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِفَتْحِ الرُّومِ وَأَخْبَرَ أَنَّ مَلَكًا نَصَرَ أَبَا الْيَسْرِ إِذَا

پر جس محبوب نے خبر دی روم کے فتح ہونے کی اور خبر دی کہ ایک فرشتے نے ابو اليسر کو امداد دی جبکہ

أَسْرَ الْعَبَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

انہوں نے بدر میں آفید کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَنْبِيَانَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَأَخْبَرَ

پر جنہوں نے خبر دی حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی کی آمد کی اور خبر دی

بِمَوْتِ هُوَذَةَ الْحَنْفِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہوذہ حنفی کی موت کی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ الْيَهُودِيَّةَ بِمَارَاتٍ فِي الْمَنَامِ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی یہودی عورت کو اس کے خواب سے متعلق

وَأَخْبَرَ بِقُدُومِ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور خبر دی وائل بن حجر کے (قبول اسلام کے لیے) آنے کی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا بِأَنْ يَسْتَقْبِلَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل یمن کے انکار استقبال کرنے کی

لِلصُّعُودِ عَلَى الْعُقْبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پہاڑی راستہ پر چڑھتے وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ عَمَّارًا يَطْلُبُ الْمَاءَ عِنْدَ الْقَتْلِ وَيُعْطَىٰ

کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ عمار پانی طلب کریں گے قتل ہونے کے وقت اور دیا جائے گا

الْمَاءَ الْمَخْلُوطَ بِاللَّبَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

انہیں دودھ جس میں پانی ملا ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ يُلْبِسُ عُثْمَانَ قَمِيصًا وَ أَنْتَهُمُ

کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ قمیص پہنائے گا اور بعض لوگ

يُرِيدُونَ خَلْعَهُ مِنْهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اس قمیص کے ان پر سے اتارنے کا ارادہ کریں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِشَهَادَةِ عُثْمَانَ وَأَنَّ عُثْمَانَ يُقْتَلُ

کی آل اطہار پر جس محبوب نے خبر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اور ان کے شہید ہونے کی

عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

قرآن کریم کی تلاوت کے دوران۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ دَمَ عُثْمَانَ يَقْطُرُ عَلَىٰ قَوْلِهِ

آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ حضرت عثمان کا خون ٹپکے گا اللہ تعالیٰ کے اس قول

تَعَالَىٰ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر پس عنقریب اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا آپ کی ان سے اور وہی سنتے جانے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ ذَهَابِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے خبر دی کہ پکا وہ نشین عورت کے



الطَّعِينَةَ بِكِتَابٍ حَاطِبٍ إِلَى أَهْلِ الْبَلَدَةِ الْأَمِينَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

نخطے جانے کی حاطب کی طرف سے بلد امین (مکہ) والوں کی طرف - اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا كَفَىٰ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آیت نے خبر دی کہ ان پر یہ افترا کرنے والے

أَمْرٌ مِّنْ افْتِرَائِي عَلَيْهِ أَتَتْهُ أَرْسَلُهُ وَأَخْبَرَ عَنِّي وَقَعَةَ صَفِينِ اللَّهُمَّ

کے امر سے کفایت کر دی گئی ہے کہ مجھے آپ نے بھیجا ہے اور خبر دی آپ نے صفین کی جنگ کی - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ مَعَاوِيَةَ لَا تُغَلَّبُ وَأَخْبَرَ أَنَّ التُّرُكَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ اللَّهُمَّ

کہ بیشک حضرت معاویہ مغلوب نہیں ہوں گے اور بتلایا کہ ترک عربوں سے قتال کریں گے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی حضرت

بِشَهَادَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَ أَنَّ عَمَّارًا أَصْرَعَ الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اور خبر دی کہ حضرت عمار نے شیطان کو بچھاڑ دیا ہے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

عَمَّارًا بِأَنَّ يَبْنَعَهُ مَانِعٌ مِّنْ إِخْرَاجِ الْمَاءِ مِنَ الْبَيْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

حضرت عمار کو کہ انہیں رکاوٹ درپیش ہوگی کنوئیں سے پانی نکالنے میں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِمَا قَالَتْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اپنے صحابہ کرام کو اس شخص

لَهُمْ زَوْجَةٌ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ لَا يَتَرَدَّدُ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ إِلَّا قَلِيلًا فَمَاتَ

کی زوجہ کے قول کی جو بہت کم آتا تھا آپ کی مجلس شریف کی طرف بس وہ فوت ہو گیا

وَدَخَلَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور جنت میں داخل ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَفْيَانَ يَأْتِي لِتَجْدِيدِ الْعَهْدِ وَأَخْبَرَ عَنِ

پر جنہوں نے خبر دی کہ ابوسفیان تجدید عہد کے لیے آئے گا اور خبر دی اس عورت کے متعلق

الْمَرْأَةِ مَعَ مَزَادَتِي الْمَاءِ عَلَى النَّاقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو بیانی کی دو بڑی مشکیں لیے اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنِ فَتْحِ الْيَمَنِ وَالْمَدَائِنِ

محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے خبر دی یمن اور مدائن کے فتح ہونے کی

وَأَخْبَرَ عَمَّا هُوَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّ اللَّهَ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور خبر دی ہر اس امر کی جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الرَّؤُومُ ذَاتَ قُرُونٍ إِلَى

محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ اہل روم متعدد جماعتوں والے ہوں گے

أَخْرَجَ الدَّهْرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہمیشہ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

جنہوں نے خبر دی اپنے صحابہ کو کہ داخل ہو گا ان پر جنتی آدمی

مِنْ هَذَا الْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس دروازہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِفَتْحِ أَرْضِ الْعَجَمِ وَأَنَّ فِيهَا الْحَبَّامَاتِ وَأَخْبَرَ

آل پر جنہوں نے خبر دی عجمی علاقہ کے فتح ہونے کی اور اس میں حماموں کی موجودگی کی اور خبر دی

فَرَّقَ أَبُو الْفَيْ هَاتِفٍ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فرقہ کو جو کچھ ہاتف غیبی نے اسے بتلایا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ ذُبَابَ بَنِ الْحَارِثِ بِقَوْلِ الْحَبِيّ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی ذباب بن الحارث کو جن کے قول کی

وَكَسْرِ الصَّنَمِ وَأَخْبَرَ أَنَّ عَلِيًّا يَحَارِبُهُ الرَّبِيبُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور بت توڑنے کی اور خبر دی کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت زبیر جنگ کریں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت عبد الرحمن

بْنِ عَوْفٍ بِرِسَالَةِ عَثْكَانَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ آيَاتَهُ فَأَسْلَمَ

بن عوف کو عثکان کے خط کی اور پڑھے ان پر اس کے اشعار پس وہ اسلام لائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اظہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ حَتَّى تَخْتَضِبَ

جنہوں نے خبر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جبکہ وہ آپ کی مجلس میں حاضر تھے کہ وہ فوت نہیں ہونگے یہاں تک کہ رنگین

لِحَيْتِهِ مِنْ دَمِ هَامِيَةٍ وَأَخْبَرَ بِمَقْتَلِ الْحُسَيْنِ وَمَضْجِعِهِ وَمَحَلِّ

ہوگی ان کی ڈاڑھی ان کے سر کے خون سے اور خبر دی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اور ان کی جائے شہادت

مَوْتِهِ وَمَوْضِعِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور موت کے محل و مقام کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ تَلِدُ أَمِيرًا يَأْخُذُ بِنَارِ الْحُسَيْنِ

کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ حضرت ام الفضل جنم دیں گی ایسے امیر کو جو حسین کے قتل کا بدلہ لے گا

وَأَخْبَرَ بِفَتْحِ عَمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور خبر دی عمان کے فتح ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمِيرًا بِمَا شَارَطَهُ صَفْوَانٌ وَبِمَا قَصَدَ مِنْ

کی آل پر جنہوں نے خبر دی عمیر کو جو شرط طے کی تھی اس سے صفوان نے اور اس نے جو آپ کے مقصد سے

قَتْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کر رکھنا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَنَا رَاكِبَ النَّاقَةِ أَبُو خَيْثَمَةَ وَأَخْبَرَ بَانَ يَظْهَرُ فِي

جنہوں نے خبر دی کہ اونٹنی سوار ابو خیثمہ ہے اور خبر دی کہ ظاہر ہو گا

الْيَمَامَةِ كَاذِبٌ يَدْعِي النَّبُوَّةَ فَيُقْتَلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

یمامہ میں کاذب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا پس قتل کیا جائے گا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبَا مَطْعُونٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ ابو مطعون

مِّنَ الْأَمْوَاتِ فَمَا بَلَغَ مَنزِلَهُ حَتَّى مَاتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اموات سے ہیں پس وہ نہ پہنچے اپنی منزل تک حتیٰ کہ مر گئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عَمِيْسٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حضرت اسماء بنت عمیس کو

بَانَ يُزَوِّجُهَا جَعْفَرًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کہ ان سے شادی کریں گے حضرت جعفر بھڑ حضرت ابو بکر بھڑ حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا مَلِكًا

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ ایک فرشتہ نے

سَرَ السَّاعِبِ وَأَخْبَرَ سَرَّاقَةَ بِنَ مَالِكِ أَنَّهٗ يَلْبَسُ سِوَارَ كَسْرَى

سائب کو راز کی بات بتلائی اور خبر دی کہ سراقہ بن مالک پہنیں گے کسری کے کتھن۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَنَا وَوَلَدَ الْعَبَّاسِ يَمْلِكُونَ أضعافَ مُلْكِ بَنِي أُمِّيَّةَ

جنہوں نے خبر دی کہ حضرت عباس کی اولاد کئی گنا زیادہ عرصہ حکومت کریں گے نسبت بنو امیہ

فِي الْوَرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کی مخلوق میں حکمرانی کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْمَدِينَةَ سَتَعْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جنہوں نے خبر دی کہ مدینہ عنقریب خالی ہو جائے گا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الدِّمَاءَ تَغْمُرُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ مقتولین کے خون ڈھانپ لیں گے

أَجْرَارُ الزَّيْتِ فَوْقَ فِي وَقْعَةِ الْحَرَّةِ وَأَخْبَرَ عَنُ وَقُوعِ الطَّاعُونَ

روغن آلود نظر آنے والے پتھروں کو پس حرہ کے واقعہ میں یہ نیبی خبر پوری ہوئی اور خبر دی مدینہ میں طاعون کے

فِي الْمَدِينَةِ الْمَطْهَرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

و وقوع پذیر ہونے کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْمَرَامِ لِبِوَأَثَلَةَ ابْنِ الْأَسْقَعِ وَأَخْبَرَ بِمَقَالَةَ

کی آل پر جنہوں نے خبر دی واثلہ بن اسقع کو اس کے مقصد کی۔ اور خبر دی ابن سلول کے

ابْنِ سَلُولٍ قَبْلَ أَنْ سَمِعَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

قول کی سننے سے قبل۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا كِرْكُرَةَ فِي النَّارِ وَأَخْبَرَ عَنُ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ کرکہ خادم آگ میں ہے۔ اور خبر دی

فَتْحِ الشَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

شام کے فتح ہونے کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ مَّعْشَرِ الْقُرَيْشِ بِمَا قَالَ يَوْمَ

پر جنہوں نے خبر دی قریش کی جماعت میں سے ہر ایک کو اس کے قول کی فتح مکہ کے

فَتْحِ مَكَّةَ وَأَخْبَرَ سَجَلًا بِمَا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنْ لَيْسَ فِي هَذَا الْجُمُعِ

دن اور خبر دی اس شخص کو جس کے نفس نے اس کو دوسو سو ڈالاکہ اس جماعت میں اس سے بہتر

أَحَدَ مَنِّي أَوْلَىٰ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کوئی شخص نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَانِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يُدْفَنُ وَمَعَهُ كَالْمُصْبَاحِ

پر جنہوں نے خبر دی کہ ان کے بعض صحابہ کو اس حال میں دفن کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ چراغ کی مانند نور ہوگا

فَأَضَاءَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

پس وہ اس کے ساتھ قبر میں روشنی دے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالَّذِي حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ فِي بَيْتِهِ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اس شخص کے متعلق جس نے قسم اٹھائی اپنی بیوی کے لیے گھر میں

وَحَدَّثَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور احداث ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ ظُهُورِ فِتْنِ الْخَوَارِجِ بِالْعِرَاقِ وَأَخْبَرَ طَلْحَةَ بِالْقَتْلِ

جنہوں نے خبر دی عراق میں خارجیوں کے فتنہ کے ظہور کی اور خبر دی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ عُمَرَ يُخْرِجُ الْيَهُودَ مِنْ خَيْبَرَ وَأَخْبَرَ نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ

خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکال دیں گے یہودیوں کو خیبر سے اور خبر دی نوفل بن الحارث کو

بِالرَّمَاحِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نیزوں کے متعلق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِأَرْبَعِ أَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَمَا أَقْبَاهُ الْهَاتِفُ إِلَيْهِ وَ

جنہوں نے خبر دی اشعث بن قیس کے مرتد ہونے کی اور جو ہاتف غیبی نے اس کو کہا۔ اور

أَخْبَرَ بِإِيْفَاءِ الدَّبِّ بِمَا كَفَلَ لِأَهْبَانَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيَّ

خبر دی بھیڑیے کے پورا کرنے کی اس عمد کفالت کو جو اہبان سے کیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عُمَرَ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ پیر اور آل محمد پیر جنہوں نے خبر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ان میں ایسے شخص

تَجْمَعُ عَلَيْهِ الْأَحْزَابُ يَعْنِي أَبَاسُفِيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ  
ہیں جن پر تمام عساکر کفار جمع ہو جائیں گے یعنی ابوسفیان پیر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ مَا رَفَعَ بَنَ عَمِيرٍ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ پیر اور آل محمد پیر جنہوں نے خبر دی رافع بن عمیر کو

بِمَا رَأَىٰ فِي الْمَنَامِ وَأَخْبَرَ بِفَتْحِ مَكَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا  
جو کچھ اس نے دیکھا تھا خواب میں اور خبر دی فتح مکہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْقَتْلِ فِي الْعِرَاقِ عَلِيًّا  
محمد پیر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عراق میں شہید کئے جانے کی

وَأَخْبَرَ خَزِيمَ ابْنَ يَعْلَىٰ بِمَا أَخْبَرَتْهُ الْجِنُّ فِي الدِّيَجُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ  
اور خبر دی خزیم بن یعلیٰ کو جو کچھ انہیں بتلایا تھا جن نے شب تاریک میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ  
و سلام نازل فرما سیدنا محمد پیر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابو ہریرہ کو

بِقُدُومِ غَلَامِهِ وَأَخْبَرَ بَعْضَ جَارِهِ بِمَا أَسْرَمَ مِنْ إِسْلَامِهِ اللَّهُمَّ  
ان کے غلام کی آمد کی اور خبر دی بعض پڑوسیوں کو جو اس نے چھپایا یعنی اپنے اسلام کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ  
صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پیر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت

تَخَلَّ عِبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَزْوَاجُهُ الطَّاهِرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ  
عبدالرحمن بن عوف کی کھجوروں سے اور اپنی ازواج مطہرات کو بطور ہدیہ دئے جانے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَدِيَّ  
و سلام نازل فرما سیدنا محمد پیر اور آپ کی آل اطہار پیر جنہوں نے خبر دی عدی



بْنِ حَاتِمٍ أَنْتَ كُنْتَ مَرَبًا عَامِنٌ قَوْمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بن حاتم طائی کو کہ تو تھا اپنی قوم سے چھارمی وصول کرنے والا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِاتِّخَاذِ بَنِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی بنو امیہ کے بنائینے سے

أُمَّيَّةَ مَالِ اللَّهِ دُولًا وَأَخْبَرَ بِفَتْحِ أَيْلَةِ أَصْحَابَةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ

اللہ کے مال کو ذاتی دولت و ملکیت اور خبر دی اپنے صحابہ کو ایلہ کے فتح ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ مَقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت مقداد بن الاسود کو

بِالَّذِي أَرَادَ أَنْ يَشْرِبَ شَرَابَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس شخص سے متعلق جس نے ارادہ کیا ان کا شراب پینے کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولَ أَهْلِ الْيَمَنِ وَالطَّائِفِ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اہل یمن اور طاائف کے اہلی کو

بِمَا سَمِعُوا مِنَ الْهَاتِفِ فِي شَأْنِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو سنا اس نے ہاتف سے آپ کی شان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَتَى وَفِي

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ ابن زبیری آیا ہے اور اس کے

وَجْهَهُ نُورٌ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

چہرے میں نور الاسلام ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْأَنْصَارَ يَقْتُلُونَ فَيَكُونُونَ كَالْمِلْحِ

کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ انصار کم ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ ہوں گے مانند نمک کے

فِي الطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

طعام میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْأَنْصَارَ يَقْتُلُونَ بَعْدَهُ أَثَرَةً فَأَصَابَتْهُمْ

پہر جنہوں نے خبر دی کہ انصار کم ہوتے جائیں گے از روئے ایشارہ ترجیح کے تو پہنچی انہیں یہ پریشان

فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے ایام امارت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا بِأَنْ يَقْدُمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ آئے گا ان کے پاس ایک شخص

يَتَكَلَّمُ بِلسَانِ شَيْطَانٍ فَظَهَرَ فِي الْأَنْ لِسَانِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

کہ جو کلام کرے گا شیطان کی زبان سے تو وہ ظاہر ہو گیا اسی لمحے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ رَجُلَيْنِ بِأَغْتِيَا بِهِمَا

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی دو شخصوں کو ان کے غیبت کرنے کی

سَلْمَانَ وَأَخْبَرَ وَافِدًا كَسْرِي بِمَا أَضْمَرَ مِنْ خَبَرِ الطَّائِرِ اللَّهُمَّ

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی اور خبر دی کسری کے نمائندے کو جو اس نے چھپا رکھی تھی پرندے کی خبر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

فَاطِمَةَ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَاتِمَانِ فِي خَطِيرَةِ بَنِي النَّجَارِ

حضرت سیدہ زہراء رضی اللہ عنہا کو کہ حسین رضی اللہ عنہما کھڑے ہیں بنو النجار کے احاطہ میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَنَا بَلَاءَ تَصِيبِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جنہوں نے خبر دی کہ معیبت پیش آئے گی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ حَبِيبَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حبیب

بِنَ مَالِكٍ بِمَا أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ مِنْ حَالِ ابْنَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

بن مالک یعنی کہ جو اس نے دل میں چھپا رکھا تھا اپنی بیٹی کی لاچاری کا حال۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

بَانَ يُدْفَنُ عِنْدَكَ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ

کہ دفن کئے جائیں گے ان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

اَخْبَرَ اَنَّ اَبَا اَيُّوبَ يَمُوْتُ بِارْضِ الرُّومِ بِلا سَرِيْبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

خبر دی کہ حضرت ابو ایوب فوت ہوں گے روم کے علاقہ میں بلا شہر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

عَلِيًّا بِاَنَّ يَتِيَانَ مُضْرًا صَاحِبَ الْبَيْرِ وَاخْبَرَ بِظُهُورِ قَوْمٍ يَبْغُضُونَ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مضر کی آمد کی جو کنوئیں کا مالک تھا اور خبر دی ایسی قوم کے ظاہر ہونے کی جو بغض رکھیں گے

اَصْحَابَهُ الْكِرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ عَنُ وَقَعَةِ الْجَمَلِ وَعَلِيٍّ فِيْ ذٰلِكَ

آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی جنگ جمل کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس میں غالب

الْحَرْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

آئے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

اَخْبَرَ اَنَّ ابْنَ كَعْبٍ بِالَّذِيْ جَاءَكَ فِيْ صِفَةِ الْكَلْبِ اللَّهُمَّ

خبر دی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی حقیقت کی جو آیا ان کے پاس کتے کی صورت میں۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ

أَنَّ صَاحِبَةَ الْجَبَلِ تَنْجُو بَعْدَ مَا قَرَبَتْ بِالْهَلَكَةِ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ

اونٹ پر سوار ہونے والی نجات پائے گی بعد ہلاکت کے قریب پہنچنے کے اور خبر دی اپنے صحابہ کو

أَنَّ دَحِيَّةَ يَدْخُلُ الْأَنْ أَلَلَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کہ دحیہ کلبی ابھی داخل ہونے والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا بَكْرٍ بِأُمِّي مَرِيضٌ يَمُوتُ وَأَخْبَرَ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابو بکر کہ آپ کس مرض سے فوت ہوں گے اور آپ

أَنَّ مَسْجِدَكَ يُحْتَرَقُ بِالنَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی مسجد آگ سے جلائی جائے گی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِقَتْلِ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ أَصْحَابَهُ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے ابن ابی الحقیق یہودی کے قتل ہو جانے کی خبر دی اپنے اصحاب

الْأَطْفَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اطفار کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا ذَرٍّ بِأَنْ يُقْتَلَ ابْنَةُ وَأَخْبَرَ بِهَا هَمَّ عَلَى الْعُقْبَةِ

جنہوں نے خبر دی حضرت ابو ذر کو ان کے بیٹے کے قتل ہونے کی اور خبر دی جو ارادہ کیا یہاڑی راستہ میں (آپ پر حملہ کا)

الْمُنَافِقُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

منافقین نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِنَصْرِ الْمَلَكَةِ يَوْمَ أَحَدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

پر جنہوں نے خبر دی ملائکہ کی نصرت کی احد کے دن عبد الرحمن بن عوف کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِفَقْدِ بَصِيرَةِ لَمَّا رَأَى جِبْرَائِيلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

خبر دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بصارت کے زائل ہونے کی جب دیکھا انہوں نے جبرئیل کو۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِوُقُوعِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی ارتداد کے

الرَّدَّةِ بَعْدَ مَوْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

وقوع پذیر ہونے کی اپنی موت کے بعد۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا ذَرٍّ يَعْيشُ وَحِيدًا أَوْ يَمُوتُ وَحِيدًا

آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابو ذر کو کہ وہ زندگی گزاریں گے تنہائی میں اور وفات پائیں گے تنہائی میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَعْدًا لَا يَمُوتُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جنہوں نے خبر دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ وہ نہیں مریں گے اس مرض سے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا ذَرٍّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابو ذر کو

بِأَخْرَاجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

ان کے مدینہ سے اور بیت حرام سے نکلانے کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا بِأَنْ يَبْلُكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت علی کو ایک لونڈی کے مالک

جَارِيَةٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَأَخْبَرَ أَنَّ عَلِيًّا يُولَدُ لَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَارِيَةِ

ہونے کی جو بنو حنیفہ سے ہوگی اور انہیں بتلایا کہ اس لونڈی سے ان کا ایک عظیم بیٹا پیدا

عُلَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہوگا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ إِيَّانٍ وَفَدِ عَبْدِ الْقَيْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

جنہوں نے خبر دی عبد القیس کے وفد کی آمد کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِخُرُوجِ الْأَسْوَدِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے اسود غسی سے

الْعَنَسِيِّ وَأَخْبَرَ أَنَّ فَيْرُوزًا يَقْتُلُ الْأَسْوَدَ الْكَذَّابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ظہور اور دعوائے نبوت کی اطلاع دی۔ اور بتلایا کہ فیروز دہلی قتل کرے گا اسود کذاب کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالَّذِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی اس شخص کی جس نے

غَلَ الْبُرْدَةَ مِنَ الْمَغَانِمِ وَأَخْبَرَ أَنَّ عَلِيًّا يَقْتُلُهُ ابْنُ مُدْجَمِ اللَّهُمَّ

چرائی چادر اموال غنیمت سے اور خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن بلجم شہید کرے گا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

أُمِّيَّةَ ابْنِ خَلْفٍ بِالْقَتْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

امیہ بن خلف کافر کے قتل ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَرْتِحَالِ الطَّعِينَةِ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّىٰ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی عورتوں کے سفر کرنے کی حیرہ سے حتیٰ کہ

تَطُوفَ بِالنُّعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَىٰ وَتَقْدَسَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کعبہ کا طواف کریں گی درآنحالیکہ اس طویل سفر میں انہیں ڈریں گی مگر اللہ تعالیٰ و تقدس سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اہل مدینہ کو

يَوْمَ دَخَلَهَا عَمَّا أَكَلُوا الْبَارِحَةَ وَأَخْبَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْأَسِيرِ اللَّهُمَّ

جس دن آپ اس میں داخل ہوئے جو انہوں نے کھایا گذشتہ رات اور خبر دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو قیدی کی حقیقت کی کہ وہ شیطان ہے!

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِهَوْتِ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت عامر

عاصم بن ثابت وَرُفْقَائِهِ وَأَخْبَرَ بِقُدُومِ وَقْدِ الْأَشْعَرِيِّينَ

بن ثابت اور ان کے رفقاء کی شہادت کی اور خبر دی قبیلہ اشعر کے وفد کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ جَمَالَاتِ حَارِثِ بْنِ أَبِي حِزْرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہوں نے خبر دی حارث بن ابی حزار کے اونٹوں کی۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ نَزِيْدَ بْنَ صَوْحَانَ يَسْبِقُهُ عَضْوَمَنْهُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقُبِعَتْ

کہ زید بن صومان کا ایک عضو ان سے پہلے جنت میں پہنچ جائے گا پس ان کا ہاتھ

يَدُهُ فِي الْحَرْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کٹ گیا جنگ میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلِكَ بِمَقْوَقِسٍ لَا يَبْقَى وَأَخْبَرَ

کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ ملک اب مقوقس کے پاس نہیں رہے گا اور خبر دی

مَعْشَرَ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ يَا بَنَ صَوْرِيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

علماء یہود کی جماعت کو ابن صوریہ کے متعلق۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَنْ قَالَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اس منافق کی جس نے کہا تھا

لَا تَنْفَرُوا فِي الْحَرِّ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ أَنَّهُمْ

نہ تکلوا جہاد کے لیے شدید گرمی میں اور خبر دی اپنے صحابہ کو بعض غزوات میں کہ وہ

يَلْقَوْنَ عَدُوًّا عَدَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کل ملاقات کریں گے دشمن سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَيَّانِ الْمَلَأَكَةِ بِالْكَفْرِ وَالْحَنُوطِ لِأَمْرِ هَذَا

پر جنہوں نے خبر دی تھی ملائکہ کے کفر اور خوشبو لانے کی اس

الصَّبِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بچے کی والدہ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِالَّذِي اسْتَأْجَرْتَهُ قَرِيْشٌ لِّقَتْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جنہوں نے خبر دی اس شخص کے متعلق جسے قریش نے آپ کے شہید کرنے کیلئے اجرت پر لیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِفَتْحِ الْحَيْرَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حیرہ کے فتح ہونے کی

وَأَسْرِ شِيْمَاءَ رَاكِبَةً عَلَى الْبُعْلَةِ الْبَيْضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور شیماء کے سفید فوج پر سواری کی حالت میں قید ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا حَذِيْفَةَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے ابو حذیفہ کو شہادت

بِالشَّهَادَةِ فَأَدْرَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کی خبر دی تو انہوں نے اسے پالیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ أَصْحَابَهُ الْكِرَامِ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی سمندر والے غزوہ و جہاد کی اپنے صحابہ کرام کو

وَأَخْبَرَ بِالتَّطَاوُلِ فِي الْبُنْيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور خبر دی عمارت میں ایک دوسرے پر بالادستی کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ وَقْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجَرْحِ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی وفد عبد القیس کو ایک شخص کی پینڈی کے زخمی



السَّاقِ بَعْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہونے کی شراب پینے کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِأَنْ يَطْلُعَ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی اپنے اصحاب کو کہ ابھی رونما ہوگا

عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ان پر ایک بروی شخص اس صحراء سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

سُفْيَانَ بِمَا تَفَكَّرَ مِنْ تَطْلِيْقِ زَوْجَتِهِ لِإِفْتِسَاءِ السِّرِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

ابو سفیان کو جو اس نے سوچا تھا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا بسبب اس کے راز فاش کرنے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَرْمِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کلمہ کے

مَكَّةَ أَفْلَاحًا كَيْدًا يَعْنِي خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَعَمْرُ بْنُ الْعَاصِ

اپنے جگر کے محکموں کے پھینکنے کی یعنی حضرت خالد بن الولید۔ حضرت عمرو بن العاص اور

وَعُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم کی مدینہ منورہ (غرض ایمان آمد کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِإِشَارَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی ابولبابہ کے اشارہ

أَبِي لُبَابَةَ حَيْثُ حَدَّثَ رَبِيْقَةَ وَأَخْبَرَ بِقَتْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

کی جبکہ انہوں نے ڈرایا بنو قریظہ کو (قتل کے ساتھ) اور خبر دی ابن زبیر کے شہید ہونے کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِخُرُوجِ وُلْدِ الْعَبَّاسِ الرَّايَاتِ السُّودِ وَأَخْبَرَ بِالْأَخْبَارِ

جنہوں نے خبر دی حضرت عباس کی اولاد کے سیاہ پرچموں کے ساتھ نکلنے کی اور خبر دی ان اخبار

الَّتِي أَخْبَرْتُ بِهَا الْيَهُودَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کے متعلق جن سے یہود نے لوگوں کو مطلع کیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ السَّفِينَةَ بِمَا فَعَلَ بِهَا

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حضرت سفینہ کو کہ کیا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ

الْأَسَدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

شیر نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ مِنْ خَبَرِ الطَّائِرِ

پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابو بکر کو جو انہوں نے دل میں چھپا رکھی تھی پرندے کی خبر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ بِوُقُوعِ الْمَوْتَانِ بَعْدَ فَتْحِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ اللَّهُمَّ

جنہوں نے خبر دی بکثرت اموات کے وقوع پذیر ہونے کی بیت المقدس کی فتح کے بعد۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ سَتَخْدِمُ أُمَّتِي بَنَاتُ الرُّومِ وَفَارِسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

خبر دی کہ عنقریب خدمت کریں گی روم و فارس کی بیٹیاں میری امت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

بِتَسَلُّطِ شَرَاةِ الْأُمَّةِ عَلَى خِيَارِهَا جِبْنَ سُبَى أَوْلَادِ فَارِسِ

امت کے شریروں کے مسلط ہونے کی بہترین افراد امت پر جبکہ قبیلہ سبئی بنائی جانے کی فارس

وَالرُّومِ وَاسْتَخْدِمُوا اللَّهَ صِلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

وروم کی اولاد اور ان کو خادم بنا یا جائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ الْمُنْفِقِينَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِمَا قَالُوا

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی منافقین کو غزوہ تبوک میں اس کی جو انہوں نے کہا

اللَّهُمَّ صِلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ شَيْبَةَ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي أَضْرَبْتُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُظْهِرْهَا عَلَيَّ

خبر دی شیبہ کو ان اشیاء کی جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھی تھیں اور کسی پر انہیں ظاہر نہیں

أَحَدًا اللَّهُمَّ صِلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ ضَرْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ فَارْتَدَّ

جنہوں نے خبر دی شیبہ کو کہ اس کی ڈھاڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ سے بڑی ہوگی پس وہ منہ نہ ہو گیا۔

اللَّهُمَّ صِلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ بِقُدُومِ عِكْرَمَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَهَا جَرَّ اللَّهُمَّ صِلِّ وَسَلِّمْ

خبر دی عکرمہ بن ابی جہل کے خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی حالت ایمان میں اور حالت ہجرت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِاسْمِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

وَهَبِ ابْنَ السَّبَاعِ وَقَدْ وُهِبَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صِلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

وہب بن سباع کے نام کی اور اس کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ أَنَّكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ جس آقا نے خبر دی محمد بن مسلمہ کو کہ تو

تَقْتُلُ عَدَا قَاتِلَ أَخِيكَ كَتَانَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قتل کرے گا کل اپنے بھائی کے قاتل کتانہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِنَاءِ بَعْدَادٍ وَأَخْبَرَ بِالْبُرْصِ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقائے خبردی بغداد کی تعمیر کی اور خبردی برص میں مبتلا ہونے کی

رَجُلًا مِّنْ وَفْدِ بَنِي النَّخَعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

وفد بنی نخع کے ایک فرد کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَاهُ بِرَبِّهِ أَنَّهُ يَمُوتُ بِأَرْضِ

آپ کی آل جنہوں نے خبردی ابو ہریرہ کو کہ وہ وفات پائیں گے بے آب و گیاہ

قَفْرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زمین میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَعْرَابِيًّا أَنَّ فِي مَثْمَنَتِكَ ظَبِيَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جنہوں نے خبردی اعرابی کو کہ تیرے پھیلے اور زمبیل میں ہرنی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَلِيًّا بِمَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبردی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو

قَالَ الْحَفْشَانُ لِبَتْلِكَ الظَّبِيَّةِ وَأَخْبَرَ بِالَّذِي غَلَّ الشُّمْلَةَ يَوْمَ

کہا ہرنی کے دو بچوں نے اس ہرنی کو اور جب سردی بڑی چادر چرانے والے کی خیمہ کے

خَيْبَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقائے

أَخْبَرَ بِقَتْلِ أَهْلِ جُرَيْشٍ وَأَنْبِيَاءٍ وَأَخْبَرَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي قُتِلُوا

خبردی اہل جرش کے قتل ہونے کی اور خبردی اس وقت کی جس میں قتل کئے

فِيهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ بَانَ الْأَرْضَةَ أَكَلَتْ مَا فِي سَفَرِ الْعَهْدِ وَأَبْقَتْ اسْمَ

جنہوں نے خبر دی کہ دیکھ نے کھا لیا ہے قریش کے عہد نامہ کو مکمل طور پر اور باقی چھوڑا ہے صرف اللہ تعالیٰ

اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے نام کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ بِلَالَ أهدَاهُ الشَّيْطَانُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

جنہوں نے خبر دی کہ بلال کو تھپکی دی ہے شیطان نے (سلانے کیلئے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فِي غَزْوَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی غزوة

تَبُوكَ بِهَيُوبِ الرِّيحِ الشَّدِيدِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

تبوک میں شدید آندھی کے چلنے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا بَكْرٍ عَنِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو

الشَّيْخِ الْيَمِينِيِّ الَّذِي أَعْطَاهُ الْأَشْعَارَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَ

شیخ یمنی کے متعلق جس نے انہیں اشعار عطا کئے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ قَاطِمَةَ بِحُضُورِ مَوْتِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

خبر دی حضرت سیدہ قاطمہ زہراء قرب وفات کی رضی اللہ عنہا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ أَوَّلَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقائے خبر دی کہ اہل بیت سے اول

أَهْلِي لِحُوقَابِي لِفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

فرد از روئے لاحق ہونے کے ساتھ میرے بنتہ قاطمہ زہراء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ اللَّهُ يُتَوَفَّى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے بتلا دیا کہ ان کی وفات

يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

سوموار کے دن ہوگی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِالْمَغِيَّبَاتِ وَبِصِفَةِ مَوْتِ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خیردی امور غیبیہ کی اور صحابہ کرام میں سے

مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمَنْ مَاتَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فوت ہونے والوں کی اور جو فوت ہو چکے ان کی کیفیت موت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمَّارًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی تمار کو کہ

بِأَن تَقْتُلَهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ فَمَاتَ فِي حَرْبٍ عَلِيٌّ وَمَعَاوِيَةُ

انہیں باغی جماعت قتل کرے گی تو انہوں نے وفات پائی حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگ صفین میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَ أُمَّ حَرَامٍ بِمَوْتِهَا عَلَى الشَّهَادَةِ فَكَانَ مَا أَخْبَرَهَا

جنہوں نے خبر دی ام حرام کو شہادت کی موت کی پس وہی ہوا جس کی آپ نے اے خبر دی

بِهِ وَاثَارَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ

اور اشارہ فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَعْضَ صَحَابَتِهِ وَقَرَابَتِهِ بِعَلَامَةِ

آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی اپنے بعض صحابہ اور قرابت داروں کو اویس

أُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ وَشَفَاعَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

قرنی کی علامت اور شفاعت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَهْرًا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی عبداللہ بن زبیر کو علانیہ کہ

أَنَّهُ يُقْتَلُ صَبْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

وہ حالت جس میں قتل ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونَ

آل محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ جو شخص والتین والزیتون کو پڑھے گا

جَلِبَتْ لَهُ رِزْقًا وَيُسْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو وہ اس کے لیے فراوان رزق اور آسانیاں میا کرے گی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَرَفَةَ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی حضرت معاذ بن جبل کو اور تعارف کرایا

بِالَّذِي أَخَذَ لَهُ الطَّعَامَ مِنَ الْعُرْفَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس شخص کا جس نے لے لیا ان کا علف بالا خانہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَمَّارَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی عمار

بُنَ يَأْسِرُ يَمًا أَسْرًا ابْنُ أَبِي لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ تَبُوكَ وَهُوَ سَائِرٌ وَ

بن یاسر کو جو دل میں چھپایا ابن ابی نے آپ کے اصحاب کے لیے تبوک کے دن جبکہ آپ جا رہے تھے اور

أَخْبَرَ بِاسْمِ مَنْ سَأَلَ غَدْرًا بَعْدَ أَنْ كَفَاهُ اللَّهُ شَرَّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

خبر دی اس شخص کے نام کی جس نے آپ کے ساتھ غدڑ کا قصد کیا تھا بعد اس کے کہ اللہ نے آپ کو کفایت فرمائی اس کے شر سے

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

أَوَّلًا وَآخِرًا بِمَوْتِ مَنْ يَمُوتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَأَفْرَأَ اللَّهُمَّ

اول و آخر ان کی جو مرے گی اہل اسلام سے حالت کفر میں۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِمَوْتِ أَهْلِ بَيْرِ مَعُونَةَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفُوا

خبر دی اپنے صحابہ کو بیر معونہ والوں کی شہادت کی پہلے اس سے کہ صحابہ

ذَلِكَ أَوْ يُدْرِكُوهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اسے جانیں اور اس کا ادراک کریں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْ أَهْلِ بَيْرِ مَعُونَةَ وَاعْتَجَبَ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی بیر معونہ والوں کے متعلق اور تعجب فرمایا

أَنَّهُمْ حُجِّلُوا إِلَى الْجَنَّةِ عَلَىٰ أَسْرَةِ الدَّهَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان کے اٹھائے جانے پر جنت کی طرف سنہری تختوں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَوْتِ

فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی عبد اللہ

ابْنِ رَوَاحَةَ الشَّهِيدِ وَبِأَخْذِ الرَّايَةِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ

بن رواحہ کی شہادت کی اور خالد بن الولید کے پرچم تھامنے کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّ خَالِدًا أَخَذَ الرَّايَةَ مِنْ غَيْرِ

خبر دی کہ اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے کہ خالد نے پرچم اسلام تھام لیا ہے بغیر

أَمْرِهِ فَقَتِحَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آپ کے امر کے اور ان کو فتح دی گئی ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ جَعْفَرَ أَيُّطِرُ فِي السَّمَاءِ بِجَنَاحَيْنِ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ جعفر رضی اللہ عنہ آسمان میں پرواز کر رہے ہیں اپنے دو نوحوں کے



مُضَرَّحِينَ بِالدِّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بازوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِمَا أَخْفَى الْكُفَّارُ مِنَ الْكَلَامِ مَرْفِي

آپ کی آل پر جنہوں نے بتلادیا جو کچھ مخفی رکھا اپنے کلام سے کفار نے آپ کے

فَتْحِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الشَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

شام کو فتح کر لینے کے بارے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ الْمُكْرَمِينَ أَنَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی اپنے اصحاب کرام کو کہ قرمان

قَرْمَانَ يَقْتُلُ نَفْسَهُ بِالسَّكِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنے آپ کو قتل کر ڈالے گا سحجر کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ سَمْرَةَ يَحْرُقُ بِالنَّارِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ حضرت سمرہ آگ میں جل کر مر گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ يَحْشُرُ مَعَ الشُّهَدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خبر دی کہ ثابت بن قیس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَيْمَانِ الْمُنَافِقِينَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی منافقین کی جھوٹی قسموں کے متعلق

قَبْلَ الْحَلْفِ عَلَيَّا حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ عَلَيَّ وَعَلَى يَدَيْهِ

ان کے حلف اٹھانے سے قبل اور خبر دی حضرت علی کو جبکہ آئے آپ کی خدمت میں کہ یقیناً اللہ مجھے فتح دے گا اور تمہارے ہاتھوں پر فتح ہوگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِنَبَاحِ كَلَابِ الْحَوْءِ عَلَى بَعْضِ نَرُوجَاتِهِ

خبر دی اپنے صحابہ کو حوہب کے کتوں کے پھونکنے کی بعض ازواج مطہرات پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ عَائِشَةَ تَنْفِرُ إِلَى قِتَالِ عَلِيٍّ وَتَسِيرُ وَيَمُوتُ

جنہوں نے خبر دی کہ عائشہ صدیقہ نکلیں گی اور روانہ ہوں گی حضرت علیؑ کے قتال کی طرف اور وفات پائیں گی

حَوْلَهَا خَلِقٌ كَثِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان کے گرد بہت سے لوگ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ فِي الدَّارِ أَنْ قَاتِلَهُ

سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے خبر دی حضرت زبیر کو جبکہ وہ گھر میں موجود تھے کہ ان کا قاتل

يَلْبِغُ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جہنم داخل ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ بِمَا يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

محمد پر جنہوں نے خبر دی حذیفہ بن یمان کو ہراس واقعہ کی جو ہوگا ان کے بعد والے زمانہ میں

فَكَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پس اسی طرح ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بِقُدُومِ الْعِيرِ قَبْلَ مَجِيئِ الْبَشِيرِ وَأَخْبَرَ

پر جنہوں نے خبر دی قریش کے قافلہ کی خوشخبری دینے والے کی آمد سے قبل اور خبر دی

بِفَتْحِ أَمْرِ الْقُرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ يَوْمَ يَدْرِبُ بِمَصَارِعِ الْكُفَّارِ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی میدان بدر میں کفار کی قتل گاہوں کی تو

فَكَانَتْ حُفْرَ الْقَرَارِ لَهُمْ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ہو گئے وہ مقامات ان کے لیے آتش دوزخ میں قیام پذیری کے گڑھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

اٰخَبَرَ اُسَيْدِ بْنِ حَضِيْرٍ اَنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ دَنَّتْ تَسْمَعُ قِرَاةَ تَهْ وَهُوَ يَقْرَأُ

خبر دی حضرت اسید بن حضیر کو کہ ملائکہ قریب آگئے تھے ان کی قراءت سنتے ہوئے جیکر وہ تلاوت کر رہے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

اٰخَبَرَ بِالَّذِي خَبَأَ نَفْسَهُ مِنَ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَرَاهُ حِيْنَ

خبر دی اس کافر شخص کے متعلق جس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا جمعہ کے دن تاکر آپ کو دیکھے

يُحْطَبُ وَيَسْمَعُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

خطبہ دیتے وقت اور خطبہ سنے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اٰخَبَرَ بَعْضَ حُقَاةِ الْبَوَادِي اَنَّ نَاقَتَهُ

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی بعض بادیاہ نشین برہنہ پا کو کہ اس کی اونٹنی

الدَّاهِبَةُ بِبَطْنِ الْوَادِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وادیا میں جا رہی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اٰخَبَرَ بِكِتَابِ ابْنِ بَلْتَعَةَ قَبْلَ

اور آل محمد پر جنہوں نے خبر دی عاصم بن ابی بلتعہ کے خط کی قبل

اَنْ يَّرَاهُ وَيَسْمَعُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اس کے کہ اسے دیکھیں اور سنیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اٰخَبَرَ بِاِسَارَةِ اَبِي لُبَابَةَ حِيْنَ حَدَّسَ

آل محمد پر جنہوں نے خبر دی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے اشارہ سے متعلق جیکر ڈرایا انہوں نے



أَصْحَابَهُ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ الْأَبْرَارَ بِمَا يَدَّيْتُهُ الْكُفَّارَ اللَّهُمَّ

اپنے ساتھیوں کو اور خیر دے دی آپ نے اپنے اصحاب البرار کو جو رات کو منصور بنایا کفار نے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے

قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ اِقْتَحِمِ الْأُجْمَةَ تَرَى عَجِيبًا اللَّهُمَّ صَلِّ

فرمایا حضرت ابوذر کو جنگل میں داخل ہو جاؤ تم عجیب منظر دیکھو گے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے

أَخْبَرَ أَنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ نُورٍ وَرِيحِ اللَّهِ صَلِّ وَ

خبر دی کہ پہلا آسمان نور اور ہوا سے بنا ہے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے

أَخْبَرَ أَنَّ السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ كَالْمِرْآةِ الْمُصَفَّى اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

بتلایا کہ چوتھا آسمان صاف شفاف شیشہ کی مانند ہے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی

أَنَّ فِيهِمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَدَدَ النَّبِيِّ فِي السَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ

کہ ان دونوں میں فرشتے اتنی تعداد میں ہیں جتنے دیگر سماوات میں ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے

أَخْبَرَ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ لَمْ يَرْفَعُوا أَبْصَارَهُمْ مِنْذُرٍ

خبر دی کہ پانچویں آسمان والوں نے اپنی نظریں بند نہیں کیں اللہ تعالیٰ سے حیا

خَلَقُوا أَحْيَاءً مِّنَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کی وجہ سے جب پیدا کئے گئے ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ فِي الْكُرْسِيِّ لَوْ لَوْ لَا

آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ کرسی خداوند تعالیٰ میں ہر ایک موتی ایسا ہے کہ نہیں

يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمَتِهَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جانتا اس کی مقدار کی عظمت کو مگر اللہ تعالیٰ۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ كُلُّونَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ چھٹا آسمان رنگت میں سبز

الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ وَ فِيهَا الْكُرُوبِيُّونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سونے کی مانند ہے اور اس میں مقرب فرشتے کروبیون موجود ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس آقا نے خبر دی کہ

الْعَرْشِ خَلِقَ مِنَ الثُّورِ السَّاطِعِ وَالضِّيَاءِ اللَّامِعِ اللَّهُمَّ

عرش کو غالب نور اور چمکتی ضیاء سے پیدا کیا گیا ہے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ مَوْضِعُ أَنْبِلَةٍ إِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ

جس محبوب نے خبر دی کہ آسمانوں میں آنکلی کے سرے جتنی بھی جگہ نہیں مگر اس میں فرشتے

سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

سجود یا رکوع میں ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ ثَمَانِينَ أَلْفَ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی ہے کہ عرش اعظم کے گرد اسی ہزار



سَرَادِقَ وَأَنَّ الْعَرْشَ خُلِقَ مِنْ جَوْهَرَةٍ خَضِرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر دے ہیں اور عرش سبز جوہر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ

بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ خَفَقَانُ الطَّائِرِ الْمُسْرِعِ

عرش کے پایوں میں سے دو پایوں کے درمیان تیز پرواز پرندے کی

أَلْفَ عَامٍ بِلَا امْتِرَاءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہزار سال پرواز کی مسافت ہے بلا شیبہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا حَوْلَ الْعَرْشِ مَلَائِكَةٌ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش کے گرد ایسے ملائکہ ہیں

عَلَى خِيُولٍ مِنْ بَرَابِيعٍ بِأَيْدِيهِمْ حِرَابٌ مِّنْ نُورٍ يَّحْتَوُونَ

جو ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہیں جن کے ہاتھوں میں نورانی نیزے ہیں جو ملائکہ کو

الْمَلَائِكَةَ عَلَى التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تسبیح پر آمادہ کرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا لِلْعَرْشِ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ عرش کی

أَلْفَ لِسَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہزار زبانیں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْعَرْشَ يُسَبِّحُ بِهِ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش اعظم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے

بِأَنْوَاعِ اللُّغَاتِ وَالبَيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تمام لغات اور انواع بیان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْعَرْشَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش اعظم

يُسَبِّحُ لِلَّهِ بِأَلْفِ نَوْءٍ مِّنَ النَّسْبِيعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتا ہے ہزار قسم کی تسبیحات کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ

أَنَّ الْعَرْشَ يُكْسَىٰ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ لَوْنٍ مِّنْ تَوْبَةٍ

عرش کو ہر دن ہزار قسم کے انوار پہنائے جاتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ إِسْرَافِيلَ يَتَّصَاغُرُ أَحْيَانًا مِّنْ

اطہار پر جس محبوب نے خبر دی ہے کہ حضرت اسرافیل بسا اوقات اللہ کی

هَيْبَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَصِيرُ مِثْلَ الْعَصْفُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ہیبت سے سٹسٹ جاتے ہیں حتیٰ کہ چڑیا کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے

أَخْبَرَ أَنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءُ عَلَى الرِّيحِ اللَّهُمَّ

خبر دی کہ عرش پانی پر ہے اور پانی ہوا پر ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ مِنَ الْيَاقُوتِ

جس محبوب نے خبر دی کہ پانچواں آسمان سُرخ یاقوت سے ہے

الْأَحْمَرُ وَأَهْلُهَا رَافِعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالنَّهْلِ وَالْأَحْمَرُ

اور اس پر بسنے والے لالا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کا ذکر بلند

التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آواز سے کرتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ عرش کے گرد

مَدِينَةٌ مِّنْ مَّسْكٍ أَذْفَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

خالص کستوری سے بنا ہوا شہر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ حَوْلَ

محمد و آل محمد پر جس آقا نے خبر دی کہ عرش کے گرد

الْعَرْشِ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَالِمٍ وَأَخْبَرَ أَنَّ الْحُورَ أَكْثَرُ

چھ لاکھ جہان ہیں اور خبر دی کہ حوریں زیادہ تعداد میں ہیں

مِنْ بَنَاتِ آدَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آدم کی بیٹیوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ سِتُّونَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ عرش اعظم کے گرد ساٹھ

أَلْفِ عَالِمٍ يَسْتَغْفِرُونَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَيَلْعَنُونَ

ہزار جہان ہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر کے مجہول کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان سے

لِبُغْضِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بعض رکھتے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ فِي الْعَرْشِ مِثْلَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ عرش میں مانند تعداد اس مخلوق



مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

کے ہے جو اللہ نے پیدا فرمائے خشکی اور تری میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الْمَلَكَةُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ ملائکہ

تَنْزِلُ إِلَى الْأَرْضِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آرتے ہیں زمین کی طرف عید الفطر اور عید الضحیٰ کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَنَا أَنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ الْكِرَامِ فِيمَا بَيْنَ

خبر دی کہ عرش اعظم کے حاملین ملائکہ میں سے ہر فرشتے کے

كَعْبِيهِ إِلَى قَدَمَيْهِ مَسِيرَةٌ سَبْعُمِائَةٍ عَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ٹخنوں سے قدموں تک سات سو سال کی مسافت ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ بَيْنَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَحَمَلَةِ الْكُرْسِيِّ سَبْعِينَ حِجَابًا

کہ حاملین عرش اور حاملین کرسی کے درمیان ستر حجاب

مَنْ ظَلَمَتْهُ وَسَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ نُورِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ

ظلمت سے ہیں اور ستر حجاب نور سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ اگر

لَوْلَا الْحُجُبُ لَأَحْتَرَقَ حَمَلَةُ الْكُرْسِيِّ مِنْ نُورِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ

حجابات نہ ہوتے تو حاملین کرسی جل جاتے عرش کے حاملین کرام ملائکہ کے

اَلْكَرَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

نورسے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ اٰخْبَرَ اَنَّ غِلْظَ كُلِّ حِجَابٍ مِنْهَا مَسِيْرَةٌ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ ہر حجاب کی موٹائی پانچ سو سال کی

خَمْسِمِائَةٍ عَامٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مسات ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ اٰخْبَرَ اَنَّ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ سَأَلَ

آل محمد پر جس آقا نے خبر دی کہ بعض ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے

اَللّٰهُ اَنْ يُرِيْهِ مِقْدَارَ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ فَخَلَقَ لَهُ ثَلَاثِيْنَ اَلْفَ

سوال کیا کہ اُسے عرش عظیم کی وسعت دکھلائے تو اللہ نے اس میں تیس ہزار

جَنَاحٍ فَطَارَ ثَلَاثِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَلَمْ يَقْطَعْ قَائِمَةٌ مِّنْ قَوَائِمِ

پر پیدا کئے پس اس نے تیس ہزار سال پرواز کی اور نہ طے کر سکا عرش کریم کے پایوں میں سے

اَلْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ایک پائے کی مسافت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ اٰخْبَرَ اَنَّ الزُّنْبَجَرَ مِنْ وُلْدِ حَامٍ اَللّٰهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ زنجی لوگ حام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

اٰخْبَرَ اَنَّ نُوْرَ الْعَرْشِ خُلِقَ قَبْلَ الْكَرْسِيِّ بِالْفِئَةِ عَامٍ اَللّٰهُمَّ

خبر دی کہ عرش کا نور کرسی (کے نور) سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے

أَخْبَرَ أَنَّ مَقَامَ جِبْرِائِيلَ فِي وَسْطِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ

خبر دی کہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام سدرۃ المنتہی کے درمیان میں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ مِقْدَارَ الْقَلَمِ الَّذِي يَكْتُبُ أَعْمَالَ الْإِنَامِ مَسِيرَةَ خَمْسِ

کہ مقدار اس قلم کی جو مخلوق کے اعمال لکھتی ہے پانچ

مِائَةِ عَامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سوسال کی مسافت کے برابر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ نُورَ الْعَرْشِ لَوْ ظَهَرَ لِأَهْلِ

کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ اگر عرش کا نور اہل دُنیا پر

الدُّنْيَا وَاسْتَهَلَ لَضَعْفَ نُورِ الشَّمْسِ مَعَهُ كَمَا يَضَعْفُ

ظاہر اور نمودار ہو تو یقیناً کمتر ہو جائے گا آفتاب کا نور اس کے سامنے جیسے کہ ضعیف و

ضَوْءُ السِّرَاجِ مَعَهَا أَوْ أَقْلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

خفیر ہوتی ہے چراغ کی روشنی سورج کے سامنے بلکہ اس سے بھی کمتر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ قَائِدَةٍ مِّنْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آفتانے خبر دی کہ کرسی کے پایوں میں سے ہر پایہ

قَوَائِمِ الْكُرْسِيِّ طُولُهَا مِثْلُ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ

کی درازی زمین اور آسمانوں کی مجموعی مقدار کی مانند ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي جَوْفِ الْكُرْسِيِّ كَحَلْقَةٍ فِي أَرْضِ

کہ تمام آسمان اور زمینیں کرسی کے اندر یوں ہیں جیسے کہ چٹیل میدان میں

قَدَاةَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

انجھٹی کا حلقہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ الْكُرْسِيَّ يَحْمِلُهُ اَرْبَعَةٌ اَمْلاَكٌ لِكُلِّ مَلِكٍ

پر جس آفتانے خبر دی کہ کرسی کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک کے چار

اَرْبَعَةٌ وَّجُوهُ نُوْرُهُمْ يَتَلَاوَا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

منہ ہیں جن کا نور چمکتا دھکتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ اَقْدَامَهُمْ عَلٰی

محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے خبر دی کہ ان کے قدم اس

الصَّخْرَةِ الَّتِيْ تَحْتِ الْاَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلٰی اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پتھر پر ہیں جو ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ مَلَكًا مِّنْهُمْ عَلٰی صُوْرَةِ اٰدَمَ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ ان میں سے ایک فرشتہ آدمی کی صورت پر ہے

وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ وَالْمَطْرَ مِنْ السَّنَةِ اِلَى السَّنَةِ لِاَنَّ اَمَ اللّٰهُمَّ

اور وہ طلب کرتا ہے رزق اور بارش مخلوق کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آفتانے

اَخْبَرَ اَنَّ مَلَكًا مِّنْهُمْ عَلٰی صُوْرَةِ الثَّوْرِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ

خبر دی کہ ان میں سے ایک فرشتہ بیل کی صورت پر ہے جو کہ رزق طلب کرتا ہے

مِنَ السَّنَةِ اِلَى السَّنَةِ لِاَنَّ اَمَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ایک سال سے دوسرے سال تک چار پاویں کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ مَلَكًا مِّنْهُمْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آفتانے خبر دی کہ ان میں سے ایک فرشتہ

عَلَى صُورَةِ السَّبْعِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ أَيْضًا لِلْوَحْشِ وَالْهَوَامِّ

دزدہ کی صورت پر ہے جو کہ رزق طلب کرتا ہے جنگلی جانوروں اور زہریلے جانوروں کے لیے بھی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَخْبَرَنَا مَلَكًا مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ النَّسْرِ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ

جنہوں نے خبر دی کہ ان میں سے ایک فرشتہ گدھ کی صورت پر ہے جو کہ پرندوں کے لیے

أَيْضًا لِلطَّيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رزق طلب کرتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الرُّوحَ لَوْ سَمِعَ تَسْبِيحَةَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَصْفَا

پر جس آقائے خیر دی کہ اگر روح اعظم کی تسبیح زمین والے نہیں اور اس کی طرف کان لگائیں تو

إِلَيْهِ لَخَرَجَتْ أَرْوَاحُهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَا بَتَلَعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ان کی روہیں اجسام سے باہر آجائیں اور اگر وہ چاہے تو تمام آسمانوں اور زمین کو نکل جائے منہ

مِنْ أَحَدٍ شَدُّ قَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کی ایک جانب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا الرُّوحَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ

آپ کی آل اطہار پر جس آقائے خیر دی کہ روح اعظم جب ذکر باری تعالیٰ کرتا ہے تو

خَرَجَ مِنْ فِيهِ قِطْعَةٌ مِّنْ نُورٍ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ الْعِظَامِ

اس کے منہ سے نور کے عظیم قطعات برآمد ہوتے ہیں جو عظیم پہاڑوں کی مانند ہوتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ مَسِيرَةٌ سَبْعَةُ أَلْفِ عَامٍ

جنہوں نے خبر دی کہ روح اعظم کے قدموں کی جگہ سات ہزار سال کی مسافت ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر  
 الَّذِي أَخْبَرْنَا لَهُ أَلْفَ جَنَّةٍ عَلَى الْوَيْفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
 جنہوں نے خبر دی کہ اس کے کروڑوں پر جن میں لے اللہ صلوات و سلام  
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرْنَا أَنَّ  
 نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ روح اعظم  
 يَقُومُ الرُّوحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفًّا وَجَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ صَفًّا اللَّهُمَّ  
 کھڑا ہوگا قیامت کے دن ایک صف میں اور تمام ملائکہ دوسری صف میں۔ لے اللہ  
 صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي  
 صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے  
 أَخْبَرْنَا أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً لَّوَّانٍ وَاحِدًا مِنْهُمْ نَزَلَ إِلَى الدُّنْيَا لَمَّا  
 خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین کی طرف اترے تو  
 وَسِعَتْهُ مِنْ عَظَمَتِهِ وَكِبَرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
 وہ اس کی گنجائش نہ رکھے اس کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرْنَا أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَحْتَ  
 محمد و آل محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فرشتہ ہے عرش اعظم  
 الْعَرْشِ مُكْرَمًا لَدَيْهِ ذَوَاتُ أَيْبَةٍ قَدْ أَحَاطَتْ بِالْعَرْشِ تَحْتَ  
 کے نیچے جس کے بال عرش کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اس کے ہر بال  
 كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهَا مَكْتُوبٌ لَدَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ  
 کے نیچے لے اللہ لے اللہ رسول اللہ محمد لکھا ہوا ہے۔  
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر





لِكُلِّ جُلُجِلٍ مِّنْهَا صَوْتٌ لَا يَشْبَهُهُ الْآخِرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جن میں سے ہر ایک کی آواز دوسری کے مشابہ نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ اللُّوحَ الْمَحْفُوظَ مِنْ دُرِّ بَيْضَاءَ وَالْقَلَمَ الْمُنِيرَ مِنْ

کہ لوح محفوظ سفید موتی سے ہے اور روشن قلم بھی نورانی

جَوْهَرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جوہر سے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ جُلُجِلٍ مِّنْهَا مَحْشُورٌ بِالْمِسْكِ وَالْعُنْبُرِ

پر جنہوں نے خبر دی کہ ان میں ہر گھنٹی بھری ہوئی ہے کستوری اور عنبر سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ دُقَّتِي اللُّوحِ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ اللَّهُمَّ

جس آفتانے خبر دی کہ لوح محفوظ کی دونوں جانبیں سُرخ یاقوت سے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آفتانے

أَخْبَرَ أَنَّ غَدَاءَ الْمَلَائِكَةِ التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

خبر دی کہ ملائکہ کی غذا تسبیح ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ تَسْبِيحَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آفتانے خبر دی کہ آسمان اول کے ملائکہ کی

مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ اللَّهُمَّ

تسبیح یہ ہے۔ پاک ہے ملک شہادت اور ملک غیب کا مالک۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد و آل محمد پر جس آقائے

أَخْبَرَ أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ

خبر دی کہ دوسرے آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے۔ پاک ہے مالک عزت

وَالْجَبْرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور تسلط و غلبہ کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ

کی آل اطہار پر جس آقائے خبر دی کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح

الثَّلَاثَةِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

یہ ہے۔ پاک ہے دائمی حیات والا جو نہیں مر سکتا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ تَسْبِيحَ

فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقائے خبر دی کہ چوتھے

مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ سُبُوْحٌ قَدْ وَسَّ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ

آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے۔ بہت منزہ اور مقدس ہے ہمارا پروردگار اور تمام ملائکہ اور

وَالرُّوْحِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

روح اعظم کا پروردگار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ

آل اطہار پر جس آقائے خبر دی کہ پانچویں آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے

سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ التَّلْجِ وَالتَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پاک ہے وہ جس نے برف اور آگ کو جمع فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ تَسْبِيحَ

سیتنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ چھٹے آسمان کے ملائکہ کی

مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ كُلِّ

تیس یہ ہے۔ پاک ہے شہنشاہ جو بہت مقدس ہے جو ہر شئی کا

شَيْءٍ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رب ہے اور اسی کی طرف ہے قبروں سے اٹھنا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے خبر دی کہ ساتویں آسمان کے ملائکہ کی تیسب

السَّابِعَةِ سُبْحَانَ خَالِقِ الثُّورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

یہ ہے۔ پاک ہے نور کا خالق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ سمندروں پر مامور ملائکہ

الْبَحَارِ سُبْحَانَ مَنْ يُذْهِبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ اللَّهُمَّ

کی تیسب یہ ہے۔ پاک ہے جو لے جاتا ہے رات کو اور لاتا ہے دن کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے

أَخْبَرَنَا الْبِعْرَاجِ أُرْسِلَ مِنَ الْفُرْدُوسِ مَنْضُودًا بِاللُّوْلُؤِ وَ

خبر دی کہ شب اسراء سیرٹھی بھیجی گئی فردوس اعلیٰ سے جو مرصع تھی لؤلؤ اور

الْيَاقُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

یاقوت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ عَالَمًا الدُّنْيَا

آل اطہار پر جس محبوب نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے چالیس جہان ہیں جن میں سے

مِنْهَا عَالَمٌ وَاحِدٌ بِلَا أَرْتِيَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دنیا ایک جہان ہے بلا شبر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَلْشِبَانَةَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے عین سو عالم حفاة عرآة لَا يَدْرُونَ مَنْ خَلَفَهُمْ وَسُئُونَ عَالِمًا

جہان ہیں برہنہ یا اور برہنہ تن نہیں جانتے اپنے پیچھے والوں کو اور ساٹھ جہان ہیں يَلْبَسُونَ الثِّيَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جو لباس پہنتے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي خَبْرَةٍ لِلْوَرَىٰ مَا الْعِمَارَةُ مِنْ

آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا مخلوق کو خبر دیتے ہوئے کہ آبادی کا تناسب الْخَرَابِ إِلَّا كَفْسَطِطٍ فِي أَرْضٍ صَحْرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دیرانے کے ساتھ وہی ہے جو عجم کا وسیع صحراء کے ساتھ ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ بَفَتْحِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی جزیرہ عرب فتح ہونے

جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَمَالَتْ عُمَيْرَةُ بِنْتُ أَبِي الْحَكَمِ بِدُعَائِهِ إِلَىٰ

کی اور ماں ہوئی عمیرہ بنت ابی الحکم اپنے باپ کی طرف آپ کی دُعا

الْأَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَا فِي الْمَدِينَةِ شَعْبٌ وَلَا ثَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ

پر جس آقا نے فرمایا کہ نہیں ہے مدینہ میں کوئی پہاڑی راستہ اور نہ پہاڑوں کا درمیان راستہ مگر اس پر

مَلَكَانِ وَمُطْرَبِهِ بِلَادٌ وَفِدَا سَلَامَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

دو فرشتے ہیں اور بارش عطا کئے گئے آپ کے وسیلہ سے وفد سلامان کے علاقے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَمَ أَصْحَابَهُ فِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا نے خبر دی اپنے صحابہ کو ایک



سَفِيرًا تُمْ يَفْقَدُونَ الْمَاءَ فِي غَدٍ وَقَامَ بِهِ الطَّيِّبُ لِعُتْبَةَ بْنِ فَرْقِدٍ

سفر میں کہ وہ کل پانی کو حاصل نہیں کر سکیں گے اور آپ کی وجہ سے عتبہ بن فرقہ کو خوشبو حاصل ہوئی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي عَطِشَ حِينَ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَنَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ

جو آقا پیاسے ہوئے جب طائف سے لوٹے تو پھوٹ پڑا آپ کی انگلیوں کے

الْمَاءُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ اللَّهُمَّ

درمیان سے پانی جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي كَلَّمَ عَقِيلُ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ بِهِ الْجَبَلُ اللَّهُمَّ صَلِّ

جس آقا کے طفیل کلام کیا عقیل بن ابی طالب کے ساتھ پہاڑ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا

لِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ حِينَ سَأَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قَوْمِهِ وَيَدْعُوَهُمْ

عروہ بن مسعود کو جب انہوں نے اپنی قوم کی طرف لوٹنے کی اجازت طلب کی اور انہیں دعوت دینے کی

إِلَى الْإِسْلَامِ إِنْ فَعَلْتَ فَأَتَهُمْ قَاتِلُوكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

طرف اسلام کے کہ اگر تو نے ایسے کیا تو وہ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَتْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے پاس درخت حاضر ہوا

إِلَيْهِ شَجَرَةٌ حِينَ قَالَ لَهَا عَقِيلٌ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ يَدْعُوكَ

جب کہ اسے عقیل نے آپ کے حکم سے یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ تجھے بلاتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا

زَوْدَعْمَرٍ بِأَمْرِهِ مِنَ التَّمْرِ الْقَلِيلِ أَرْبَعُمِائَةٍ رَأَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کے علم سے حضرت عمر نے قلیل سی کھجوروں سے زار راہ بخشا چار صد سواروں کو اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ يَوْمًا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس آقا نے فرمایا ایک دن

لِأَصْحَابِهِ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ مِّنْ هَذَا الْوَادِي رَجُلٌ فَأَشْرَفَ

اپنے صحابہ کو کہ نمودار ہو گا تم پر اس وادی سے ایک عظیم انسان تو

عَلَيْهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نمودار ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَمَ بِكَتْرِ أَبِي الْحَقِيقِ بِخَيْرٍ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے خبر دی ابو الحقیق یہودی کے خزانہ کی خیر میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَشْبَعَ ثَلَاثَةَ رَجَالٍ فِي يَوْمٍ ثُمَّ عَشْرَةَ فِي الثَّانِي بِسَبْعِ

جس آقا نے سیر فرمایا تین آدمیوں کو ایک دن میں پھر دس آدمیوں کو دوسرے دن میں

تَمَرَاتٍ بِلَالٍ فِي السَّفَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دوران سفر حضرت بلال کی سات کھجوروں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ لِبُهَيَّةِ الْبَكْرِيَّةِ سِتُّونَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس آقا کی دعائے برکت سے بیہیہ بکریہ کے ساٹھ فرزند

وَلَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یہاں ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



الَّذِي أَرَادَ أَبُو جَهْلٍ رُمِيَ الصَّخْرَةَ إِلَيْهِ فَأَنْقَلَبَتْ عَلَيْهِ صَدْرًا  
جس محبوب کی طرف ابو جہل نے پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا تو وہ اس کے سینہ

وَيَدِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
اور ہاتھوں پر الٹ گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلِمَةُ صَبِيِّ ابْنِ شَهْرَبِينَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ  
پر کہ جس آقا کے ساتھ دو ماہ کے بچے نے کلام کیا اور انہیں سلام پیش کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَارِبَهُ  
و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس آقا کی بدولت روال دوال

الْفَرَسُ الْأَعْجَبُ لِجَعِيلِ الْأَشْجَعِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
ہو گیا انتہائی دولا اور لاغیر گھوڑا جمیل اشجعی کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُبِحَ بِهِ بَدَايِكَ  
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت نفع اندوز ہوا اس گھوڑے

الْفَرَسِ جَعِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  
کے ساتھ جمیل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا هَمَّ أَرْبَدُ ابْنُ قَيْسٍ أَنْ يَضْرِبَهُ وَجَدَ  
آل اطہار پر کہ جس محبوب کو جب اربد بن قیس نے تلوار مارنے کا قصد کیا تو پایا

بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ عَامِرُ بْنُ طَفِيلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
آپ کے اور اپنے درمیان عامر بن طفیل کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَلَكَ بِدُعَايِهِ  
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد آل پر جس آقا کی دُعا سے ہلاک ہو گیا

أَرْبَدُ بِالصَّاعِقَةِ وَعَامِرٌ بِالطَّاعُونَ فَاسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَمُحُو  
اربد بجلی کے کڑکے کے ساتھ اور عامر طاعون کے ساتھ پس میں سوال کرتا ہوں اے اللہ کہ مٹا دے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَلَكَ بِدُعَايِهِ  
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد آل پر جس آقا کی دُعا سے ہلاک ہو گیا

مِنْ قَلْبِي كُلِّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ وَأَنْ تَحْشَوْ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَ

میرے دل سے ہر وہ شئی جسے تو ناپسند فرمائے اور بھردے میرے دل کو اپنی خشیت

مَعْرِفَتِكَ وَرَهْبَتِكَ وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْأَمْنَ وَالْعَافِيَةَ

معرفت اور خوف کے ساتھ اور اپنے ہاں کی نعمتوں میں رغبت اور امن و عافیت کے ساتھ

وَأَعْطِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَاتِ مِنْكَ وَالْهِمْنَا الصَّوَابَ

اور مہربانی فرما ہم پر اپنی رحمت اور برکت کے ساتھ اور ہمیں الٹا صواب

وَالْحِكْمَةَ فَتَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمَ الْخَائِفِينَ وَإِنَابَةَ الْمُخْبِتِينَ وَ

اور حکمت کا۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اہل خوف کے علم اور اہل تواضع کی انابت کا اور

إِخْلَاصَ الْمُؤَقِنِينَ وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ وَتَوْبَةَ الصَّادِقِينَ

اہل یقین کے اخلاص کا اور اہل صبر کے شکر اور صدیقین کی توبہ کا۔

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ

اے اللہ میں حاضر بارگاہ ہوں اور تیری عبادت و خدمت کرتا ہوں اور خیر تمام تیرے قبضہ میں ہے اور تیری طرف

وَإِلَيْكَ اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ أَوْ

سے ہے اور تیری طرف اس کی بازگشت ہے۔ اے اللہ میں نے جو قول کیا یا حلف اٹھائی یا

نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَامْسِئْتِكَ بَيْنَ يَدَيِ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا شِئْتَ

کوئی نذرمانی تو تیری مشیت و ارادہ ان تمام کے آگے ہے۔ جو تو نے چاہا

كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَا يَكُونُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ إِنَّكَ

وہ موجود ہوا اور جس کا وجود نہ چاہا تو وہ موجود نہیں ہوگا اور نہیں طاقت و قوت مگر تیری توفیق سے بیشک

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ

تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا اور تیرے ساتھ ایمان لایا

وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ

تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری توفیق سے مناصمت کی اور تیری طرف

حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ

فیصلہ کے لیے رجوع کیا پس مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کئے یا بعد میں کئے اور جو خفیہ طور پر کئے

وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ

یا علانیہ طور پر کئے اور جو میں نے حد سے تجاوز کیا اور جسے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو ہی

الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

مقدم کرنے والا اور مؤخر کرنے والا ہے نہیں معبود برحق مگر تو اور نہیں قوت و طاقت مگر

بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکتیں نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ إِنَّ قَرِيْشًا بَعْدَ هَذَا كَأَنَّ

محمد پر جس آقائے فرمایا احد کے دن کہ قریش اس کے بعد نہ

يُنْصَرُونَ وَلَا يَغْلِبُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

نصرت دئے جائیں گے اور نہ ہی غالب آئیں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا نَقَصَ الطَّعَامُ بِأَكْلِهِ وَسَكَنَ حِرَاءَ

آپ کی آل اطہار پر نہ کم ہوا کھانا آپ کے کھانے سے اور ساکن ہو گیا کوہ حراء

بِرُكُضِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آپ کے ایڑی مارنے سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَ الْمَعْوِزَ رَاعِيًا قَصَدَ ذَبْحَهَا مِنْ أَجْلِ اللَّهِ

پر کہ آپ کی وجہ سے کلام کیا بکری نے چرواہے کے ساتھ جس نے قصد کیا اس کے ذبح کرنے کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَى

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس آقائے دیکھے

فَوْقَ سَأْسِ نَضْرِبُ بْنُ الْحَارِثِ حَيَّاتِ سُودٍ فِي الْهَوَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

نضرب بن الحارث کے سر پر سیاہ سانپ ہوا میں۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا

لِخُرَيْمِ بْنِ اَوْسٍ حِيْنَ اسْتَوْهَبَهُ تَشِيْمَاءُ هِيَ لَكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

خریم بن اوس کو جبکہ اس نے آپ سے شیماء کے ہمہ کا مطالبہ کیا کہ یہ تیرے لیے ہے۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ مَا نَقَصَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس آقا کے طفیل دم کم ہوا

مِنْ قُرْبَةِ الْغُلَامِ الْاَسْوَدِ بِهٖ الْمَاءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

سیاہ غلام کی مشک سے پانی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ مَا جَلَسَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس محبوب کے کپڑوں پر کبھی کبھی

الدُّبَابُ عَلٰی ثِيَابِهٖ وَمَا ضَعَفَ الْمَرْكَبُ الَّذِيْ رَكِبَ عَلَيْهِ

نہ بیٹھی اور نہ ناتواں و لاغر ہوئی وہ سواری جس پر آپ سوار ہوئے

وَمَا شَابَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اور نہ بوڑھی ہوئی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ بَيَّضَ اَذَانَ الْغَنَمِ وَاِبْرَءَ سَاقِ عَلِيٍّ بْنِ

کی آل اطہار پر جس محبوب نے سفید فرمادئے بھیڑ بکریوں کے کان اور دست فرمادی علی بن حکم کی

اَلْحَكَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

پنڈلی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَرَوٰى اَهْلَ الصُّفَّةِ وَاَبَا هُرَيْرَةَ اِذَا جَلَسَ

اطہار پر جس محبوب نے سیراب فرمایا اہل صفہ کو اور ابو ہریرہ کو جبکہ بیٹھے تھے

لِلْجُوعِ عَلٰی الطَّرِيْقِ بِقَدْحٍ مِّنَ اللَّبَنِ الَّذِيْ اُهْدِيَ اِلَيْهِ

بھوک کی شدت کی وجہ سے راستہ پر ساتھ دودھ کے پیالہ کے جو بطور ہدیہ آپ کو پیش کیا گیا تھا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي دَلَّ طَائِرُ حَيْنٍ سَقَطَ عَبَّاسٌ بْنُ مِرْدَاسٍ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

کہ جس محبوب کی طرف رہنمائی کی پرندے نے جبکہ وہ گرا عباس بن مرداس پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب نے

أَحْيَى عَنَاقَ الْأَنْصَارِيِّ وَبَيَّنَّ الذُّبَّ شَانَهُ لِلرَّاعِي

زندہ فرمائی انصاری کی نوخیز بجرى اور بیان کی بھیڑیے نے آپ کی شان چرواہے کے سامنے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَالَ لِهَذَا الرَّاعِي عُدْ إِلَى غَنَمِكَ تَجِدْهَا بِوَفْرٍهَا

جس محبوب نے فرمایا اس چرواہے کو تو اپنی بھیڑ بجرىوں کی طرف لوٹے گا تو پائے گا انہیں وافر مقدار میں

فَوَجَدَهَا كَذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تو اس نے انہیں ایسے پایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَرَكَ لَحْمَ الشَّاةِ الَّتِي أُخِذَتْ بِغَيْرِ

آپ کی آل پر جس محبوب نے ترک فرمایا اس بجرى کے گوشت کو جو لی گئی تھی

إِذْنِ الْمَالِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مالک کی اجازت کے بغیر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ الصَّنَمُ بِرِسَالَتِهِ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ

آل محمد پر کہ جن کی رسالت کی خبر دی بت نے عباس بن مرداس کو

وَبَقِيَ بَدْعَائِهِ الْخِلَافَةُ فِي عَقَبِ الْعَبَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور باقی رہی آپ کی دعائے مبارک سے خلافت حضرت عباس کی اولاد میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُوجَدُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے منہ مبارک سے

مِنْ فِيهِ لِلنُّومِ رَاحَةٌ الطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

محبوس ہوتی نیند کے وقت طعام کی خوشبو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْرَجَ السِّحْرَ مِنْ بَيْرِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے نکالا سحر (کے مادہ) کو

ذُرْوَانَ وَطَالَ بِهِ عُمُرُ أَبِي الْيَسْرِ وَقَالَ لِأُمَّ حَرَامٍ بَدَنَتْ

ذروان نام والے کنوئیں سے اور لمبی ہوئی آپ کی برکت دعا سے عمر ابو الیسر کی اور فرمایا ام حرام بنت

مَلْحَانَ أَنْتِ مِنَ الْأَوْلِيَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ملحان کے لیے کہ تو پہلے سمندری جہاد کرنے والے گروہ سے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْبَعَ بِصَاعٍ مِنَ التَّمْرِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے سیر فرمایا چار سیر کھجوروں سے

جَيْشَهُ وَكَانَ لَا يَتَمَرَّقُ كُلُّ لَبِاسٍ لِبَسَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اپنے سارے لشکر کو اور نہیں پھٹتا تھا کوئی لباس جسے آپ زیب تن فرماتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے فرمایا

لِعَلِيٍّ إِنَّكَ تُقَاتِلُ الْمَارِقِينَ مِنَ الدِّينِ وَيُقْتَلُ فِيهِمْ رَجُلٌ

حضرت علی کو بیشک تم قتال کرو گے دین و طاعت سے نکلنے والوں کے ساتھ اور قتل کیا جائے گا ان میں

أَسْوَدٌ أَحَدِي عَصْدِيهِ مِثْلُ ثَدْرِي الْمَرَأَةُ تَدْرُدُّرُ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیاہ نام شخص جس کا ایک بازو عورت کے پستان کی مانند ہوگا اور لرزتا ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَتَرَتْهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہیں چھپایا

الْأَشْجَارِ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَفَارَ الْمَاءَ مِنْ بِيْرِ الْحَدِيدِيَّةِ

درختوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر قضاے حاجت کے وقت اور اُبٹنے لگا پانی حدیبیہ والے کنوئیں سے

لَمْ يَضُمَّتْهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کی کلی کی وجہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْحَسَنِ لَعَلَّ اللَّهَ يُصَلِّحُ بِهِ بَيْنَ

آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت

فَتَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

صلح کراوے گا اہل اسلام کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَضَاءَ بِهِ كَالْمِرْآةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت چمک اٹھا مانند آئینہ کے

وَجْهَهُ قَتَادَةُ بْنُ مِلْحَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قتادہ بن ملحان کا چہرہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِقِرَائَةِ يَوْمٍ وَقَدْ أَصَابَهَا

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے دعا فرمائی امّ الیوب کے لیے جن کو پہنچی تھی

كَسْرُ فَصَحَتْ وَقَامَتْ إِلَيْهِ فِي الْإِنِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تکسکی (عضو میں) آپس درست ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی ان کی طرف فوراً۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْقَتِ الْحَيَّةُ بِأَمْرِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے امر و حکم سے سانپ نے گرا دی

السَّمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

اپنی زہر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ أَنَا مَعَ كُلِّكُمْ عِنْدَ الْمَنَاضِلِ لَجْمِعٍ مَنْ أَسْلَمَ

پر جنہوں نے فرمایا کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں تیرا اندازی کے مقابلہ کے وقت قبیلہ اسلم کی جماعت کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِى نَفَى الْمَرَضَ مِنْ وَوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ بِالدُّعَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہوں نے دور فرمایا ولید بن قیس سے مرض کو دوما کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى أَخَذَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ اٹھایا عقاب

عُلَابٌ خَفِيَّةٌ فَنَفَضَتْهُ فِي الْهَوَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نے جن کے مخفی کو پس جھاڑا انہیں ہوا میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ

تُقَاتِلُوا قَوْمًا نَبَعَالَهُمُ الشُّعْرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تم جنگ کرو گے اس قوم کے ساتھ کہ جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى نَاحَتْ بِهِ فَاطِمَةُ الزُّهْرَاءُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کے لیے اطہار غم و اندوہ کیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِى ضَرَبَ عَلِيًّا بِالرَّجْلِ إِذْ كَانَ شَاكِيًا فَمَا اشْتَكَى الْوَجْعَ

کہ جس آقا نے حضرت علی کو پاؤں کی ٹھوکہ ماری جب کہ آپ بیمار تھے تو کبھی درد کی شکایت نہ ہوئی انہیں

بَعْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اس کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى قَالَ لِحَدِيْفَةَ مَا حَاجَتِكَ غَفَرَ اللَّهُ

آل پر جنہوں نے فرمایا حدیفہ رضی اللہ عنہا کو کہا ہے تیری آمد کا مقصد بخشے اللہ تعالیٰ

لَكَ وَلَا مَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تھے اور تیری امتی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَتْ إِلَيْهِ نَخْلَةٌ لِدَا عَوْتِهِ وَشَهِدَا

کی آل پر کہ جن کی بارگاہ میں کھجور حاضر ہوئی ان کے بلانے پر اور گواہی دی

صَمَّ حَصِينٍ بِنُبُوتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حصین کے بت نے آپ کی نبوت کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ وَافِدُ السَّبَاءِ وَشَكَى

اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی خدمت اقدس میں درندوں کا نمائندہ حاضر ہوا اور شکایت کی

إِلَيْهِ جَمَلٌ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ان کی خدمت میں اونٹ نے غزوة ذات الرقاع میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَالَ بِهِ عُمُرُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی برکت دعا سے دراز ہو گئی

أُمِّ حَارِثَةَ وَأُخْتَهُ وَيَبْنَ لِرَبِّي سُفْيَانَ مَا قَالَ فِي شَانِهِ

ام حارثہ کی اور ان کی بہن کی عمر بیان فرمایا آپ نے جو کچھ کہا تھا ابوسفیان نے آپ کی شان میں

لِرُؤُوسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنی بیوی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْسِلَ فِي أَثَرِ الْعَرَبِيِّينَ كُرْزِ بْنِ جَابِرٍ وَقَالَ لَبَيْكَ

آل پر جنہوں نے بھیجا اہل عربینہ کے پیچھے کرز بن جابر کو اور فرمایا آپ نے (مدینہ میں) لبتیک

لَبَيْكَ لِرَاجِزِ بْنِ كَعْبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں حاضر ہوں واسطے نبی کعب کے فریادی کے (مکہ میں) اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ مِنَ الدَّاعِي

اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے فرمایا نماز عصر ادا کرنے کے بعد کون سے دعا کرنے والا

عَلَىٰ هَذَا الْكَلْبِ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنَدِي حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ لَا أَشْتَكِيَّ

اس کتے کے خلاف - اے میرے الا اور سید و سند مجھ پر واجب ہے کہ میں نہ شکایت کروں

إِلَّا إِلَيْكَ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنَدِي لِأَنَّهُمْ عَلَيَّ أَنْ لَا أَتَوَكَّلُ

مگر تیری بارگاہ میں - اے میرے الا اور سید و سند مجھ پر لازم ہے کہ نہ توکل کروں

إِلَّا عَلَيْكَ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنَدِي وَاجِبٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَتَوَجَّهَ

مگر تجھی پر - اے میرے الا اور سید و سند مجھ پر واجب ہے کہ نہ توجہ کروں

إِلَّا إِلَيْكَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَيَأْمَنُ إِلَيْهِ يَلْجَأُ

مگر تیری ہی طرف - اے کہ جس پر توکل کرتے ہیں اہل توکل اور پناہ و سہارا حاصل کرتے ہیں طرف اس کے

الْخَائِفُونَ يَا مَنْ بِكَرَمِهِ وَجَمِيلِ عَوَائِدِهِ يَتَعَلَّقُ الرَّاجُونَ يَا

اہل خوف - اے کہ جس کے کرم اور جمیل انعامات کے ساتھ چمکتے ہیں امید دار لوگ - اے کہ

مَنْ يَسْلُطَانِ قَهْرِهِ وَعَظِيمِ رَحْمَتِهِ وَبِرِّهِ يَسْتَعِيْثُ الْمَضْطَرُّونَ

جس کے غلبہ قہر اور عظیم رحمت اور احسان کے ساتھ مدد طلب کرتے ہیں مجبور لوگ

يَا مَنْ بُوْسَعِ عَطَائِهِ وَجَمِيلِ فَضْلِهِ وَنِعْمَائِهِ تَبْسُطُ الْأَيَادِي

اے کہ جس کی وسیع عطا اور فضل جمیل اور نعمتوں کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں -

وَيَسْأَلُ السَّائِلُونَ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ

اور سوالی سوال کرتے ہیں - اے میرے الا اور سید و مولیٰ مجھے بنا اپنے اوپر

تَوَكَّلَ عَلَيْكَ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنَدِي لِأَنَّهُمْ عَلَيَّ أَنْ لَا أَتَوَكَّلُ

توکل کرنے والوں سے - اے میرے الا اور سید و سند میری امید کو رسوا نہ کرنا

إِذَا صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنَدِي أَمِنْ خَوْفِي

جب میں تیری بارگاہ میں منتقل ہوں، اے میرے الا اور سید و سند میرے خوف کو امن

إِذَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْكَمَالَ بِالْوَصَالِ

بنا دینا جب میں پہنچوں تیری بارگاہ میں - اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کمال و وصل کا -

اللَّهُمَّ إِنَّا ضَالُّونَ فَاهِدِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا فَقْرَاءُ فَاعْزِزْنَا اللَّهُمَّ

اے اللہ ہم گمراہ ہیں لہذا ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں لہذا ہمیں معنی بنا۔ اے اللہ

إِنَّا مُذْنِبُونَ فَاعْفِرْ لَنَا يَا نُورُ يَا هَادِي يَا غَنِيُّ يَا قَوِيُّ اللَّهُمَّ

ہم گنہگار ہیں لہذا ہمیں بخش۔ اے نور۔ اے ہادی۔ اے غنی۔ اے قوی۔ اے اللہ

بِرُوحٍ مِّنْكَ أَيْدِنَا اللَّهُمَّ مِنْ عِلْمِكَ الْيَكُونُ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ

اپنے مخصوص روح کے ساتھ ہماری تقویت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے حقیقی علم سے سکھلا۔ اے اللہ

وَعَلَىٰ دِينِكَ الَّذِي أَرْتَضِيَّتَهُ تَبَتَّنَا اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مَسْنُ

اور اس دین پر جس کو تو نے پسند فرمایا ہے ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ اور بنا ہمیں ان لوگوں سے

سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنْكَ الْحُسْنَىٰ اللَّهُمَّ أَحِينَا فِي الدُّنْيَا مَوْمِنِينَ

کہ سبقت لے گئی ان کے لیے تیری طرف سے نیک جزاء۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دُنیا میں حالت ایمان

طَائِعِينَ اللَّهُمَّ تَوْفِنَا مُسْلِمِينَ تَأَيِّبِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا

و طاعت پر۔ اے اللہ ہمیں وفات دینا حالات اسلام اور توبہ پر۔ اے اللہ بنانا ہمیں

عِنْدَ السُّؤَالِ ثَابِتِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ

سوال کے وقت ثابت قدم۔ اے اللہ بنانا ہمیں بڑی گھبراہٹ کے دن

مِنَ الْأَمْنِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَسْنُ يَأْخُذُ الْكِتَابَ بِالْيَمِينِ

امن والوں سے۔ اے اللہ ہمیں بنانا ان لوگوں سے جو نامہ اعمال پکڑیں گے دائیں ہاتھ سے

اللَّهُمَّ ثَبَّتْ أَقْدَامَنَا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ ادْخُلْنَا

اے اللہ ثابت رکھنا ہمارے قدموں کو صراطِ مستقیم پر۔ اے اللہ ہمیں داخل

بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ نَجِّنَا بِحَلْمِكَ وَعَفْوِكَ

فرمانا اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ جناتِ نعيم میں۔ اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما اپنے حلم اور عفو کے فضل

مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَنْ كَرِبَ اللَّعِيمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ

عذاب الیم اور قابلِ طاقت و رد و کرب سے دُنیا و آخرت میں۔ اے اللہ



إِنَّا أَصْبَحْنَا لَا نَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِنَا دَفْعًا وَلَا رَفْعًا وَلَا خَضًّا وَلَا نَفْعًا

ہم نے صبح کی اس حال میں کہ نہیں مالک اپنے لیے دفاع کے اور ترقی کے اور نہ ضرر کے اور نہ نفع کے

فُقَرَاءُ لَا شَيْءَ لَنَا ضَعْفًا وَلَا قُوَّةَ لَنَا وَأَصْبَحَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ

فقیر ہیں کوئی شئی ہماری نہیں نا تو ان ہیں کوئی قوت ہم میں نہیں اور ہے خیر تمام تیرے دست قدرت میں

وَأَمْرُ كُلِّ شَيْءٍ رَاجِعٌ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِمَا أَمَرْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ

اور ہر چیز کا معاملہ تیری طرف لوٹنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے اس کی جس کا امر فرمایا۔ اے اللہ

أَعْنَانَا عَلَى مَا كَلَّفْتَنَا اللَّهُمَّ أَغْنِنَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ بِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ

ہماری اعانت فرما اس پر جس کا مکلف ٹھہرایا اے اللہ ہمیں غنی فرما ہر چیز سے اپنے فضل کے ساتھ۔ اے اللہ

اجْبُرْ مَا فَاتَ مِنَّا بِكَرَمِكَ وَعِنَايَتِكَ اللَّهُمَّ أَيَّدْنَا بِالتَّوَجُّهِ إِلَيْكَ

پورا فرما جو فوت ہوا ہم سے ساتھ اپنے کرم و عنایت کے۔ اے اللہ ہمیں تقویت بخش اپنی طرف توجہ کی

بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَنُصْرَتِكَ بِحُرْمَةِ بَيْتِكَ صَلَّى اللَّهُ

اپنی طاقت و قوت اور قدرت و نصرت کے ساتھ بطفیل حرمت نبی صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ وَمَا قَصُرَتْ هَمَّتْنَا عَنْهُ يَا رَبَّنَا وَرَأَيْنَا لَهُ لَمْ

علیہ وسلم کے۔ اے اللہ جس سے ہماری ہمت و طاقت قاصر ہے اے ہمارے رب اور ہم نے دیکھا کہ نہیں

تَبْلُغُهُ مَسْأَلَتْنَا مِنْ خَيْرٍ وَعَدَّتْهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرًا أَنْتَ

پہنچا اس تک ہمارا سوال یعنی وہ خیر اور بھلائی کہ جس کا وعدہ دیا تو نے مخلوق میں سے کسی کو اور وہ خیر کہ تو

مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنَّا نَرْغِبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَ

عطا فرمائے گا اپنے بندوں میں سے کسی کو تو یقیناً ہم بھی رغبت رکھتے ہیں تیری طرف اس میں۔ اور میں سوال کرتا ہوں

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَلْبُ قُلُوبِنَا بِقَلْبِكَ فِي اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي

تجھ سے اے دل کو تبدیل کرنے والے تبدیل فرما ہمارے قلوب کو ذات باری میں مستغرق قلب والی تبدیلی کی طرح۔ اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ صُحْبَةَ الْخَوْفِ وَغَلْبَةَ الشُّوقِ وَثَبَاتَ الْعِلْمِ وَدَوَامَ

تجھ سے سوال کرتا ہوں خوف و خشیت کی ہمراہی اور شوق کے غلبہ۔ علم کے ثبوت و تحقق اور دوام

الْفِكْرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سَبِيلَ أَيْمَّةِ الْمُتَّقِينَ بِسْمِ اللَّهِ وَرَبِّهِ

فکر کا۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے متقی آئمہ کے راستہ کا، اللہ کے نام کے ساتھ اور

اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ حَسْبِيَ اللَّهُ أَمِنْتُ بِاللَّهِ

اللہ سے اور اللہ پر ہی چاہیے کہ توکل کریں اہل ایمان۔ کافی ہے مجھے اللہ۔ میں ایمان لایا اللہ کے ساتھ

رَضِيتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ مَعَ اللَّهِ اللَّهُمَّ

راضی ہوا اللہ کے ساتھ۔ میں نے توکل کیا اللہ تعالیٰ پر تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اے اللہ

فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوًّا رُفْعًا فَاجْعَلْنِي عَالِيًّا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

ہر شئی سے اوپر ہے تیری رفعت و برتری پس بنا مجھے بھی بلند مرتبت ہر شئی پر

حَتَّى الْوِلَايَةِ الْقُطَيْبِيَّةِ وَالْأَوْتَادِيَّةِ ثُمَّ مِنْهَا إِلَى الْعُرْفَانِ فِي

حتیٰ کہ ولایت قطیبیہ اور اوتادیہ پر پھر وہاں سے عرفان کے

الْمُشَاهَدَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ الَّتِي أَحْتَوَتْ بَيْنَ تِلْكَ الْعُكْسَاتِ

مختلف قسم کے مشاہدات پر جو سمٹے ہوئے ہیں ان عکسوں اور پرتوں کے درمیان

حَتَّى أَعَابِنَهَا مَعَ الْعَجَائِبِ فِي الْهَوَاءِ وَالْبَدَايِعِ فِي الْأَرْضِ

حتیٰ کہ میں ان کا معائنہ کروں معجوبوں کے عجائبات کے اور زمین کے بدیع اور آنکھوں کے

وَلَا تَقْصِرْ نِيَّ عَلَى عُلُودُونَ أَنْتَ الْعَالِي الْمَطْلُوقِ اجْعَلْنِي

اور مجھے بند اور منحصر نہ فرما نا ایک قسم کی بندگی پر سوائے دوسری کے تو ہی علی الاطلاق بلند و برتر ہے۔ بنا دے مجھے

شَبِيرًا بِالْعُلُويَّاتِ حَتَّى الْعَقْلِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ قُصُورٍ فِي

مشابہ علویات کے ساتھ حتیٰ کہ عقل اول کے بغیر کسی تصور و کوتاہی کے سلسلہ میں

السَّلْسَلَةِ مَعَ بَقَاءِ الْقُوَّةِ فِي الْإِعَادَةِ وَالتَّكْرُرِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ

مع باقی رہنے قوت اعادہ و تکرار کے اس راستہ میں بغیر

تَوَقُّفٍ وَاهْتِمَالٍ بَلْ بَطْئِ زَمَانِي أَوْ مَكَانِي فِي الصُّعُودِ وَالْهَبُوطِ

توقف کے اور مہمل رہنے کے بلکہ ساتھ سمٹنے زمان یا مکان کے اوپر جانے اور نیچے اترنے میں

بِخِيَالٍ صَحِيحٍ بَلْ بِفِعْلٍ لَهَا أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى تَصْعِيدِ الْكَثِيفِ وَ

ساتھ صحیال صحیح کے بلکہ ساتھ فعل کے کیونکہ تو قادر ہے کثیف کے اُپر لے جانے اور

تَهْبِطِ اللَّطِيفِ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِّنْ حِفْظِهِ

لطیف کے نیچے سے آنے پر لے سب غیوب کا علم کامل رکھنے والے جس کے حفظ سے کوئی شئی تجاوز نہیں کر سکتی

عَلَّمَنِي بِتَعْلِيمَاتٍ لَّدُنِّيَّةٍ مُّطَابِقَةٍ لِّمَا فِي غَيْبِكَ وَسِرِّكَ مِنْ

مجھے لدنی تعلیمات عطا کر جو مطابق ہیں تیرے علم غیب کے اور تیرے بھیدوں کے

مَوْضُوعَاتِكَ الْمَطْلُوقَةِ وَأَصْطِلَاحَاتِ كَلِمَاتِكَ مَرْبُوطَةٍ بِهَا

اپنی وضع کردہ مطلقہ اشیا میں اور اصطلاحات کلمہ میں کہ ربط دی گئی ہیں ان کے ساتھ

مِثَالَاتٍ وَجُزْئِيَّاتٍ وَشَوَاهِدَاتٍ تَقَرَّرَتْ فِي أَذْهَانِ عِبَادِكَ

مثالیں اور جزئیات اور شواہدات جو قرار پذیر ہیں تیرے مخلص بندوں کے ذہنوں میں

الْمُخْلِصِينَ مِنَ الْيَقِينِيَّاتِ الصَّادِقَةِ عَلَيْهَا أَوْلًا وَآخِرًا

یقینیات سے کہ صادق ہیں ان پر اول و آخر میں اس

مِنْ حَيْثُ أَسْمَاهِي فَأَجْعَلْهَا لِهَذَا الْعَبْدِ الدَّلِيلَ بِالْفِعْلِ

جسیت سے کہ وہ (شواہدات وغیرہ) یقینیات صادق ہیں پس بنا اس عاجز بندے کے لیے عملی طور

مَلَكَةَ الْإِنْصَافِ وَالْإِتِّصَالِ بِمُقَدِّمَاتِ أَوْلِيَّتِهِ ثُمَّ مَشْهُورَاتِ

پر استعدا انصاف و اتصال کی ساتھ مقدمات اولیہ پھر مشہورات مسلمہ

مُسْلِمَاتٍ بِحَيْثُ تَحْصُلُ لَنَا مِنْ غَيْرِ تَوْقِفٍ عَلَى شَرْطٍ أَوْ عِلَّةٍ

کے اس جسیت سے کہ حاصل ہوں ہمیں کسی شرط اور علت پر توفیق کے بغیر

بَلْ اجْعَلْ جَوْهَرِيَّ وَنَفْسِي النَّاطِقَةَ مُتَّبِعَةً بِحُوسِ الْعُلُومِ الْغَيْبِيَّةِ

بلکہ بنا دے میرے جوہر اور نفس ناطقہ کو متبوع علوم غیبیہ کے سمندروں کا

الَّتِي أَلْبَسْتَنِي بِهَا وَعَلَّمْتَنِي بِتَكْيِيفِ الْمَخَارِجِ بِإِرْشَادِ الْمُرْشِدِينَ

جوڑنے نہیں مانند لباس کے محیط کئے اور تعلیم دی ہمیں مخارج کی کیفیات متعین کرنے کے سبب مرشدین کی رہنمائی



لِّمُسْتَرْشِدِينَ بِإِطْلَاقِكَ لَهَا حَيْثُ شِئْتَ ثُمَّ فَهَّمْنِي مَا فِي ذَاتِكَ

کے واسطے طالبانِ رشد کے بسبب اطلاق فرمانے تیرے انہیں جہاں کہ چاہے۔ پھر سمجھا مجھے جو تیری ذات میں

مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ عُلُومٌ غَيْبِيَّةٌ مُّطْلَقَةٌ لَمْ تَنْتَقِشْ فِي اللُّوحِ

علوم جو کہ علوم غیبیہ مطلقہ ہیں کہ نہیں نقش پذیر ہوئے لوح

الْمَحْفُوظِ مَحْفُوظًا فِي قَلْبِ عَبْدِكَ هَذَا وَفِي خَزَانَةِ الْحِسِّ

محفوظ میں محفوظ بناتے ہوئے اپنے اس بندے کے دل میں اور اس کے خزانہ حس میں

مُتَّصِرًا فَاتْفِصِيلًا جُزْئِيًّا حَيْثُ شَاءَ مِنْ غَيْرِ فَايْتٍ وَلَا مُنْسِيٍّ

تصرف کرتے ہوئے ان میں ہر ہر جزئی میں تفصیلی طور پر بغیر کسی کے فوت ہوئے اور بھولنے کے

بِحَيْثُ إِذَا كَرَّرْتُ عَادَتُ وَأَسْتَحْضِرْتُ حَتَّى نَسَلُكَهَا فِي

اس حیثیت سے کہ جب تکرار کئے جائیں تو لوٹ آئیں اور متحضر ہو جائیں حتیٰ کہ جاری کریں ہم انہیں

طَرِيقَ شَفِيهِةٍ قَلِيلَةَ الْحُرُوفِ كَثِيرَةَ الْمَعَانِي بِحَيْثُ نَدِيرُهَا

ایسے مختصر طریقہ پر جو قلیل حروف اور کثیر معانی والا ہو اس حیثیت سے کہ ہم پھر میں انہیں

مِنْ كُلِّ وَضْعٍ عَلَى حَرْفٍ وَوَاحِدٍ حَتَّى يَتِمَّ كُلُّ بَيْتٍ مِّنَ الْأَدْبِيَّةِ

ہر وضع و کیفیت سے حرف واحد پر حتیٰ کہ تمام و کامل ہو جائے ہر بیت از روئے ادبیت کے

الْأَلْيَةِ ثُمَّ الشَّرْعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ يَا خَالِقَ الْأَنْطَاقِ وَالْكَلِمَاتِ فِي

جو آہ ہے از روئے مقصود کا پھر از روئے شرع و دین کے اے پیدا کرنے والے نطق اور کلمات کے

الْمَخَارِجِ وَالْمَفْهُومَاتِ مَعَ رِعَايَاتِ الْقَوَائِنِ فِي الْقُلُوبِ

مخارج میں اور مفہومات کے بمع رعایت قوانین کے قلوب میں

كُونَهَا فِي قَلْبِي وَارْكَزْهَا فِي نَفْسِي مُوَصَلَةً إِلَى تَصْدِيقَاتِ مَلَائِكَةِ

موجود کر انہیں میرے قلب میں اور مرکز کر انہیں میرے نفس میں درآئیکہ واصل کرنے والے ہوں ملکی تصدیقات،

وَتَصَوُّرَاتِ فَلَائِكَةِ وَقَضَايَا عَرَشِيَّةٍ وَبَدَائِعِ زُبُرِيَّةٍ حَتَّى

فکلی تصورات، عرش قضایا اور کتابی بدائع تک حتیٰ کہ

أَسْتَعْنِي مِنْ غَيْرِكَ سِوَى إِلَهَامِكَ ثُمَّ خَصَّصْتَنِي بِعُلُومٍ أَوْدَعْتَهَا

میں بے نیاز ہو جاؤں ماسوا سے سوائے تیرے الہام کے۔ پھر مجھے محض فرما ان علوم کے ساتھ جو تو نے ودیعت فرمائے

فِي قَلْبِ خَيْرِ الْكَائِنَاتِ وَأَبِ الْأَرْوَاحِ وَنَحْنُ مِنْ أُمَّتِهِ وَأَوْفَقْتَنِي

ہیں سید کائنات اور مبداء الارواح کے قلب اقدس میں جبکہ ہم آپ کی امت سے ہیں اور مجھے توفیق دے

عَلَى إِزَالَةِ مَوَانِعِ طُرُقِهَا وَحَوَادِثِ دَهْرِهَا وَجَوَابِ أَسْرَارِهَا

ان کے طرق میں موانع زائل کرنے اور حوادث دہر دور کرنے کی اور ان کے اسرار کھینچنے والوں پر کنٹرول کی۔

إِلَهِي أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْمُعَدِّينَ لِذَلِكَ

اے میرے الٰہ تو قادر ہے مجھے اس کی استعداد والوں سے بنانے پر

الْمُوفِّقِينَ بِأَنْفَالَاتِ لَاهُوتِكَ وَسَاءِ مُحَدَّرِ الْجِهَاتِ فَلِكِ

اور توفیق پانے والوں سے ساتھ اپنے لاهوتی عطیات کے جو محدد جہات فلک الافلاک کے

الْأَفْلَاقِ نَاطِرًا مُصَدِّقًا حِينَ التَّصَرُّفَاتِ بِتَصَرُّفَاتِكَ إِلَى

پرے ہیں دیکھتے ہوئے اور تصدیق کرتے ہوئے تصرفات کے دوران ساتھ اپنے تصرفات کے طرف

تَفَكُّرَاتِكَ وَاجْعَلِ الْأَجُودَ النَّعَالَةَ الْعَلَامَةَ النَّطَاقَةَ

اپنے تفکرات کے اور بنادے عمدہ گھوڑے نعل بند، امتیازی علامات والے، کمر بند والے کو

مُسَخَّرَةً لِفَقِيرِكَ وَعَبْدِكَ الْحَقِيرِ وَتَلَطَّفْ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ

مسخر واسطے اس اپنے فقیر اور عبد حقیر کے اور لطف و کرم فرما مجھ پر مختلف قسم کے

إِلَهَامَاتٍ وَخَوَابِرِ الْعَادَاتِ مَنَاعَةً حَرَّاقَةً لَهُمُومِ أَعْدَاءِ

الہامات اور کرامات کے ساتھ جو روکنے، جلانے والے ہوں

الْأَخْلَاقِ وَالْمُتَوَجِّهِينَ إِلَيْكَ بِحُسْنِ النِّيَّاتِ كَسَارَةً

اخلاق اور مخلص متوجہ الی اللہ لوگوں کے دشمنوں کے عزائم کو، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہوں

لِمُقَدَّمَاتِ الْمُتَغَلِّبِينَ فِي الْجَلَالِ بِالْقَيْلِ وَالْقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ

واسطے مقدمات ان لوگوں کے جو غالبہ پانے والے ہوں جلال و رعب میں ساتھ قیل و قال کے۔ اے اللہ صلوات



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَطَرَتْ فِيْهِ

کامل نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس محبوب کے منہ مبارک میں پینکا

قَطْرَةٌ مِّنْ بَحْرِ الْعِلْمِ الْأَنْزَلِيِّ وَأَعْطَى لَنَا عُلُومًا مِّنْ إِيَّاهِمْ عِلْمِ

ایک قطرہ علم ازلی کے سمندر سے اور عطا فرما ہمیں علوم علم ازلی

الْأَزَلِ وَالْأَبَدِ نَعْلَمُ بِهَا عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

و ابد کے تمام سے جن کے سبب معلوم کر لیں اولین و آخرین کا علم۔ اے اللہ رحمت کاملہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَهَبَهُ اللَّهُ رِقَائِقَ

نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائے

عُلُومِ الْأَنْزَلِ وَالْأَبَدِ وَعَلِمَهُ اللَّهُ دَقَائِقَ فَهُوَ مِ الْكَثْرَةِ وَ

علوم ازلی و ابد کے اصرار اور تقسیم وی انہیں کثرت و

الْوَحْدَةِ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا مِّنْ عُلُومِ كُلِّهِ وَقُدْرَةً مِّنْ

وحدت کے علوم و اذبان کے دقائق کی اور عطا کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام علوم سے علم اور قدرت

عُلُومِ كُنْ فَيَكُونُ وَمِنْ عُلُومِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَهِي لَوْ لَا

کن نیکیوں کے علوم سے اور ماکان و ما یكون کے علوم سے۔ اے میرے الٰہ اگر میں

جَهَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا شَكَوْتُ عَثْرَاتِي وَلَوْ لَا نَسِيتُ لِمَا ذَكَرْتُ

جاہل نہ ہوتا اپنے معاملہ سے تو شکایت نہ کرتا اپنی لغزشوں کی اور اگر نہ بھولتا جو یاد کئے میں نے

مِنَ الْأَفْرَادِ مَا سَفَحْتُ مِنْ عِبْرَاتِي فَأَصْلِحْ مُشْتَاتِ الْعَثْرَاتِ

افراد سے تو نہ بہاتا اپنے آنسو پس اصلاح فرما دے میری مختلف قسم کی لغزشات سے

بِمُرْسَلَاتِ الْعِبْرَاتِ وَهَبْ لِكَثِيرِ السَّيِّئَاتِ وَلِقَلِيلِ الْحَسَنَاتِ

بطفیل ان بہتے آنسوؤں کے اور بخش دے بہت گناہوں والے اور نچوڑی نیکیوں والے کو

إِلَهِي أَخْرَسَتِ الْمَعَاصِي لِسَانِي فَمَا لِي مِنْ وَسِيلَةٍ مِّنْ عَمَلِ

اے میرے الٰہ گونگا کر دیا ہے گناہوں نے میری زبان کو پس نہیں کوئی میرا وسیلہ عمل سے

وَلَا شَفِيعَ سِوَى الْأَمَلِ إِلَهَى أَقْصَتْنِي الْحَسَنَاتُ مِنْ جُودِكَ

اور نہ کوئی شفیع سوائے آرزو و امل کے۔ اے میرے اللہ اور کر دیا مجھے نیکیوں نے تیرے جود و

وَكْرَمِكَ وَالْقَتْنِي السَّيِّئَاتُ بَيْنَ عَفْوِكَ وَمَغْفِرَتِكَ إِنَّ رَجَائِي

کرم سے اور پھینک دیا مجھے براہوں نے تیری عفو اور مغفرت کے درمیان بے شک میری امید

لَا يَنْقُطُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ كَمَا أَنَّ خَوْفِي لَا يُزِيلُنِي مِنْكَ

تجھ سے منقطع نہیں ہوگی اگرچہ میں تیری نافرمانی ہی کروں جیسے کہ میرا خوف تیری ذات سے تجھ سے زائل نہ ہوگا

وَإِنْ أَطَعْتُكَ إِلَهَى لَا أَسْتَطِيعُ حَوْلًا عَنْ مَعْصِيَتِكَ إِلَّا

اگرچہ تیری اطاعت کروں۔ اے میرے اللہ میں طاقت نہیں رکھتا معصیت سے ہٹنے کی مگر

بِعِصْمَتِكَ وَالْقُوَّةَ لِي عَلَى الطَّاعَةِ إِلَّا بِتَوْفِيقِكَ مَنْ هُوَ فِي

تیرے بچانے کے سبب۔ اور نہیں قدرت مجھ میں طاعت پر مگر تیری توفیق سے، جو تیرے

قَبْضَةٍ قَهْرِكَ كَيْفَ لَا يَخَافُ وَمَنْ هُوَ دَائِرَتِي دَائِرَةٌ لَدَاتِكَ

قبضہ تیر میں ہے وہ کیسے خوف نہ کھائے اور جو محور گردش ہے تیری لذات (دیدار) کے

أَيْنَ يَذْهَبُ إِلَهَى أَنَا مَسْلُوبُ الْإِرَادَةِ عَارِعِنَ الْمَشِيعَةِ

دائرہ میں وہ کہاں جائے۔ اے میرے اللہ میں ارادہ سے خالی، مشیت سے عاری،

عَاجِزٌ عَنِ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةَ تَعَاظَمْتُ عَلَى الْكِبَرَاءِ وَالْعُظَمَاءِ

طاقت و قوت سے عاجز ہوں، تو عظیم تر ہے کبراء و عظماء پر

فَأَنْتَ الْعَظِيمُ الْكَبِيرُ وَتَكْرَمْتَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ فَأَنْتَ

پس فقط تو ہی عظیم و کبیر ہے اور تو ہی نے جود و کرم فرمایا فقراء اور اغنیاء پر پس تو ہی

الْغَنِيُّ الْكَرِيمُ وَمَنْدَتْ عَلَى الْعَصَاةِ وَالطَّائِعِينَ لِسَعَةِ رَحْمَتِكَ

غنی و کریم ہے اور احسان فرمایا تو نے عاصیوں اور سرکشوں پر اپنی وسیع رحمت کے سبب

فَأَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ تَعْلَمُ سِرَّنَا وَجَهْرُنَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِنَا

پس تو ہی رحمن و رحیم ہے تو جانتا ہے ہمارے خفیہ و علانیہ کو اور تو زیادہ جانتا ہے ہم کو

مَتَّافَانَتْ الْعَلِيمُ لَا تَدْبِيرٌ لِلْعَبْدِ مَعَ تَدْبِيرِكَ وَلَا أَرَادَ لَهُ

ہم سے پس فقط تو ہی علیم ہے۔ نہیں تدبیر بندے کی تیری تدبیر کے ساتھ اور نہ ارادہ

مَعَ مَشِيَّتِكَ وَتَقْدِيرِكَ لَوْلَا وَجُودُكَ لَمَا كَانَتْ الْمَخْلُوقَاتُ

اس کے لیے تیری مشیت و تقدیر کے ساتھ۔ اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو مخلوقات موجود نہ ہوتی

وَلَوْلَا حِكْمَةُ صُنْعِكَ لَمَا عَرَفْنَا الْمَصْنُوعَاتُ خَلَقْتَ الْآدَمِيَّ

اور اگر تیری صنعت میں حکمت نہ ہوتی تو مصنوعات کا عرفان نہ ہوتا۔ تو نے پیدا فرمایا آدمی کو

وَبَلَوْتَهُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ أَبْرَنْتَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ

اور اسے آزمایا حسنات و سیئات کے ساتھ۔ ظاہر کیا تو نے اسے اس جہان میں

لِمَعْرِفَتِكَ وَحَبَبْتَهُ عَنْ بَاطِنِ الْأَمْرِ بِظَاهِرِ الْمَرِيَّاتِ وَ

اپنی معرفت کے لیے اور حجاب میں رکھا اسے باطن امر سے ظاہری محسوس اشیاء کے ساتھ اور

كَشَفْتَ لِمَنْ شِئْتَ عَنْ سِرِّ سِرِّ التَّوْحِيدِ فِيهِذَا أَشْهَدُ

کشف فرمایا جس کے لیے چاہا توحید کے راز حقیقت کو تو اسی کی گواہی دے رہے ہیں

الْكُؤُنَ وَالتَّكْوِينِ وَالْكَائِنَاتِ وَأَشْهَدُ تَبَهُ عِنْدَ حَضْرَاتِ

وجود، ایجاد و خلق اور کائنات شاہد بنایا تو نے انہیں ساتھ اس امر کے اپنی بارگاہے

قُدْسِكَ بِلَطَائِفِ مَعَانِي سِرِّكَ الْبَاطِنِ فِي مَظَاهِرِ الْمَظَاهِرِ

مقدسہ میں اپنے منفی راز کے لطیف معانی کے ساتھ مظاہر کے ظواہر میں ساتھ

بِأَنْوَاعِ تَجَلِّيَّاتِ قُدْسِ وَحَدِيثِكَ وَمَحَبَّتِكَ فِي حَضْرَةِ

مختلف قسم کی تجلیات کے اپنی مقدس وحدت اور محبت سے اپنی بارگاہ

وَحَدِيثِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الرَّحْمَنُ وَأَنَا الْعَاصِيُ فَمَنْ يَدْعُ

وحدت میں۔ اے اللہ تو رحمن ہے اور میں گناہگار ہوں تو کسے پیکارے

الْعَاصِيُ إِلَّا الرَّحْمَنُ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَصِيرُ وَأَنَا الْأَعْمَى

عاصی سوائے رحمن کے اے رب۔ اے اللہ تو دیکھنے والا ہے اور میں اندھا ہوں



فَمَنْ يَدْعُ الْأَعْمَى إِلَّا الْبَصِيرَ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَافِظُ

تو کہے پکارے اندھا سوائے بصیر کے اے رب۔ اے اللہ تو حافظ و نگہبان ہے

وَأَنَا الْمَحْفُوظُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَحْفُوظَ إِلَّا الْحَافِظُ يَا رَبُّ

اور میں محتاجِ حفاظت ہوں تو کہے پکارے محتاجِ حفاظت سوائے محافظ کے اے رب

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْفَتَّاحُ وَأَنَا الْمَفْتُوحُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَفْتُوحَ

اے اللہ تو فتح دینے والا ہے اور میں فتح کا طالب ہوں تو کہے پکارے طلب گار فتح

إِلَّا الْفَتَّاحُ يَا رَبُّ وَبِحُرْمَةِ الْأَدْعِيَّاتِ افْتَحْ لَنَا بَابَ

سوائے فتح بخشنے والے کے۔ اے رب تعالیٰ ان دعاؤں کے طفیل ہمارے لیے کھول دے اپنی

الْعِنَايَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَوَفِّقْنَا لِلطَّاعَاتِ

عنايات اور کمنازلیوں کا دروازہ۔ اور ہمیں توفیق دے طاعات

وَالْعِبَادَاتِ وَاحْفَظْنَا مِنْ

و عبادات کی اور محفوظ رکھ ہمیں

الْأَفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ إِلَهِي أَنْتَ

آفات و بلیات سے۔ اے میرے اللہ تو ہی

الْوَاحِدُ فِي ذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ

یکانہ ہے اپنی ذات و صفات میں

بِالْوَهْبِيِّتِكَ يَا وَاحِدِيَا أَحَدُهُ

ساتھ اپنی الوہبیت کے اے واحد۔ اے احد

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ

فرمادیکئے وہ اللہ یگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے جنا۔ نہ وہ

يُولَدُ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

جنا گیا۔ اور نہیں اس کا کوئی مشابہ و مماثل۔